

**BOSE**<sup>®</sup>



## SoundTouch™ series II wireless adapter

Lifestyle SoundTouch™ 535/525/235/135

Lifestyle 535/525/235/135 series II, III



Owner's Guide • Brugervejledning • Bedienungsanleitung

Gebruikershandleiding • Guía del usuario • Käyttöohje

Notice d'utilisation • Manuale di istruzioni • Kezelési útmutató

Installasjonsveiledning • Instrukcja obsługi

Manual do proprietário • Bruksanvisning • คู่มือผู้ใช้ • 사용자 안내서

用户指南 • 使用者指南 • オーナーズガイド • دليل المالك

# Important Safety Instructions

---

Please take the time to carefully read this guide and follow the Important Safety Instructions.

-  The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle alerts the user to the presence of uninsulated, dangerous voltage within the system enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock.
-  The exclamation point within an equilateral triangle, as marked on the system, is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance instructions in this owner's guide.



## CAUTIONS:

- Make no modifications to the system or accessories.
- Unauthorized alterations may compromise safety, regulatory compliance, and system performance.



## WARNINGS:

- To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this product to rain or moisture.
- Do not expose this apparatus to dripping or splashing, and do not place objects filled with liquids, such as vases, on or near the apparatus. As with any electronic products, use care not to spill liquids into any part of the product. Exposure to liquids may create a failure and/or fire hazard.
- Do not place naked flame sources, such as lighted candles, on or near the product.

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with a dry cloth.
7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
10. Refer all servicing to qualified personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

## NOTES:

- The product label is located on the bottom of the product.
- The product must be used indoors. It is neither designed nor tested for use outdoors, in recreation vehicles, or on boats.

## Important Compliance Information

**Note:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

# Important Safety Instructions

## FCC WARNING

Changes or modifications not expressly approved by Bose Corporation could void the user's authority to operate this equipment.

## In USA and Canada

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003 / CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B).

This device complies with FCC and Industry Canada RF radiation exposure limits set forth for general population.

- This device must not be co-located or be operating in conjunction with any other antennas or transmitters.
- This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation.
- This equipment complies with FCC and Industry Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 8 inches (20 cm) between radiator and your body.



Bose Corporation hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC and all other applicable EU directive requirements. The complete Declaration of Conformity can be found at [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)



This symbol means the product must not be discarded as household waste, and should be delivered to an appropriate collection facility for recycling. Proper disposal and recycling helps protect natural resources, human health and the environment. For more information on disposal and recycling of this product, contact your local municipality, disposal service, or the shop where you bought this product.

Names and Contents of Toxic or Hazardous Substances or Elements						
	Toxic or Hazardous Substances and Elements					
Part Name	Lead (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent (CR(VI))	Polybrominated Biphenyl (PBB)	Polybrominated diphenylether (PBDE)
PCBs	X	O	O	O	O	O
Metal parts	X	O	O	O	O	O
Plastic parts	O	O	O	O	O	O
Speakers	X	O	O	O	O	O
Cables	X	O	O	O	O	O

This table is prepared in accordance with the provisions of SJ/T 11364.

O: Indicates that this toxic or hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement of GB/T 26572.

X: Indicates that this toxic or hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement of GB/T 26572

# Regulatory Information

## Please complete and retain for your records:

The serial and model number can be found on the bottom of the system.

Serial number: \_\_\_\_\_

Model number: \_\_\_\_\_

Purchase date: \_\_\_\_\_

We suggest you keep your receipt with this owner's guide.

App Store is a service mark of Apple Inc.

Amazon, Kindle and Fire are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates.

Android and Google Play are trademarks of Google Inc.

The *Bluetooth*<sup>®</sup> word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Bose Corporation is under license.



iHeartRadio is a registered trademark of iHeartMedia, Inc.

iTunes is a trademark of Apple Inc. , registered in the U.S. and other countries.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

This product incorporates Spotify software which is subject to 3rd party licenses found here:  
[www.spotify.com/connect/third-party-license](http://www.spotify.com/connect/third-party-license)

Spotify is a registered trademark of Spotify AB.

SoundTouch and the wireless note design are trademarks of Bose Corporation in the U.S. and other countries.

Wi-Fi is a registered trademark of Wi-Fi Alliance<sup>®</sup>.

Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries.

©2015 Bose Corporation. No part of this work may be reproduced, modified, distributed, or otherwise used without prior written permission.

# Contents

---

## Introduction

SoundTouch™ .....	7
System benefits .....	7

## SoundTouch™

Accessing SoundTouch™ .....	8
Selecting the SoundTouch™ source .....	8
Using the SoundTouch™ source screen.....	9
What you can do .....	9
How Presets work.....	10
What you need to know.....	10
Playing a Preset .....	10
Setting a Preset .....	10
Finding recently-played content .....	11

## Bluetooth®

Accessing Bluetooth® .....	12
Selecting the Bluetooth® source.....	12
Using the Bluetooth® source screen .....	13
Clearing the system's Bluetooth® pairing list.....	13

## Controlling the System Using the App

Using the SoundTouch™ app .....	14
Getting help.....	14
Controlling the system from another smartphone, tablet, or computer.....	14

# Contents

---

## Advanced Features

Control button.....	15
Wi-Fi® Indicator .....	15
Disabling Wi-Fi capability.....	15
Re-enabling Wi-Fi capability.....	15
Resetting the adapter.....	16

## Care and Maintenance

Troubleshooting .....	17
Adding a Wi-Fi network .....	18
Cleaning.....	18
Customer service.....	18
Limited warranty .....	18
Technical information.....	18

## Appendix A: Setting up SoundTouch™

Setting up using the SoundTouch™ app .....	19
Activate setup mode on the adapter.....	19
Add the system to an existing SoundTouch™ account .....	19
Download and install the SoundTouch™ app.....	19
Connect the system to your home Wi-Fi® network.....	19

## Appendix B: Mounting the Wireless Adapter

Mounting the adapter.....	20
Mounting options.....	20
To mount the adapter .....	20

## SoundTouch™

---

Your SoundTouch™ wireless music system provides clear, room-filling sound streamed wirelessly over your home Wi-Fi network. With SoundTouch™, you can stream Internet radio, music services, and your music library.

If you have Wi-Fi® at home and a SoundTouch™ ready entertainment system, you're ready to enjoy your favorite music in any room you want. Refer to your system owner's guide for setup instructions.

**Note:** If you purchased the adapter as an accessory, refer to the quick start guide for setup instructions.

### System benefits

- Enables your Bose entertainment system to stream music wirelessly using SoundTouch™.
- Enjoy wireless access to Internet radio, music services and your music library.
- Adds the SoundTouch™ source, enabling you to view and control your Presets, Recents, and Now Playing content on your TV.
- Free SoundTouch™ app lets you explore Internet radio, music services, and your music library from your computer, smartphone or tablet.
- Personalize up to six Presets to deliver your music with just one touch from your remote control.
- Wireless setup using your smartphone or tablet.
- Works with your existing home Wi-Fi network.
- Stream music from *Bluetooth*® enabled devices.
- Simply add additional systems at any time for a multi-room listening experience.
- Wide selection of Bose® audio systems lets you choose the right solution for any room.

# SoundTouch™

## Accessing SoundTouch™

You can access SoundTouch™ through the SOURCE menu on your entertainment system or through the SoundTouch™ app.

- SoundTouch™ source: Offers a subset of SoundTouch™ features that enable you to play Recents and personalize Presets.
- SoundTouch™ app: Offers full control of SoundTouch™, allowing you to manage your system settings, explore Internet radio, set and change Presets, stream music to the system, view what is playing, plus much more.

## Selecting the SoundTouch™ source

The SoundTouch™ source allows you to control your Presets, Recents, and Now Playing content using your system's remote control.

1. Power on your system.
2. Press the **SOURCE** button on your remote.

The SOURCE menu appears.



**Tip:** You can also press the SOURCE button on your control console.


3. Select **SoundTouch™**.

## Using the SoundTouch™ source screen

Using the remote control, you can access a subset of SoundTouch™ features from the source screen.

### What you can do

- Personalize and play Presets (page 10).
- Play Recents (page 11).
- View available artist information in the NOW PLAYING panel.
- Control playback (play, pause, stop, skip to the next track, etc.).
- View the music source of the content on the NOW PLAYING panel.



For greater control of your SoundTouch™ system, see “Using the SoundTouch™ app” on page 14.

## How Presets work

---

You can personalize six Presets to your favorite streaming music services, stations, playlists, artists, albums or songs from your music library. You can access your music, at any time, using the SoundTouch™ app on your computer, smartphone, tablet, or the SoundTouch™ source on your entertainment system.

### What you need to know

- You can set Presets from the app and your entertainment system.
- If the Preset source is your iTunes or Windows Media Player music library, ensure the computer storing your music library is on and connected to the same network as the SoundTouch™ system.

## Playing a Preset

---

Once you personalize your Presets, select a Preset using the remote control or the app to play it.

**Note:** If no music plays, see “Setting a Preset”.

## Setting a Preset

---

1. Stream music to your entertainment system using the app or the SoundTouch™ source.
2. While the music is playing, press and hold a Preset number with the remote control (about 2 seconds).

**Note:** For information on using the SoundTouch™ app to set and change your Presets, refer to in-app help.

## Finding recently-played content

The Recents list displays your 50 most recently-played SoundTouch™ items.

1. Select **Go To Recents**.

Go to  
Recents



The RECENTS panel appears.

Recently  
played  
content



2. Select an item.

## **Bluetooth®**

# Accessing Bluetooth®

You can access *Bluetooth* through the SOURCE menu on your entertainment system or through the SoundTouch™ app.

### Selecting the *Bluetooth*® source

The *Bluetooth* source allows you to pair and control your *Bluetooth* enabled devices using your system's remote control.

1. Power on your system.
2. Press the **SOURCE** button on your remote.

The SOURCE menu appears.



**Tip:** You can also press the SOURCE button on your control console.


3. Select **Bluetooth®**.

## Using the Bluetooth® source screen

Using the remote control, you can access a subset of *Bluetooth* features from the source screen.

### What you can do

- Pair and connect *Bluetooth* enabled devices.
- View available artist information in the NOW PLAYING panel.
- View connected devices.
- Control playback (play, pause, stop, skip to the next track, etc.).
- Clear the pairing list.



## Clearing the system's *Bluetooth*® pairing list

When you pair a *Bluetooth* enabled device to your system, the connection is stored in the system's pairing list. You may need to clear the pairing list if you cannot connect a device. Once you clear the list, you need to pair previously-paired devices again.

1. Press the button on the remote.
2. Select .

A message similar to *Pairing List Cleared* appears on the screen.

The system is ready to pair a device.

# Controlling the System Using the App

## Using the SoundTouch™ app

The SoundTouch™ app is a software application that enables you to set up and control SoundTouch™ from your smartphone, tablet, or computer. Using the app, your smart device acts as a rich remote for your SoundTouch™ system.

The app enables you to manage your SoundTouch™ settings, add music services, explore local and global Internet radio stations, set and change Presets, stream music to the system, view what is playing, plus much more.

After you set up the system on your network using the SoundTouch™ app, you are ready to explore streaming music and personalize your Presets.

### Getting help

#### [SoundTouch.com](#)

Provides access to the owner support center, which includes: owner's manuals, articles, tips, tutorials, a video library, and the owner community where you post questions and answers.

1. Open a browser.
2. In the address field, type SoundTouch.com

### In-app help

Provides help articles for using SoundTouch™.

1. On your device, select  to open the app.
2. From the EXPLORE panel, select **HELP**.


### Controlling the system from another smartphone, tablet, or computer

Once you set up the SoundTouch™ system on your home Wi-Fi® network, you can control the system from any smartphone, tablet, or computer on the same network.

1. Connect the device to the same network as your system.
2. On the device, download and install the SoundTouch™ app:
  - iOS users: download from the App Store
  - Android™ users: download on the Google Play™ store
  - Amazon Kindle Fire users: download from the Amazon Appstore for Android
  - If you are using a computer, open a browser and go to:  
**[SoundTouch.com/app](#)**

### Control button

The SoundTouch™ wireless adapter provides advanced functionality through the press and hold of the Control button.



### Wi-Fi® Indicator

The Wi-Fi indicator on the back of the adapter indicates Wi-Fi status.

Indicator activity	System state
Blinking white	Connecting to Wi-Fi network
Solid white	System on and connected to Wi-Fi network
Solid amber	System in setup mode
Blinking slow amber	Disconnected from Wi-Fi network
Blinking fast amber	Firmware error - call Bose service
Off	Wi-Fi networking disabled or system connected to Ethernet

### Disabling Wi-Fi® capability

Disabling Wi-Fi also disables the *Bluetooth*® feature.

1. Power on your entertainment system.
2. Press and hold the adapter's Control button (8-10 seconds).
3. When the Wi-Fi indicator turns off, release the Control button.

### Re-enabling Wi-Fi® capability

Re-enabling Wi-Fi also re-enables the *Bluetooth*® feature.

1. Power on your entertainment system.
2. Press the adapter's Control button.

## Advanced Features

---

### Resetting the adapter

---

Factory reset clears all source and network settings from the system and returns it to original factory settings.

**Note:** This reset function erases your SoundTouch™ Presets and saved network credentials.

1. Power on your entertainment system.
2. Disconnect the Bose® link cable.
3. Press and hold the control button while reconnecting the cable.
4. Launch the SoundTouch™ app on your computer and add the system to your network.

## Troubleshooting

Problem	What to do
Cannot complete network setup or unable to detect adapter	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plug the SoundTouch™ wireless adapter into the Bose link connector on the control console.</li> <li>• Connect the USB cable to the wireless adapter and control console. This cable needs to remain connected for the system to work properly.</li> <li>• Connect the system to AC (mains) power.</li> <li>• Select the correct network name and enter password.</li> <li>• Connect the device and SoundTouch™ system to the same Wi-Fi® network.</li> <li>• Place the wireless adapter within range of the router.</li> <li>• Enable Wi-Fi on the device (mobile or computer) you are using for setup.</li> <li>• Close other open applications.</li> <li>• If using a computer for setup, check firewall settings to ensure that the SoundTouch™ app and SoundTouch™ Music Server are allowed programs.</li> <li>• Test your internet connection by loading <a href="http://www.SoundTouch.com">www.SoundTouch.com</a></li> <li>• Restart your mobile device or computer, and router.</li> <li>• Reboot your SoundTouch™ system (refer to the help system in the app).</li> <li>• Uninstall the app, reset the system, and restart setup.</li> <li>• Un-hide your network if it is hidden to complete setup.</li> </ul>
Cannot connect to network	<ul style="list-style-type: none"> <li>• If your network has changed or to connect your system to another network, refer to the Help system in the app.</li> <li>• Connect to the network using an Ethernet cable.</li> </ul>
SoundTouch™ or Bluetooth® does not appear in the source menu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Update the control console. Refer to your entertainment system's operating guide.</li> <li>• Ensure the Bose® link cable and the USB cable are fully connected to the wireless adapter and the control console. These cables need to remain connected for the system to work properly.</li> <li>• Complete SoundTouch™ setup. See page 19.</li> </ul>
Cannot play Bluetooth® audio	<p>On your system:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pair a device using the <i>Bluetooth SOURCE</i> screen (page 13).</li> <li>• Try pairing a different device.</li> <li>• See "No sound" in your system operating guide.</li> <li>• Set up SoundTouch™ first, and perform all system updates.</li> <li>• Clear the system's pairing list (page 13).</li> </ul> <p>On your mobile device:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disable and re-enable the <i>Bluetooth</i> feature.</li> <li>• Remove the system from the <i>Bluetooth</i> menu. Pair again.</li> <li>• Refer to your <i>Bluetooth</i> enabled device's documentation.</li> </ul>

## Care and Maintenance

---

### Adding a Wi-Fi® network

---

If your network information has changed, or to connect your system to another network, you must add the new network information under Network Setup in the UNIFY® menu on your entertainment system.

1. Power on your entertainment system.
2. Press the **Setup** button on the control console's button panel.  
The UNIFY menu appears.
3. Select **Network setup**.
4. Follow the onscreen instructions to change your network.

## Cleaning

---

To clean the SoundTouch™ wireless adapter, wipe the enclosure using a soft, dry cloth.

- Do not use solvents, chemicals, or sprays.
- Do not allow liquids to spill or objects to drop into any openings.

## Customer service

---

For additional help using the system:

- Visit [SoundTouch.com](http://SoundTouch.com)
- Contact Bose® Customer Service. Refer to the contact sheet in the carton.

## Limited warranty

---

Your SoundTouch™ wireless adapter is covered by a limited warranty. Details of the limited warranty are provided on the Important Safety Instructions sheet in the carton. Please refer to the Important Safety Instructions sheet for instructions on how to register. Failure to do so will not affect your limited warranty rights.

The warranty information provided with this product does not apply in Australia and New Zealand. See our website at [www.Bose.com.au/warranty](http://www.Bose.com.au/warranty) or [www.Bose.co.nz/warranty](http://www.Bose.co.nz/warranty) for details of the Australia and New Zealand warranty.

## Technical information

---

<b>Size:</b>	2" H x 2 ½" W x 9 ¾" D (5.1 cm x 6.4 cm x 23.8 cm)
<b>Weight:</b>	.75 lb (.34 kg)

## Appendix A: Setting up SoundTouch™

### Setting up using the SoundTouch™ app

If you are unable to complete network setup through UNIFY® or if you did not complete setup with the SoundTouch™ app, you must download and install the Bose® SoundTouch™ controller app onto a smartphone, tablet, or computer that is connected to your network. The app guides you through connecting the system to your network.

#### Activate setup mode on the adapter

1. On the back of the SoundTouch™ wireless adapter, press and hold the Control button for 1 - 8 seconds.
2. When the amber Wi-Fi® indicator blinks, release the Control button. The Wi-Fi indicator should be solid amber.

#### Add the system to an existing SoundTouch™ account

If you have already set up SoundTouch™ for another system, you do not need to download the SoundTouch™ app again.

1. On your smartphone or tablet, select the SoundTouch™ icon  to launch the app.
2. Select **EXPLORE > SETTINGS > Systems > ADD SYSTEM** to add another system.

The app guides you through setup.

#### Download and install the SoundTouch™ app

On your smartphone, tablet, or computer, download the **SoundTouch™ controller app**.



Bose® SoundTouch™  
controller app

- iOS users: download from the App Store
- Android™ users: download on the Google Play™ store
- Amazon Kindle Fire users: download from the Amazon Appstore for Android
- If you are using a computer, open a browser and go to:  
[SoundTouch.com/app](http://SoundTouch.com/app)

#### Connect the system to your home Wi-Fi® network

After you install the app, add the system to your network:

1. On your smartphone, tablet, or computer, select  to launch the app.  
The app guides you through connecting the system to your Wi-Fi network.
2. Follow the instructions in the app to complete setup, including creating a SoundTouch™ account, adding a music library and music services.

## Appendix B: Mounting the Wireless Adapter

### Mounting the adapter

You can mount the adapter on a wall (hardware not included). If your mounting hardware comes with instructions that differ from these instructions, follow the instructions supplied with your hardware.

This table describes mounting hardware specifications.

Item	Wood	Wallboard
Wall thickness	$\frac{3}{4}$ in. (19 mm) or thicker	$\frac{3}{8}$ in. (9.5 mm) or thicker
Drill bit	$\frac{1}{8}$ in. (3 mm)	$\frac{3}{16}$ in. (4.5 mm)
Pan-head wood screws (2)	#8 x 1 $\frac{1}{4}$ in. (32 mm)	#8 x 1 $\frac{1}{4}$ in. (32 mm)
Plastic wall anchors (2)	Not used	#6 - 8 x 1 in. (25 mm)


### Mounting options

There are two ways to mount the adapter:

- Vertically; connector panel facing left
- Horizontally; connector panel facing up

### To mount the adapter

1. Drill two holes 6  $\frac{1}{4}$  in. (159 mm) center-to-center.



2. Insert plastic wall anchors (if mounting to wallboard).

3. Install pan-head wood screws.

**Note:** Leave the screw heads  $\frac{1}{4}$  in. (6.35 mm) above wall surface.

4. Position adapter onto the screws.



# Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Tag dig tid til at læse denne vejledning omhyggeligt, og følg de vigtige sikkerhedsinstruktioner.

 Lynet med et pilehoved indeni en ligesidet trekant gør brugeren opmærksom på, at der i systemets kabinet kan være uisolert farlig spænding, som kan være så kraftig, at der er risiko for elektrisk stød.

 Mærket med et udråbstegn i en ligesidet trekant skal gøre brugeren opmærksom på vigtige betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner i denne brugervejledning.



## FORSIGTIG:

- Undlad at foretage ændringer i systemet eller tilbehøret.
- Uautoriserede ændringer kan sætte sikkerheden, overholdelse af lovbestemmelser samt systemets ydeevne over styr.



## ADVARSLER:

- Systemet må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risikoen for brand eller elektrisk stød.
- Udsæt ikke dette apparat for dryp eller stånek, og placer ikke genstande, der er fyldt med væske, på eller nær ved apparatet. Som det gælder for alle elektriske apparater skal du passe på ikke at spilde væske på nogen dele af produktet. Hvis produktet udsættes for væske, kan det medføre fejl og/eller risiko for brand.
- Placer ikke nogen form for åben ild (f.eks. stearinlys) på eller tæt ved apparatet.

1. Læs disse instruktioner.
2. Gem disse instruktioner.
3. Ret dig efter alle advarsler.
4. Følg alle instruktioner.
5. Anvend ikke dette apparat i nærheden af vand.
6. Rengør kun med en tør klud.
7. Undgå at blokere ventilationsåbningerne. Installer i overensstemmelse med producentens instruktioner.
8. Installer ikke i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeovne, komfurter eller andre apparater (herunder forstærkere), der producerer varme.
9. Brug kun tilslutningsudstyr/tilbehør, der er angivet af producenten.
10. Overlad al service til kvalificeret servicepersonale. Et serviceeftersyn er påkrævet, når apparatet på nogen måde er beskadiget, hvis f.eks. netledningen eller stikket er beskadiget, der er blevet spildt væske, eller der er kommet objekter ind i apparatet, hvis apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, ikke virker normalt eller er blevet tabt.

## NOTER:

- Produktmærkaten er placeret i bunden af produktet.
- Produktet skal anvendes inden døre. Det er hverken designet eller testet til udendørs brug, brug i fritidskøretøjer eller i både.

## Vigtige oplysninger om overensstemmelse

**Bemærk:** Dette udstyr er testet og det er blevet konstateret, at det overholder grænseværdierne for en digital enhed i Klasse B i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er udviklet til at yde rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en privat installation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og kan – hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne – forårsage skadelig interferens i forbindelse med radiokommunikation. Dette garanterer dog ikke, at der ikke kan forekomme interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i forbindelse med radio- og tv-modtagelsen, hvilket kan kontrolleres ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugere til at forsøge at eliminere interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende fremgangsmåder:

- Ret modtageantennen i en anden retning, eller flyt antennen.
- Skab større afstand mellem udstyret og modtageren.
- Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsloch end det, som modtageren er tilsluttet.
- Kontakt forhandleren eller en radio/tv-tekniker for at få hjælp.

# Vigtige sikkerhedsinstruktioner

## FCC-ADVARSEL

Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af Bose Corporation, kan ophæve brugerens ret til at betjene dette udstyr.

## I USA og Canada

Dette apparat overholder afsnit 15 i FCC-reglerne. Driften er underlagt følgende to betingelser:

- (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.

Dette digitale apparat i klasse B er i overensstemmelse med den canadiske ICES-003/CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B).

Denne enhed overholder FCC's og Industry Canadas strålingseksponeeringsgrænser for befolkningen i almindelighed.

- Denne enhed må ikke placeres eller anvendes sammen med nogen andre antenner eller sendere.
- Denne enhed efterlever Industry Canadas licensfristede RSS-standard(er). Driften er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.
- Dette udstyr overholder FCC's og Industry Canadas grænser for strålingseksponeering, således som disse er fastsat for et ikke-kontrolleret miljø. Dette udstyr skal installeres og anvendes med en afstand på mindst 20 cm mellem strålingskilden og din krop.



Bose Corporation erklærer hermed, at dette produkt stemmer overens med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF og alle andre relevante krav i EU-direktiver. Den fulde overensstemmelseserklæring finder du på [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)



Dette symbol betyder, at produktet ikke må smides ud som husholdningsaffald og bør indleveres til en passende indsamlingsordning med henblik på genanvendelse. Korrekt bortskaffelse og genanvendelse bidrager til at beskyttes naturressourcer, menneskets sundhed og miljøet. Hvis du ønsker flere oplysninger om bortskaffelse og genanvendelse af dette produkt, kan du kontakte din kommune, dit renovationsselskab eller den butik, hvor du har købt dette produkt.

Navne på og indhold af giftige eller farlige stoffer eller elementer						
	Giftige eller farlige stoffer og elementer					
Delens navn	Bly (Pb)	Kviksølv (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent (Cr(VI))	Polybromeret biphenyl (PBB)	Polybromeret diphenylether (PBDE)
PCB'er	X	O	O	O	O	O
Metaldele	X	O	O	O	O	O
Plastikdele	O	O	O	O	O	O
Højtalere	X	O	O	O	O	O
Kabler	X	O	O	O	O	O

Denne tabel er oprettet i henhold til bestemmelserne i SJ/T 11364.

O: Angiver, at dette giftige eller skadelige stof, som findes i alle de homogene materialer for denne del, er under grænsekravet i GB/T 26572.

X: Angiver, at dette giftige eller skadelige stof, som findes i mindst ét af de homogene materialer, der anvendes til denne del, er over grænsekravet i GB/T 26572

# Oplysninger om regler

## **Bedes udfyldt og opbevaret, så du har det til rådighed:**

Serie- og modelnummeret er placeret i bunden af systemet.

Serienummer: \_\_\_\_\_

Modelnummer: \_\_\_\_\_

Købsdato: \_\_\_\_\_

Vi anbefaler, at du opbevarer kvitteringen sammen med denne brugervejledning.

App Store er et servicemærke, der tilhører Apple Inc.

Amazon, Kindle og Fire er varemærker, der tilhører Amazon.com, Inc. eller dets associerede selskaber.

Android og Google Play er varemærker, der tilhører Google Inc.

Bluetooth®-ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker, der ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker fra Bose Corporations side finder sted under licens.



iHeartRadio er et registreret varemærke, der tilhører iHeartMedia, Inc.

iTunes er et varemærke tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande.

Begreberne HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører HDMI Licensing LLC i USA og andre lande.

Dette produkt indeholder Spotify-software, der er underlagt de tredjepartslicenser, der findes her: [www.spotify.com/connect/third-party-license](http://www.spotify.com/connect/third-party-license)

Spotify er et registreret varemærke tilhørende Spotify AB.

SoundTouch og designet med den trådløse node er varemærker, der tilhører Bose Corporation i USA og andre lande.

Wi-Fi er et registreret varemærke, der tilhører Wi-Fi Alliance®.

Windows er et registreret varemærke, der tilhører Microsoft Corporation i USA og andre lande.

©2015 Bose Corporation. Gengivelse, ændring, distribution eller anden brug af dette dokument eller dele heraf er forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse.

**Indledning**

SoundTouch™ .....	7
Systemets fordele .....	7

**SoundTouch™**

Adgang til SoundTouch™ .....	8
Valg af SoundTouch™-kildetasten .....	8
Brug af SoundTouch™-kildeskærmbilledet .....	9
Hvad du kan gøre .....	9
Sådan fungerer forudindstillinger .....	10
Det skal du vide .....	10
Afspilning af en forudindstilling .....	10
Indstilling af en forudindstilling .....	10
Sådan finder du indhold, der er afspillet for nylig .....	11

**Bluetooth®**

Adgang til Bluetooth® .....	12
Valg af Bluetooth®-kilden .....	12
Anvendelse af Bluetooth®-kildeskærmbilledet .....	13
Rydning af systemets Bluetooth® parringsliste .....	13

**Betjening af systemet med app'en**

Brug af SoundTouch™-app'en .....	14
Sådan får du hjælp .....	14
Betjening af systemet fra en anden smartphone, tablet eller computer .....	14

**Avancerede funktioner**

Betjeningsknap .....	15
Wi-Fi®-indikator .....	15
Deaktivering af Wi-Fi®-funktion .....	15
Genaktivering af Wi-Fi-funktionen .....	15
Nulstilling af adapteren .....	16

# Indhold

---

## Pleje og vedligeholdelse

Fejlfinding .....	17
Tilføjelse af et Wi-Fi®-netværk.....	18
Rengøring.....	18
Kundeservice.....	18
Begrænset garanti .....	18
Tekniske oplysninger.....	18

## Appendiks A: Opsætning af SoundTouch™

Opsætning ved hjælp af SoundTouch™ app'en.....	19
Aktivér opsætningstilstanden på adapteren.....	19
Tilføj systemet til en eksisterende SoundTouch™-konto .....	19
Hent og installer SoundTouch™-app'en .....	19
Slut systemet til dit Wi-Fi®-hjemmenetværk .....	19

## Appendiks B: Montering af den trådløse adapter

Montering af adapteren .....	20
Monteringsmuligheder .....	20
Sådan monteres adapteren.....	20

## SoundTouch™

Dit trådløse SoundTouch™-musiksystem giver klar lyd, der fylder rummet, streamet trådløst via dit Wi-Fi-hjemmenetværk. Med SoundTouch™ kan du stremme internetradio, musiktjenester og dit musikbibliotek.

Hvis du har Wi-Fi® derhjemme og et SoundTouch™-klart underholdningssystem, er du parat til at nyde din yndlingsmusik i alle de rum, du vil. Se brugervejledningen til dit system for at få flere oplysninger til opsætning.

**Bemærk:** Hvis du købte adapteren som tilbehør, findes der instruktioner til opsætning i lynstartvejledningen.

### Systemets fordele

- Giver dit Bose-underholdningssystem mulighed for at stremme musik trådløst ved hjælp af SoundTouch™.
- Få trådløs adgang til internetradio, musiktjenester og dit musikbibliotek.
- Tilføjer SoundTouch™-kilden, så du kan se og styre indholdet af Forudindstillinger, Seneste og Nu afspilles på dit tv.
- Gratis SoundTouch™-app giver dig mulighed for at anvende internetradio, musiktjenester og dit musikbibliotek fra din computer, smartphone eller tablet.
- Tilpas op til seks forudindstillinger for at få din musik leveret med blot ét tryk på din fjernbetjening.
- Trådløs opsætning af din smartphone eller tablet.
- Fungerer med dit eksisterende Wi-Fi-hjemmenetværk.
- Stream musik fra *Bluetooth*®-aktiverede enheder.
- Du kan til enhver tid tilføje flere systemer, så du kan få lyd i flere rum.
- Et bredt udvalg af Bose®-lydsystemer giver dig mulighed for at vælge den rigtige løsning til ethvert rum.

## Adgang til SoundTouch™

Du kan få adgang til SoundTouch™ via menuen KILDE på dit underholdningssystem eller via SoundTouch™-app'en.

- SoundTouch™-kildetast: Tilbyder en samling SoundTouch™-funktioner, der giver dig mulighed for at afspille Seneste og tilpasse forudindstillinger.
- SoundTouch™-app: Tilbyder fuld kontrol over SoundTouch™, så du kan administrere dine systemindstillinger, udforske internetradio, indstille og ændre forudindstillinger, streame musik til systemet, få vist, hvad der afspilles, og meget mere.

## Valg af SoundTouch™-kildetasten

SoundTouch™-kildetasten giver dig mulighed for at styre indholdet af Forudindstillinger, Seneste og Nu afspilles ved hjælp af systemets fjernbetjening.

1. Tænd dit system.
2. Tryk på **SOURCE**-knappen på fjernbetjeningen.  
Menuen KILDE vises.



**Tip:** Du kan også trykke på knappen KILDE på din betjeningskonsol.


3. Vælg **SoundTouch™**.

# Brug af SoundTouch™-kildeskærmbilledet

Ved hjælp af fjernbetjeningen kan du få adgang til en række SoundTouch™-funktioner fra kildeskærmbilledet.

## Hvad du kan gøre

- Tilpasse og afspille forudindstillinger (side 10).
- Afspille Seneste (side 11).
- Se tilgængelige oplysninger om kunstneren i NU AFSPILLES-panelet.
- Styre afspilning (afspil, pause, stop, gå til næste nummer etc.).
- Se musikkilde for indholdet på NU AFSPILLES-panelet.



Hvis du ønsker bedre kontrol med SoundTouch™-systemet, kan du finde flere oplysninger under "Brug af SoundTouch™-app'en" på side 14.

## Sådan fungerer forudindstillinger

---

Du kan tilpasse seks forudindstillinger til dine foretrukne streamingmusiktjenester, stationer, afspilningslister, kunstnere, albummer eller musiknumre fra dit musikbibliotek. Du kan få adgang til din musik når som helst ved at bruge SoundTouch™-app'en på din computer, smartphone eller tablet eller SoundTouch™-kildetasten på dit underholdningssystem.

### Det skal du vide

- Du kan indstille forudindstillinger fra app'en og dit underholdningssystem.
- Hvis forudindstillingskilden er dit iTunes- eller Windows Media Player-musikbibliotek, skal du sørge for, at computeren med dit musikbibliotek er tændt og tilsluttet til samme netværk som SoundTouch™-systemet.

## Afspilning af en forudindstilling

---

Når du tilpasser dine forudindstillinger, skal du vælge en forudindstilling ved hjælp af fjernbetjeningen eller app'en for at afspille den.

**Bemærk:** Se "Indstilling af en forudindstilling", hvis der ikke afspilles musik.

## Indstilling af en forudindstilling

---

1. Stream musik til dit underholdningssystem ved hjælp af app'en eller SoundTouch™-kildetasten.
2. Mens musikken afspilles, skal du trykke på et nummer for en forudindstilling med fjernbetjeningen og holde den nede (ca. 2 sekunder).

**Bemærk:** Du kan finde oplysninger om brug af SoundTouch™-app'en til at indstille og ændre dine forudindstillinger i Hjælp-systemet i app'en.

# Sådan finder du indhold, der er afspillet for nylig

Listen Seneste viser dine 50 senest afspillede SoundTouch™-elementer.

## 1. Vælg **Gå til Seneste**.

Gå til  
Seneste



Panelet SENESTE vises.

Senest  
afspillet  
indhold



## 2. Vælg et element.

# **Bluetooth®**

## **Adgang til Bluetooth®**

Du kan få adgang til *Bluetooth* via menuen KILDE på dit underholdningssystem eller via SoundTouch™-app'en.

### **Valg af Bluetooth®-kilden**

Med *Bluetooth*-kilden kan du parre og kontrollere dine *Bluetooth*-aktiverede enheder ved hjælp af systemets fjernbetjening.

1. Tænd dit system.
2. Tryk på **SOURCE**-knappen på fjernbetjeningen.

Menuen KILDE vises.



**Tip:** Du kan også trykke på knappen KILDE på din betjeningskonsol.


3. Vælg **Bluetooth®**.

## Anvendelse af Bluetooth®-kildeskærmbilledet

Ved hjælp af fjernbetjeningen kan du få adgang til en delmængde af Bluetooth-funktioner fra kildeskærmbilledet.

### Hvad du kan gøre

- Par og tilslut dine Bluetooth-aktiverede enheder.
- Se tilgængelige oplysninger om kunstneren i NU AFSPILLES-panelet.
- Vis tilsluttede enheder.
- Styr afspilning (afspil, pause, stop, gå til næste nummer etc.).
- Ryd parringslisten.



## Rydning af systemets Bluetooth® parringsliste

Når du parer en Bluetooth-aktiveret enhed med dit system, gemmes tilslutningen på systemets parringsliste. Det kan være nødvendigt, at du rydder parringslisten, hvis du ikke kan tilslutte en enhed. Når du har ryddet listen, bliver du nødt til at parre de tidligere parrede enheder igen.

1. Tryk på -knappen på fjernbetjeningen.
2. Vælg .

En meddelelse svarende til *parringslisten er ryddet* vises på skærmen.

Systemet er klar til at blive parret til en enhed.

# Betjening af systemet med app'en

---

## Brug af SoundTouch™-app'en

---

SoundTouch™ app'en er en softwareapplikation, der giver dig mulighed for at konfigurere og betjene SoundTouch™ fra din smartphone, tablet eller computer. Med app'en fungerer din smart-enhed som en fjernbetjening med mange funktioner til dit SoundTouch™-system.

App'en giver dig mulighed for at håndtere dine SoundTouch™-indstillinger, tilføje musiktjenester, udforske lokale og globale internetradiostationer, indstille og ændre forudindstillinger, streame musik til systemet, få vist, hvad der afspilles, og meget mere.

Når du har opsat systemet på dit netværk med SoundTouch™-app'en, er du klar til at udforske streaming af musik og foretage en personlig tilpasning af dine forudindstillinger.

### Sådan får du hjælp



Giver adgang til ejerens supportcenter, der inkluderer: brugervejledninger, artikler, tips, selvstudier, et videobibliotek og ejergruppen, hvor du kan angive spørgsmål og svar.

1. Åbn en browser.
2. I adressefeltet skal du indtaste SoundTouch.com

### Hjælp i app'en

Indeholder hjælpeartikler til, hvordan du bruger SoundTouch™.

1. På din enhed skal du vælge  for at åbne app'en.
2. I søgerpanelet skal du vælge **HJÆLP**.

## Betjening af systemet fra en anden smartphone, tablet eller computer


Når du har konfigureret SoundTouch™-systemet på dit Wi-Fi®-hjemmenetværk, kan du betjene systemet fra enhver smartphone, tablet eller computer på det samme netværk.

1. Slut enheden til det samme netværk som dit system.
2. Download og installer SoundTouch™-app'en på enheden:
  - iOS-brugere: Download fra App Store
  - Android™-brugere: Download fra Google Play™ store
  - Amazon Kindle Fire-brugere: download fra Amazon Appstore til Android
  - Hvis du bruger en computer, skal du åbne en browser og gå til:

**SoundTouch.com/app**

### Betjeningsknap

Den trådløse SoundTouch™-adapter tilbyder avanceret funktionalitet, hvis du trykker på betjeningsknappen og holder den nede.



### Wi-Fi®-indikator

Wi-Fi-indikatoren på adapterens bagside angiver Wi-Fi-status.

Indikatoraktivitet	Systemtilstand
Blinker hvidt	Oprettet forbindelse til Wi-Fi-netværk
Lyser hvidt	Systemet er tændt og har forbindelse til Wi-Fi-netværket
Lyser gult konstant	System i opsætningstilstand
Blinker langsomt gult	Ingen forbindelse til Wi-Fi-netværk
Blinker hurtigt gult	Firmwarefejl – ring til Boses service
Fra	Wi-Fi-netværk er deaktiveret, eller systemet har Ethernet-forbindelse

### Deaktivering af Wi-Fi®-funktion

Deaktivering af Wi-Fi deaktiverer også Bluetooth®-funktionen.

1. Tænd dit underholdningssystem.
2. Tryk på adapterens betjeningsknap, og hold den nede (8-10 sekunder).
3. Når Wi-Fi-indikatoren slukkes, skal du slippe Control-knappen.

### Genaktivering af Wi-Fi-funktionen

Genaktivering af Wi-Fi genaktiverer også Bluetooth®-funktionen.

1. Tænd dit underholdningssystem.
2. Tryk på adapterens betjeningsknap.

## Avancerede funktioner

---

### Nulstilling af adapteren

---

Fabriksnulstilling rydder alle indstillinger for kilde og netværk fra systemet, så de oprindelige fabriksindstillinger igen er gældende.

**Bemærk:** Denne nulstillingsfunktion sletter dine SoundTouch™-forudindstillinger og dine gemte netværkslegitimationsoplysninger.

1. Tænd dit underholdningssystem.
2. Frakobl Bose® link-kablet.
3. Tryk på og hold nede på kontrolknappen, når du tilslutter kablet igen.
4. Start SoundTouch™-app'en på din computer, og tilføj systemet til dit netværk.

## Fejlfinding

Problem	Gør følgende
Kan ikke gennemføre netværksopsætningen eller kan ikke registrere adapter	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tilslut den trådløse SoundTouch™-adapter til Bose link-stikket på betjeningsmodulet.</li> <li>Tilslut USB-kablet til den trådløse adapter og betjeningskonsollen. Dette kabel skal forblive tilsluttet, for at systemet fungerer korrekt.</li> <li>Tilslut systemet til lysnettet.</li> <li>Vælg det korrekte netværksnavn, og indtast adgangskode.</li> <li>Tilslut enheden og SoundTouch™-systemet til det samme Wi-Fi®-netværk.</li> <li>Placer den trådløse adapter inden for routerens rækkevidde.</li> <li>Aktivér Wi-Fi på den enhed (mobil eller computer), du bruger til opsætningen.</li> <li>Luk andre åbne programmer.</li> <li>Hvis du bruger en computer til opsætning, skal du kontrollere, at SoundTouch™-app'en og SoundTouch™ Music Server er tilladte programmer.</li> <li>Test din internetforbindelse ved at indlæse <a href="http://www.SoundTouch.com">www.SoundTouch.com</a></li> <li>Genstart din mobile enhed eller computer og router.</li> <li>Genstart dit SoundTouch™-system (se hjælpen i app'en).</li> <li>Afinstaller app'en, nulstil systemet, og genstart opsætningsprocessen.</li> <li>Gør dit netværk synligt, hvis det er skjult, for at afslutte opsætning.</li> </ul>
Der kan ikke oprettes forbindelse til et netværk	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se i hjælpen til app'en, hvis dit netværk er ændret eller for at slutte dit system til et andet netværk.</li> <li>Opret forbindelse til netværket med et Ethernet-kabel.</li> </ul>
SoundTouch™ eller Bluetooth® vises ikke i kildemenuen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Opdater betjeningskonsollen. Se betjeningsvejledningen til dit underholdningssystem.</li> <li>Sørg for, at Bose® link-kablet og USB-kablet er sluttet til den trådløse adapter og betjeningskonsollen. Disse kabler skal forblive tilsluttet, for at systemet fungerer korrekt.</li> <li>Gennemfør opsætningen af SoundTouch™. Se side 19.</li> </ul>
Kan ikke afspille Bluetooth®-lyd	<p>På dit system:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Par en enhed ved hjælp af <i>Bluetooth KILDE</i>-skærmbilledet (side 13).</li> <li>Prøv at parre en anden enhed.</li> <li>Se "Ingen lyd" i systemets betjeningsvejledning.</li> <li>Opsæt først SoundTouch™, og udfør alle systemopdateringer.</li> <li>Ryd systemets pairingsliste (side 13).</li> </ul> <p>På din mobile enhed:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Deaktivér og aktivér <i>Bluetooth</i>-funktionen.</li> <li>Fjern systemet fra <i>Bluetooth</i>-menuen. Par igen.</li> <li>Se dokumentationen til din <i>Bluetooth</i>-aktiverede enhed.</li> </ul>

## Pleje og vedligeholdelse

---

### Tilføjelse af et Wi-Fi®-netværk

---

Hvis dine netværksoplysninger er blevet ændret, eller hvis du vil oprette forbindelse fra dit system til et andet netværk, skal du tilføje de nye netværksoplysninger under Netværksopsætning i menuen UNIFY® på dit underholdningssystem.

1. Tænd dit underholdningssystem.
2. Tryk på knappen **Opsætning** på betjeningskonsollens knappanel.  
Menuen UNIFY vises.
3. Vælg **Netværksopsætning**.
4. Følg vejledningen på skærmen for at ændre dit netværk.

## Rengøring

---

Du skal rengøre din trådløse SoundTouch™-adapter ved at tørre kabinetet af med en blød og tør klud.

- Brug ikke opløsningsmidler, kemikalier eller rengøringsspray.
- Undgå at spilde væske eller tabe objekter i nogen af åbningerne.

## Kundeservice

---

Yderligere hjælp til at bruge systemet:

- Gå til [SoundTouch.com](http://SoundTouch.com)
- Kontakt Bose® kundeservice. Se adresselisten i kassen.

## Begrænset garanti

---

Din trådløse SoundTouch™-adapter er omfattet af en begrænset garanti.

Detaljerede oplysninger om den begrænsede garanti findes på arket med vigtige sikkerhedsinstruktioner i æsken. Se arket med vigtige sikkerhedsinstruktioner for at få instruktioner til registrering. Hvis ikke du gør det, har det ingen betydning for den begrænsede garanti.

Garantioplysningerne til dette produkt gælder ikke for Australien og New Zealand. Se vores websted på [www.Bose.com.au/warranty](http://www.Bose.com.au/warranty) eller [www.Bose.co.nz/warranty](http://www.Bose.co.nz/warranty) for at få flere oplysninger om garantien i Australien og New Zealand.

## Tekniske oplysninger

---

<b>Mål:</b>	2" H x 2 1/2" B x 9 3/8" D (5,1 cm x 6,4 cm x 23,8 cm)
<b>Vægt:</b>	340 gram

## Appendiks A: Opsætning af SoundTouch™

### Opsætning ved hjælp af SoundTouch™ app'en

Hvis du ikke er i stand til at fuldføre netværksopsætningen gennem UNIFY®, eller hvis du ikke er i stand til at fuldføre opsætningen gennem SoundTouch™ app'en, skal du downloade og installere Bose® SoundTouch™ controllerapp'en på en smartphone, tablet eller computer, der er sluttet til dit netværk. App'en guider dig igennem tilslutningen at systemet til dit netværk.

#### Aktivér opsætningstilstanden på adapteren

1. På bagsiden af den trådløse SoundTouch™-adapter skal du trykke på Control-knappen og holde den nede i 1-8 sekunder.
2. Når den gule Wi-Fi®-indikator blinker, skal du slippe Control-knappen. Wi-Fi-indikatoren bør lyse gult konstant.

#### Tilføj systemet til en eksisterende SoundTouch™-konto

Hvis du allerede har konfigureret SoundTouch™ til et andet system, skal du ikke downloade SoundTouch™ - app'en igen.

1. Vælg ikonet SoundTouch™ på din smartphone eller tablet  for at starte app'en.
2. Vælg **SØG > INDSTILLINGER > Systemer > TILFØJ SYSTEM** for at tilføje et andet system.

App'en fører dig gennem opsætningen.

#### Hent og installer SoundTouch™-app'en

Download SoundTouch SoundTouch™ controllerapp'en. på din smartphone eller tablet.



Bose® SoundTouch™  
controller app

- iOS-brugere: Download fra App Store
- Android™-brugere: Download fra Google Play™ store
- Amazon Kindle Fire-brugere: download fra Amazon Appstore til Android
- Hvis du bruger en computer, skal du åbne en browser og gå til:  
[SoundTouch.com/app](http://SoundTouch.com/app)

#### Slut systemet til dit Wi-Fi®-hjemmenetværk

Tilføj systemet til dit netværk, når du har installeret app'en:

1. Vælg  for at starte app'en på din smartphone, tablet eller computer. App'en guider dig igennem tilslutningen at systemet til dit Wi-Fi-netværk.
2. Følg instruktionerne i app'en for at afslutte konfigurationen, inklusive oprettelse af en SoundTouch™-konto, tilføjelse af et musikbibliotek og -musiktjenester.

## Appendiks B: Montering af den trådløse adapter

### Montering af adapteren

Du kan montere adapteren på en væg (hardware medfølger ikke). Hvis din monteringshardware har instruktioner, der afviger fra disse instruktioner, skal du følge instruktionerne, der følger med hardwaren.

Denne tabel beskriver specifikationer til monteringshardware.

Enhed	Træ	Vægplade
<b>Væggens tykkelse</b>	$\frac{3}{4}$ " (19 mm) eller tykkere	$\frac{3}{8}$ " (9,5 mm) eller tykkere
<b>Bor</b>	$\frac{1}{8}$ " (3 mm)	$\frac{3}{16}$ " (4,5 mm)
<b>Træskruer med fladt hoved (2)</b>	#8 x 1 $\frac{1}{4}$ " (32 mm)	#8 x 1 $\frac{1}{4}$ " (32 mm)
<b>Plastikmurankre (2)</b>	Ikke i brug	25 mm (#6-8x1")


### Monteringsmuligheder

Du kan montere adapteren på to forskellige måder:

- Lodret, så tilslutningspanelet vender mod venstre
- Vandret, så tilslutningspanelet vender opad

### Sådan monteres adapteren

1. Bor to huller med en afstand på 159 mm mellem hullerne.



2. Sæt plastikmurankrene i (hvis adapteren monteres på en vægplade).
3. Skru træskruer med fladt hoved i.  
**Bemærk:** Lad skruehovederne rage 6,35 mm ud fra væggens overflade.
4. Placer adapteren på skruerne.



# Wichtige Sicherheitshinweise

---

Bitte nehmen Sie sich die Zeit, diese Anleitung sorgfältig durchzulesen und die Sicherheitshinweise zu befolgen.

 Das Blitzsymbol mit Pfeilspitze in einem gleichseitigen Dreieck weist den Benutzer auf nicht isolierte, gefährliche elektrische Spannung innerhalb des Systemgehäuses hin. Es besteht die Gefahr von Stromschlägen!

 Das Ausrufezeichen in einem gleichseitigen Dreieck, wie es auf dem System angebracht ist, soll den Benutzer auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanweisungen in dieser Bedienungsanleitung aufmerksam machen.

---

## ACHTUNG:

- Nehmen Sie keine Veränderungen am System oder am Zubehör vor.
  - Nicht autorisierte Veränderungen können die Sicherheit, die Erfüllung von Richtlinien und die Systemleistung beeinträchtigen.
- 

## WARNUNG:

- Um Brände und Stromschläge zu vermeiden, darf dieses Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden.
  - Schützen Sie das Gerät vor tropfenden oder spritzenden Flüssigkeiten, und stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gefäße (z. B. Vasen) auf das Gerät oder in die Nähe des Geräts. Wie bei allen elektronischen Geräten dürfen niemals Flüssigkeiten ins Innere des Produkts gelangen. Flüssigkeiten können eine Störung und/oder eine Brandgefahr verursachen.
  - Stellen Sie keine brennenden Kerzen oder ähnliches auf das Gerät oder in die Nähe des Geräts.
- 

1. Lesen Sie die folgenden Anweisungen.
2. Bewahren Sie die Anweisungen auf.
3. Beachten Sie alle Warn- und Sicherheitshinweise.
4. Befolgen Sie alle Anweisungen.
5. Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
6. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem sauberen, trockenen Tuch.
7. Achten Sie darauf, dass die Lüftungsöffnungen nicht blockiert sind. Stellen Sie das Gerät nur in Übereinstimmung mit den Herstelleranweisungen auf.
8. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen auf, wie Heizkörpern, Wärmespeichern, Ofen oder anderen Geräten (auch Verstärkern), die Wärme erzeugen.
9. Verwenden Sie nur Zubehör-/Anbauteile, die vom Hersteller zugelassen sind.
10. Wenden Sie sich bei allen Reparatur- und Wartungsarbeiten nur an qualifiziertes Personal. Wartungsarbeiten sind in folgenden Fällen nötig: Bei jeglichen Beschädigungen wie z. B. des Netzkabels oder Netzsteckers, wenn Flüssigkeiten oder Gegenstände in das Gehäuse gelangt sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde, fallen gelassen wurde oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.

## HINWEISE:

- Das Etikett mit der Produktbezeichnung befindet sich auf der Unterseite des Geräts.
- Das Produkt ist nicht zum Einsatz im Freien geeignet. Verwenden Sie es nur innerhalb von Gebäuden und nicht in Campingfahrzeugen, auf Booten o. ä.

## Wichtige Einhaltungshinweise

**Hinweis:** Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die Grenzwerte für digitale Geräte der Klasse B gemäß Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte wurden festgelegt, um einen angemessenen Schutz gegen elektromagnetische Störungen bei einer Installation in Wohngebieten zu gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzstrahlung und kann sie auch aussenden. Daher verursacht das Gerät bei nicht ordnungsgemäßer Installation und Benutzung möglicherweise Störungen des Funkverkehrs. Es wird jedoch keine Garantie dafür gegeben, dass bei einer bestimmten Installation keine Störstrahlungen auftreten. Sollte dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang stören (Sie können dies überprüfen, indem Sie das Gerät aus- und wieder einschalten), so ist der Benutzer dazu angehalten, die Störungen durch eine der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Neuausrichtung der Antenne.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und einem Radio- oder Fernsehempfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose in einem anderen Stromkreis als den Empfänger an.
- Wenden Sie sich an einen Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

# Wichtige Sicherheitshinweise

## FCC-WARNUNG

Veränderungen am Gerät, die nicht durch die Bose Corporation autorisiert wurden, können zur Folge haben, dass die Betriebserlaubnis für das Gerät erlischt.

## In den USA und Kanada

Dieses Gerät erfüllt die Bestimmungen in Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den beiden folgenden Bedingungen:

(1) dieses Gerät darf keine Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss jegliche Störungen dulden, einschließlich von Störungen, die zu einem unerwünschten Betrieb führen.

Dieser digitale Apparat der Klasse B erfüllt die kanadischen Normen ICES-003 / CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B).

Dieses Gerät erfüllt die HF-Strahlungsexpositionsgrenzwerte der FCC und von Industry Canada für die allgemeine Bevölkerung.

- Dieses Gerät darf nicht zusammen mit anderen Antennen oder Sendern aufgestellt oder betrieben werden.
- Dieses Gerät erfüllt die lizenzenfreien Standards von Industry Canada. Der Betrieb unterliegt den beiden folgenden Bedingungen: (1) dieses Gerät darf keine Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss jegliche Störungen dulden, einschließlich von Störungen, die zu einem unerwünschten Betrieb führen.
- Dieses Gerät erfüllt die Strahlungsexpositionsgrenzwerte der FCC und von Industry Canada für eine unkontrollierte Umgebung. Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Radiator und Ihrem Körper aufgestellt und betrieben werden.



Die Bose Corporation erklärt hiermit, dass dieses Produkt die wesentlichen Anforderungen und andere relevante Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/CE und weitere geltende EU-Richtlinien erfüllt. Die vollständige Konformitätserklärung ist einsehbar unter [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf, sondern bei einer geeigneten Sammelstelle für das Recycling abgegeben werden muss. Die ordnungsgemäße Entsorgung und das Recycling tragen dazu bei, die natürlichen Ressourcen, die Gesundheit und die Umwelt zu schützen. Weitere Informationen zur Entsorgung und zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer zuständigen Kommune, Ihrem Entsorgungsdienst oder dem Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

Namen und Inhalt der giftigen oder gefährlichen Stoffe oder Elemente						
	Gefährliche Stoffe oder Elemente					
Name des Teils	Blei (Pb)	Quecksilber (Hg)	Kadmium (Cd)	Sechswertiges Chrom (Cr(VI))	Polybromiertes Biphenyl (PBB)	Polybromiertes Diphenylether (PBDE)
PCBs	X	O	O	O	O	O
Metalteile	X	O	O	O	O	O
Kunststoffteile	O	O	O	O	O	O
Lautsprecher	X	O	O	O	O	O
Kabel	X	O	O	O	O	O

Diese Tabelle wurde in Übereinstimmung mit den Bestimmungen von SJ/T 11364 erstellt.

O: Gibt an, dass dieser giftige oder gefährliche Stoff, der in allen homogenen Materialien für dieses Teil enthalten ist, unter den Grenzwerten gemäß GB/T 26572 liegt.

X: Gibt an, dass dieser giftige oder gefährliche Stoff, der in mindestens einem der homogenen Materialien enthalten ist, die für dieses Teil verwendet wurden, über den Grenzwerten gemäß GB/T 26572 liegt.

# Zulassungen und Konformität

## Bitte füllen Sie Folgendes aus und bewahren Sie es für Ihre Unterlagen auf:

Die Serien- und Modellnummern finden Sie an der Unterseite des Systems:

Seriennummer: \_\_\_\_\_

Modellnummer: \_\_\_\_\_

Kaufdatum: \_\_\_\_\_

Bewahren Sie die Quittung zusammen mit dieser Bedienungsanleitung auf.

App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc.

Amazon, Kindle und Fire sind Marken von Amazon.com, Inc. oder verbundener Unternehmen.

Android und Google Play sind Marken von Google, Inc.

Die Wortmarke *Bluetooth*® und die Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. und werden von der Bose Corporation unter Lizenz verwendet.



iHeartRadio ist eine eingetragene Marke von iHeartMedia, Inc.

iTunes ist eine Marke von Apple Inc., die in den USA und in anderen Ländern eingetragen ist.

HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface sowie das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing LLC in den USA und in anderen Ländern.

Dieses Produkt beinhaltet Spotify-Software, die Lizizenzen von Fremdfirmen unterliegt, die hier zu finden sind: [www.spotify.com/connect/third-party-license](http://www.spotify.com/connect/third-party-license)

Spotify ist eine eingetragene Marke von Spotify AB.

SoundTouch und das Design des Hinweises auf die Drahtlosfunktion sind Marken der Bose Corporation in den USA und anderen Ländern.

Wi-Fi ist ein eingetragenes Warenzeichen der Wi-Fi Alliance®.

Windows ist eine eingetragene Marke der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und in anderen Ländern.

©2015 Bose Corporation. Dieses Dokument darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung weder ganz noch teilweise reproduziert, verändert, vertrieben oder auf andere Weise verwendet werden.

## Einführung

SoundTouch™ .....	7
Systemvorteile .....	7

## SoundTouch™

Zugriff auf SoundTouch™ .....	8
Auswählen der SoundTouch™-Quelle .....	8
Verwenden des SoundTouch™-Quellenbildschirms .....	9
Vorgang .....	9
Funktionsweise von Presets .....	10
Das müssen Sie wissen .....	10
Wiedergeben eines Presets .....	10
Einstellen eines Presets .....	10
Finden von zuletzt wiedergegebenen Inhalten .....	11

## Bluetooth®

Zugriff auf Bluetooth® .....	12
Auswählen der Bluetooth®-Quelle .....	12
Verwenden des Bluetooth®-Quellenbildschirms .....	13
Löschen der Bluetooth®-Abstimmliste des Systems .....	13

## Steuern des Systems mithilfe der App

Verwenden der SoundTouch™-App .....	14
Hilfe erhalten .....	14
Steuern des Systems von einem anderen Smartphone, Tablet oder Computer aus .....	14

## Erweiterte Funktionen

Steuertaste .....	15
Wi-Fi®-Anzeige .....	15
Deaktivieren der Wi-Fi®-Funktion .....	15
Erneutes Aktivieren der Wi-Fi-Funktion .....	15
Zurücksetzen des Adapters .....	16

# Inhalt

---

## Pflege und Wartung

Fehlerbehebung.....	17
Hinzufügen eines Wi-Fi®-Netzwerks .....	18
Reinigung.....	18
Kundendienst.....	18
Eingeschränkte Garantie.....	18
Technische Daten.....	18

## Anhang A: Einrichten von SoundTouch™

Einrichten mithilfe der SoundTouch™-App.....	19
Setup-Modus am Adapter aktivieren .....	19
System zu einem vorhandenen SoundTouch™-Konto hinzufügen..	19
SoundTouch™-App herunterladen und installieren .....	19
System mit Ihrem Wi-Fi-Heimnetzwerk verbinden .....	19

## Anhang B: Montage des Drahtlosadapters

Montage des Adapters .....	20
Montagemöglichkeiten .....	20
Montage des Adapters .....	20

## SoundTouch™

---

Ihr drahtloses SoundTouch™-Musiksystem bietet klaren, raumfüllenden Klang, der drahtlos über Ihr Wi-Fi-Heimnetzwerk gestreamt wird. Mit SoundTouch™ können Sie Internetradio, Musikdienste und Ihre Musikbibliothek streamen.

Wenn Sie Wi-Fi® und ein SoundTouch™-fähiges Entertainment-System zu Hause haben, können Sie Ihre Lieblingsmusik in jedem gewünschten Raum genießen. Eine Setup-Anleitung finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Systems.

**Hinweis:** Wenn Sie den Adapter als Zubehör gekauft haben, finden Sie eine Anleitung für die Einrichtung in der Kurzanleitung.

## Systemvorteile

- Ermöglicht Ihrem Bose Entertainment-System das drahtlose Streamen von Musik mithilfe von SoundTouch™.
- Genießen Sie drahtlosen Zugriff auf Internetradio, Musikdienste und Ihre Musikbibliothek.
- Fügt die SoundTouch™-Quelle hinzu, sodass Sie Ihre Presets, Recents und die aktuell wiedergegebenen Inhalte auf Ihrem Fernsehgerät anzeigen und steuern können.
- Mit der kostenlosen SoundTouch™-App können Sie Internetradio, Musikdienste und Ihre Musikbibliothek auf Ihrem Computer, Smartphone oder Tablet erkunden.
- Personalisieren Sie bis zu sechs Presets, um Ihre Musik durch Drücken einer einzigen Taste auf Ihrer Fernbedienung wiederzugeben.
- Drahtlose Einrichtung mithilfe Ihres Smartphones oder Tablets.
- Funktioniert mit Ihrem vorhandenen Wi-Fi-Heimnetzwerk.
- Streamen Sie Musik von Bluetooth®-fähigen Geräten.
- Für ein Hörerlebnis in mehreren Räumen können Sie jederzeit ganz einfach zusätzliche Systeme hinzufügen.
- Die große Auswahl an Bose®-Audiosystemen bietet Ihnen die richtige Lösung für jeden Raum.

# SoundTouch™

## Zugriff auf SoundTouch™

Sie können auf SoundTouch™ über das QUELLEN-Menü an Ihrem Entertainment-System oder über die SoundTouch™-App zugreifen.

- SoundTouch™-Quelle: Bietet eine Untergruppe der SoundTouch™-Funktionen, die es Ihnen ermöglichen, Recents wiederzugeben und Presets zu personalisieren.
- SoundTouch™-App: Bietet vollständige Steuerung von SoundTouch™. Sie können damit Ihre Systemeinstellungen verwalten, Internetradio erkunden, Presets einstellen und ändern, Musik zum System streamen, anzeigen, was gerade wiedergegeben wird, und vieles mehr.

## Auswählen der SoundTouch™-Quelle

Die SoundTouch™-Quelle ermöglicht es Ihnen, Ihre Presets, Recents und gerade wiedergegebenen Inhalte mithilfe der Fernbedienung Ihres Systems zu steuern.

1. Schalten Sie das System ein.
2. Drücken Sie die Taste **SOURCE** auf der Fernbedienung.  
Das QUELLEN-Menü wird angezeigt.



**Tipp:** Sie können auch die QUELLEN-Taste an der Bedienkonsole drücken.


3. Wählen Sie **SoundTouch™** aus.

# Verwenden des SoundTouch™-Quellenbildschirms

Mithilfe der Fernbedienung können Sie vom Quellenbildschirm aus auf eine Untergruppe der SoundTouch™-Funktionen zugreifen.

## Vorgang

- Presets personalisieren und wiedergeben (Seite 10).
- Recents wiedergeben (Seite 11).
- Verfügbare Künstlerinformationen im AKTUELLE WIEDERGABE-Fenster anzeigen.
- Wiedergabe steuern (Abspielen, Pause, Stopp, zum nächsten Track springen usw.).
- Die Musikquelle des Inhalts im AKTUELLE WIEDERGABE-Fenster anzeigen.



Noch mehr Steuerungsmöglichkeiten Ihres SoundTouch™-Systems finden Sie unter „Verwenden der SoundTouch™-App“ auf Seite 14.

## Funktionsweise von Presets

---

Sie können sechs Presets für Ihre bevorzugten Streaming-Musikdienste, Wiedergabelisten, Künstler, Alben oder Songs aus Ihrer Musikbibliothek festlegen. Sie können mithilfe der SoundTouch™-App auf Ihrem Computer, Smartphone, Tablet oder der SoundTouch™ Quelle an Ihrem Entertainment-System jederzeit auf Ihre Musik zugreifen.

### Das müssen Sie wissen

- Sie können Presets in der App und am Entertainment-System einstellen.
- Wenn die Preset-Quelle Ihre iTunes- oder Ihre Windows Media Player-Musikbibliothek ist, vergewissern Sie sich, dass der Computer, auf dem Sie Ihre Musikbibliothek speichern, eingeschaltet und mit demselben Netzwerk wie das SoundTouch™-System verbunden ist.

## Wiedergeben eines Presets

---

Sobald Sie Ihre Presets personalisiert haben, wählen Sie ein Preset für die Wiedergabe mithilfe der Fernbedienung oder der App.

**Hinweis:** Sollte keine Musik wiedergegeben werden, sehen Sie unter „Einstellen eines Presets“ nach.

## Einstellen eines Presets

---

1. Streamen Sie Musik mithilfe der App oder der SoundTouch™-Quelle zu Ihrem Entertainment-System.
2. Halten Sie, während die Musik wiedergegeben wird, eine Presetnummer auf der Fernbedienung gedrückt (ca. 2 Sekunden lang).

**Hinweis:** Informationen zur Verwendung der SoundTouch™-App zum Einstellen und Ändern von Presets finden Sie in der Hilfe in der App.

## Finden von zuletzt wiedergegebenen Inhalten

Die Recents-Liste zeigt die 50 zuletzt abgespielten SoundTouch™-Titel an.

### 1. Wählen Sie **Zu Recents**.



Das RECENTS-Fenster wird angezeigt.



### 2. Wählen Sie einen Titel aus.

## **Zugriff auf Bluetooth®**

Sie können auf *Bluetooth* über das QUELLEN-Menü an Ihrem Entertainment-System oder über die SoundTouch™-App zugreifen.

### **Auswählen der *Bluetooth*-Quelle**

Die *Bluetooth*-Quelle ermöglicht es Ihnen, Ihre *Bluetooth*-fähigen Geräte mithilfe der Fernbedienung Ihres Systems abzustimmen und zu steuern.

1. Schalten Sie das System ein.
2. Drücken Sie die Taste **SOURCE** auf der Fernbedienung.

Das QUELLEN-Menü wird angezeigt.



**Tipp:** Sie können auch die QUELLEN-Taste an der Bedienkonsole drücken.


3. Wählen Sie **Bluetooth®** aus.

## Verwenden des Bluetooth®-Quellenbildschirms

Mithilfe der Fernbedienung können Sie vom Quellenbildschirm aus auf eine Untergruppe der Bluetooth-Funktionen zugreifen.

### Vorgang

- Stimmen Sie Bluetooth-fähige Geräte ab und verbinden Sie sie.
- Verfügbare Künstlerinformationen im AKTUELLE WIEDERGABE-Fenster anzeigen.
- Zeigen Sie verbundene Geräte an.
- Steuern Sie die (Abspielen, Pause, Stopp, zum nächsten Track springen usw.).
- Löschen Sie die Abstimmliste.



## Löschen der Bluetooth®-Abstimmliste des Systems

Wenn Sie ein Bluetooth-fähiges Gerät mit Ihrem System abstimmen, wird die Verbindung in der Abstimmliste des Systems gespeichert. Sie müssen möglicherweise die Abstimmliste löschen, wenn Sie ein Gerät nicht verbinden können. Nach Löschen der Liste müssen Sie die bisher abgestimmten Geräte erneut abstimmen.

1. Drücken Sie die  -Taste auf der Fernbedienung.
2. Wählen Sie  aus.

Eine Meldung wie *Abstimmliste gelöscht* wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Das System ist für die Abstimmung mit einem Gerät bereit.

# **Steuern des Systems mithilfe der App**

---

## **Verwenden der SoundTouch™ -App**

---

Die SoundTouch™-App ist eine Softwareanwendung, mit der Sie SoundTouch™ von Ihrem Smartphone, Tablet oder Computer aus steuern können. Mithilfe der App fungiert Ihr intelligentes Gerät als umfangreiche Fernbedienung für Ihr SoundTouch™-System.

Mit der App können Sie Ihre SoundTouch™-Einstellungen verwalten, Musikdienste hinzufügen, lokale und globale Internet-Radiosender erkunden, Presets einstellen und ändern, Musik auf das System streamen, anzeigen, was gerade wiedergegeben wird, und vieles mehr.

Sobald Sie das System mithilfe der SoundTouch™-App in Ihrem Netzwerk eingerichtet haben, können Sie Streaming-Musik nutzen und Ihre Presets personalisieren.

### **Hilfe erhalten**

#### **SoundTouch.com**

Bietet Zugriff auf das Supportcenter des Eigentümers, das Bedienungsanleitungen, Artikel, Tipps, Tutorials, eine Videobibliothek und die Eigentümer-Community umfasst, in der Sie Fragen und Antworten posten können.

1. Öffnen Sie einen Browser.
2. Geben Sie in das Adressfeld SoundTouch.com ein.

#### **Hilfe in der App**

Bietet Hilfeartikel zur Verwendung von SoundTouch™.

1. Wählen Sie auf Ihrem Gerät , um die App zu öffnen.
2. Wählen Sie im ERKUNDEN-Fenster **HILFE**.

## **Steuern des Systems von einem anderen Smartphone, Tablet oder Computer aus**


Sobald Sie das SoundTouch™-System in Ihrem Wi-Fi®-Netzwerk eingerichtet haben, können Sie das System von jedem Smartphone, Tablet oder Computer im selben Netzwerk aus steuern.

1. Verbinden Sie das Gerät mit demselben Netzwerk wie Ihr System.
2. Laden Sie die SoundTouch™-App auf das Gerät herunter und installieren Sie sie:
  - iOS-Benutzer: Download vom App Store
  - Android™-Benutzer: Download vom Google Play™ Store
  - Amazon Kindle Fire-Benutzer: Download vom Amazon Appstore für Android
  - Wenn Sie einen Computer verwenden, öffnen Sie einen Browser und gehen Sie zu:

**SoundTouch.com/app**

## Steuertaste

Der SoundTouch™-Drahtlosadapter bietet bei Gedrückthalten der Steuertaste weitere Funktionen.



## Wi-Fi®-Anzeige

Die Wi-Fi-Anzeige an der Rückseite des Adapters zeigt den Wi-Fi-Status an.

Anzeigekaktivität	Systemzustand
Blinkt weiß	Verbindung mit dem Wi-Fi-Netzwerk wird hergestellt
Leuchtet weiß	System eingeschaltet und mit dem Wi-Fi-Netzwerk verbunden
Gelb	Systeme im Setup-Modus
Langsames gelbes Blinken	Vom Wi-Fi-Netzwerk getrennt
Schnelles gelbes Blinken	Firmwarefehler - wenden Sie sich an den Bose-Kundendienst
Aus	Wi-Fi-Netzwerk deaktiviert oder System mit Ethernet verbunden

## Deaktivieren der Wi-Fi®-Funktion

Bei Deaktivieren von Wi-Fi wird auch die *Bluetooth*®-Funktion deaktiviert.

1. Schalten Sie das Entertainment-System ein.
2. Halten Sie die Steuertaste des Adapters gedrückt (8 - 10 Sekunden).
3. Wenn die Wi-Fi-Anzeige sich ausschaltet, lassen Sie die Steuerungstaste los.

## Erneutes Aktivieren der Wi-Fi-Funktion

Beim erneuten Aktivieren von Wi-Fi wird auch die *Bluetooth*®-Funktion wieder aktiviert.

1. Schalten Sie das Entertainment-System ein.
2. Drücken Sie die Steuertaste des Adapters.

### Zurücksetzen des Adapters

---

Ein Zurücksetzen des Systems löscht alle Quellen- und Netzwerkeinstellungen vom System und stellt die werkseitigen Originaleinstellungen wieder her.

**Hinweis:** Durch das Zurücksetzen werden Ihre SoundTouch™-Presets und Ihre gespeicherten Netzwerkberechtigungen gelöscht.

1. Schalten Sie das Entertainment-System ein.
2. Trennen Sie das Bose® link-Kabel.
3. Halten Sie die Steuertaste gedrückt, während Sie das Kabel wieder anschließen.
4. Starten Sie die SoundTouch™-App auf Ihrem Computer und fügen Sie das System zum Netzwerk hinzu.

## Fehlerbehebung

Problem	Lösung
Netzwerk-einrichtung kann nicht abgeschlossen werden oder Adapter wird nicht erkannt	<ul style="list-style-type: none"> <li>Schließen Sie den SoundTouch™-Drahtlosadapter an den Bose link-Anschluss an der Bedienkonsole an.</li> <li>Schließen Sie das USB-Kabel an den Drahtlosadapter und die Bedienkonsole an. Dieses Kabel muss angeschlossen bleiben, damit das System richtig funktioniert.</li> <li>Schließen Sie das System an das Stromnetz an.</li> <li>Wählen Sie den richtigen Netzwerknamen und geben Sie das Passwort ein.</li> <li>Schließen Sie das Gerät und das SoundTouch™-System an dasselbe Wi-Fi®-Netzwerk an.</li> <li>Stellen Sie den Drahtlosadapter innerhalb der Reichweite des Routers auf.</li> <li>Aktivieren Sie Wi-Fi am Gerät (mobil oder Computer), das Sie für das Einrichten verwenden.</li> <li>Schließen Sie alle offenen Anwendungen.</li> <li>Wenn Sie für das Einrichten einen Computer verwenden, prüfen Sie die Firewall-Einstellungen, um sicherzustellen, dass die SoundTouch™-App und SoundTouch™ Music Server erlaubte Programme sind.</li> <li>Testen Sie die Internetverbindung, indem Sie die <a href="http://www.SoundTouch.com">www.SoundTouch.com</a> laden.</li> <li>Starten Sie Ihr Mobilgerät oder Ihren Computer und Router neu.</li> <li>Starten Sie das SoundTouch™-System neu (sehen Sie im Hilfesystem der App nach).</li> <li>Deinstallieren Sie die App, setzen Sie das System zurück und starten Sie den Einrichtungsvorgang erneut.</li> <li>Blenden Sie das Netzwerk ein, wenn es ausgeblendet ist, um die Einrichtung abzuschließen.</li> </ul>
Verbindung mit dem Netzwerk nicht möglich	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wenn sich Ihr Netzwerk geändert hat oder Sie Ihr System mit einem anderen Netzwerk verbinden möchten, sehen Sie im Hilfesystem nach.</li> <li>Verbinden Sie sich mithilfe eines Ethernet-Kabels mit dem Netzwerk.</li> </ul>
„SoundTouch™“ oder „Bluetooth®“ wird nicht im Quellenmenü angezeigt	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aktualisieren Sie die Bedienkonsole. Nähere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Systems.</li> <li>Stellen Sie sicher, dass das Bose® link-Kabel und das USB-Kabel fest an den Drahtlosadapter und die Bedienkonsole angeschlossen sind. Diese Kabel müssen angeschlossen bleiben, damit das System richtig funktioniert.</li> <li>Schließen Sie die SoundTouch™ Einrichtung ab. Siehe Seite 19.</li> </ul>
Bluetooth®-Ton kann nicht wiedergegeben werden	<p>Auf Ihrem System:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Stimmen Sie ein Gerät mithilfe des <i>Bluetooth</i> QUELLEN-Bildschirms ab (Seite 13).</li> <li>Versuchen Sie, ein anderes Gerät abzustimmen.</li> <li>Sehen Sie unter „Kein Ton“ in der Bedienungsanleitung des Systems nach.</li> <li>Richten Sie zuerst SoundTouch™ ein und führen Sie alle Systemupdates durch.</li> <li>Löschen Sie die Abstimmliste des Systems (Seite 13).</li> </ul> <p>Auf Ihrem Mobilgerät:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Deaktivieren Sie die <i>Bluetooth</i>-Funktion und aktivieren Sie sie wieder.</li> <li>Entfernen Sie das System aus dem <i>Bluetooth</i>-Menü. Stimmen Sie ihn erneut ab.</li> <li>Sehen Sie in der Dokumentation Ihres <i>Bluetooth</i>-fähigen Geräts nach.</li> </ul>

# Pflege und Wartung

---

## Hinzufügen eines Wi-Fi®-Netzwerks

---

Wenn sich Ihre Netzwerkinformationen geändert haben oder Sie Ihr System mit einem anderen Netzwerk verbinden möchten, müssen Sie die neuen Netzwerkinformationen unter „Netzwerkeinrichtung“ im UNIFY®-Menü oder am Entertainment-System hinzufügen.

1. Schalten Sie das Entertainment-System ein.
2. Drücken Sie die **Setup**-Taste am Tastenfeld der Bedienkonsole.  
Das UNIFY-Menü wird angezeigt.
3. Wählen Sie **Netzwerkeinrichtung**.
4. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr Netzwerk zu ändern.

## Reinigung

---

Wischen Sie zum Reinigen des SoundTouch™-Drahtlosadapters das Gehäuse mit einem weichen, trockenen Tuch ab.

- Verwenden Sie keine Lösungsmittel, andere Chemikalien oder Sprays.
- Auf keinen Fall dürfen Feuchtigkeit oder Gegenstände ins Innere gelangen.

## Kundendienst

---

Wenn Sie zusätzliche Hilfe bei der Verwendung des Systems benötigen:

- Besuchen Sie [SoundTouch.com](http://SoundTouch.com)
- Wenden Sie sich an den Bose®-Kundendienst. Ein Blatt mit Kontaktinformationen finden Sie im Karton.

## Eingeschränkte Garantie

---

Auf den SoundTouch™-Drahtlosadapter wird eine eingeschränkte Garantie gewährt. Einzelheiten zu den Garantiebedingungen finden Sie auf dem Blatt mit den wichtigen Sicherheitshinweisen, das Sie im Karton finden. Wie Sie sich registrieren, finden Sie auf dem Blatt mit den wichtigen Sicherheitshinweisen. Ihre eingeschränkte Garantie ist jedoch unabhängig davon gültig.

Die mit diesem Produkt angegebenen Garantieinformationen gelten nicht in Australien und Neuseeland. Nähere Informationen zu unserer Garantie in Australien und Neuseeland finden Sie auf unserer Website unter [www.bose.com.au/warranty](http://www.bose.com.au/warranty) bzw. [www.bose.co.nz/warranty](http://www.bose.co.nz/warranty).

## Technische Daten

---

**Abmessungen:** 5,1 cm x 6,4 cm x 23,8 cm

**Gewicht:** 0,34 kg

## Einrichten mithilfe der SoundTouch™-App

Wenn Sie die Netzwerkeinrichtung nicht über UNIFY® durchführen können oder die Einrichtung mit der SoundTouch™-App nicht abgeschlossen haben, müssen Sie die Bose® SoundTouch™-App auf ein Smartphone, ein Tablet oder einen Computer, das/der mit dem Netzwerk verbunden ist, herunterladen und installieren. Die App führt Sie durch das Verbinden des Systems mit Ihrem Netzwerk.

### Setup-Modus am Adapter aktivieren

1. Halten Sie die Steuertaste an der Rückseite des SoundTouch™-Drahtlosadapters 1 bis 8 Sekunden lang gedrückt.
2. Wenn die gelbe Wi-Fi®-Anzeige blinkt, lassen Sie die Steuertaste los.  
Die Wi-Fi-Anzeige sollte gelb leuchten.

### System zu einem vorhandenen SoundTouch™-Konto hinzufügen

Wenn Sie SoundTouch™ bereits für ein anderes System eingerichtet haben, müssen Sie die SoundTouch™-App nicht erneut herunterladen.

1. Wählen Sie auf Ihrem Smartphone oder Tablet das Symbol SoundTouch™ , um die App zu starten.
2. Wählen Sie **ERKUNDEN > EINSTELLUNGEN > Systeme > SYSTEM HINZUFÜGEN**, um ein weiteres System hinzuzufügen.

Die App führt Sie durch die Einrichtung.

### SoundTouch™-App herunterladen und installieren

Laden Sie auf Ihrem Smartphone, Tablet oder Computer die **SoundTouch™-App** herunter.



Bose® SoundTouch™ controller app

- iOS-Benutzer: Download vom App Store
- Android™-Benutzer: Download vom Google Play™ Store
- Amazon Kindle Fire-Benutzer: Download vom Amazon Appstore für Android
- Wenn Sie einen Computer verwenden, öffnen Sie einen Browser und gehen Sie zu: [SoundTouch.com/app](http://SoundTouch.com/app)

### System mit Ihrem Wi-Fi-Heimnetzwerk verbinden

Nach der Installation der App fügen Sie das System zu Ihrem Netzwerk hinzu:

1. Wählen Sie auf Ihrem Smartphone, Tablet oder Computer  , um die App zu starten.  
Die App führt Sie durch das Verbinden des Systems mit Ihrem Wi-Fi-Netzwerk.
2. Befolgen Sie die Anweisungen in der App, um die Einrichtung abzuschließen. Sie umfasst die Erstellung eines SoundTouch™-Kontos, das Hinzufügen einer Musikbibliothek und von Musikdiensten.

## Anhang B: Montage des Drahtlosadapters

### Montage des Adapters

Sie können den Adapter an der Wand montieren (Befestigungsmittel nicht mitgeliefert). Wenn sich die Anleitung für die Befestigungsmittel von dieser Anleitung unterscheidet, befolgen Sie die Anleitung für die Befestigungsmittel.

Diese Tabelle beschreibt die technischen Daten der Befestigungsmittel.

Menüpunkt	Holz	Gipskartonplatten
<b>Wandstärke</b>	19 mm oder stärker	9,5 mm oder stärker
<b>Bohrerbit</b>	3 mm	4,5 mm
<b>Flachkopf-Holzscreuben (2)</b>	Nr. 8 x 1 ¼ Zoll (32 mm)	Nr. 8 x 1 ¼ Zoll (32 mm)
<b>Kunststoffdübel (2)</b>	Nicht verwendet	Nr. 6-8x1 Zoll (25 mm)


### Montagemöglichkeiten

Der Adapter kann auf zwei Arten montiert werden:

- Senkrecht mit Anschlussfeld nach links
- Waagrecht mit Anschlussfeld nach oben

### Montage des Adapters

1. Bohren Sie zwei Löcher mit einem Abstand von 159 cm (Mitte zu Mitte).



2. Stecken Sie Kunststoffdübel in die Löcher (bei der Montage in Gipskartonplatten).

3. Bringen Sie Flachkopf-Holzscreuben an.

**Hinweis:** Lassen Sie die Schraubenköpfe 6,35 mm von der Wandfläche hervorstehten.

4. Bringen Sie den Adapter an den Schrauben an.



# Belangrijke veiligheidsinstructies

---

Neem de tijd om deze handleiding zorgvuldig door te lezen en de belangrijke veiligheidsinstructies te volgen.

 De bliksemsschicht met pijlpunt in een gelijkzijdige driehoek waarschuwt de gebruiker voor de aanwezigheid van niet-geïsoleerde, gevaarlijke spanning in de behuizing van het systeem, die zo hoog kan zijn dat er een risico op elektrische schokken bestaat.

 Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek, als afgebeeld op het systeem, is bedoeld om de gebruiker attent te maken op belangrijke instructies voor gebruik en onderhoud in deze gebruikershandleiding.

---

## WAARSCHUWINGEN:

- Breng geen wijzigingen aan aan het systeem of de accessoires.
  - Wijzigingen door onbevoegden kunnen de veiligheid, de naleving van voorschriften en de werking van het systeem in gevaar brengen.
- 

## WAARSCHUWINGEN:

- Om het risico op brand en elektrische schokken te verlagen, mag dit product niet aan regen of vocht worden blootgesteld.
  - Stel dit apparaat niet bloot aan druipende of spattende vloeistoffen en plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op of bij het apparaat. Evenals bij andere elektronische producten dient u op te passen dat er geen vloeistof in het product terechtkomt. Blootstelling aan vloeistoffen kan leiden tot een defect en/of brandgevaar.
  - Plaats geen open vlammen, zoals brandende kaarsen, op of bij het product.
- 

1. Lees deze instructies door.
2. Bewaar deze instructies.
3. Neem alle waarschuwingen in acht.
4. Volg alle instructies.
5. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
6. Alleen met een droge doek reinigen.
7. De ventilatieopeningen niet blokkeren. Installeer het apparaat volgens de instructies van de fabrikant.
8. Installeer het niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, verwarmingsroosters, kachels of andere apparaten (waaronder versterkers) die warmte produceren.
9. Gebruik uitsluitend randapparatuur/accessoires die door de fabrikant worden gespecificeerd.
10. Laat alle onderhoud over aan bevoegde medewerkers. Onderhoud is vereist als het apparaat is beschadigd, als bv. een elektriciteitssnoer of stekker is beschadigd, als er vloeistof in het apparaat is gemorst of voorwerpen in het apparaat zijn gevallen, als het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, niet normaal werkt of is gevallen.

## OPMERKINGEN:

- Het productlabel bevindt zich aan de onderkant van het product.
- Het product mag alleen binnenshuis worden gebruikt. Het is niet ontworpen of getest voor gebruik buitenshuis, in recreatievoertuigen of op boten.

## Belangrijke informatie over naleving

**Opmerking:** Dit apparaat is getest en voldoet aan de normen voor een digitaal apparaat van klasse B, volgens deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze normen zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing bij installatie in een woonomgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequente energie en kan deze uitzenden en het kan, als het niet wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, schadelijke storing veroorzaken aan radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden bij een bepaalde installatie. Als dit apparaat schadelijke storing veroorzaakt aan de ontvangst van radio of tv, hetgeen kan worden bepaald door het apparaat aan en uit te zetten, wordt geadviseerd te trachten de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:

- Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een andere groep dan de groep waarop de ontvanger is aangesloten.
- Voor hulp neemt u contact op met de dealer of een ervaren radio- of tv-technicus.

# Belangrijke veiligheidsinstructies

## FCC-WAARSCHUWING

Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Bose Corporation kunnen leiden tot het vervallen van de bevoegdheid van de gebruiker om dit apparaat te gebruiken.

## In de VS en Canada

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. Op het gebruik zijn de volgende twee voorwaarden van toepassing:

(1) Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken, en (2) dit apparaat moet bestand zijn tegen externe storingen, inclusief storingen die mogelijk een ongewenste werking tot gevolg hebben.

Dit digitale apparaat van klasse B voldoet aan de Canadese ICES-003 / CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B).

Dit apparaat voldoet aan de beperkingen die de FCC en Industry Canada stellen aan blootstelling van consumenten aan RF-straling.

- Dit apparaat mag niet worden gebruikt in combinatie met andere antennes of zenders en mag niet bij dergelijke apparaten worden geplaatst.
- Dit apparaat voldoet aan de RSS-norm(en) van Industry Canada voor vergunning vrijgestelde apparatuur. Op het gebruik zijn de volgende twee voorwaarden van toepassing: (1) Dit apparaat mag geen storing veroorzaken en (2) dit apparaat moet bestand zijn tegen alle storingen, waaronder storing die een ongewenste werking tot gevolg kan hebben.
- Dit apparaat voldoet aan de normen van de FCC en Industry Canada voor blootstelling aan straling als vastgesteld voor een niet-gereguleerde omgeving. Dit apparaat moet worden geïnstalleerd en gebruikt met een minimale afstand van 20 cm tussen de zender en uw lichaam.



Bose Corporation verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG en alle andere vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen. De volledige conformiteitsverklaring kunt u vinden op [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)



Dit symbool betekent dat het product niet mag worden weggegooid als huishoudelijk afval en naar een geschikt inzamelpunt voor recycling moet worden gebracht. Het op de juiste wijze afvoeren en recycelen helpt natuurlijke hulpbronnen, de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen. Voor meer informatie over het afvoeren en recyclen van dit product neemt u contact op met de gemeente waar u woont, de afvalverwerkingsservice, of de winkel waar u dit product hebt gekocht.

Namen van en gehalte aan giftige of gevaarlijke stoffen of elementen						
	Giftige of gevaarlijke stoffen en elementen					
Naam onderdeel	Lood (Pb)	Kwik (Hg)	Cadmium (Cd)	Zeswaardig chroom (Cr(VI))	Polybroombifeny (PBB)	Polybroomdifenylether (PBDE)
PCB's	X	O	O	O	O	O
Metalen onderdelen	X	O	O	O	O	O
Plastic onderdelen	O	O	O	O	O	O
Luidsprekers	X	O	O	O	O	O
Kabels	X	O	O	O	O	O

Deze tabel is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van SJ/T 11364.  
O: Geeft aan dat het gehalte aan deze giftige of gevaarlijke stof in alle homogene materialen van dit onderdeel onder de maximaal toegelaten waarden in GB/T 26572 ligt.  
X: Geeft aan dat de giftige of gevaarlijke stof in minstens één van de voor dit onderdeel gebruikte homogene materialen boven de maximaal toegelaten waarden in GB/T 26572 ligt.

# Wettelijk verplichte informatie

## Vul het volgende in en bewaar deze informatie voor uw administratie:

Het serie- en modelnummer vindt u aan de onderkant van het product.

Serienummer: \_\_\_\_\_

Modelnummer: \_\_\_\_\_

Aankoopdatum: \_\_\_\_\_

Wij adviseren om het aankoopbewijs bij deze gebruikershandleiding te bewaren.

App Store is een servicemerk van Apple Inc.

Amazon, Kindle en Fire zijn handelsmerken van Amazon.com, Inc. of dochterondernemingen.

Android en Google Play zijn handelsmerken van Google Inc.

Het *Bluetooth®*-woordmerk en de logo's zijn gedeponierte handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik van dergelijke merken door Bose Corporation gebeurt onder licentie.



iHeartRadio is een gedeponiert handelsmerk van iHeartMedia, Inc.

iTunes is een handelsmerk van Apple Inc., gedeponiert in de VS en in andere landen.

De termen HDMI en HDMI High-Definition Multimedia Interface, en het HDMI-logo, zijn handelsmerken of gedeponierte handelsmerken van HDMI Licensing LLC in de Verenigde Staten en in andere landen.

Dit product bevat Spotify-software die onderworpen is aan licenties van derden die hier worden vermeld: [www.spotify.com/connect/third-party-license](http://www.spotify.com/connect/third-party-license)

Spotify is een gedeponiert handelsmerk van Spotify AB.

SoundTouch en het ontwerp van de mededeling omtrent draadloos gebruik zijn handelsmerken van Bose Corporation in de VS en andere landen.

Wi-Fi is een gedeponiert handelsmerk van Wi-Fi Alliance®.

Windows is een gedeponiert handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen.

©2015 Bose Corporation. Niets in deze uitgave mag worden gereproduceerd, gewijzigd, gedistribueerd of op andere wijze gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

## Inleiding

SoundTouch™ .....	7
Voordelen van het systeem.....	7

## SoundTouch™

Toegang krijgen tot SoundTouch™ .....	8
De SoundTouch™-bron selecteren .....	8
Gebruik van het SoundTouch™-bronscherm.....	9
Wat u kunt doen .....	9
Hoe voorkeursinstellingen werken .....	10
Wat u moet weten.....	10
Een voorkeursinstelling afspelen.....	10
Een voorkeursinstelling instellen .....	10
Recent afgespeelde content vinden .....	11

## Bluetooth®

Toegang krijgen tot Bluetooth® .....	12
De Bluetooth®-bron selecteren.....	12
Gebruik van het scherm van de Bluetooth®-bron .....	13
De Bluetooth®-koppellijst van het systeem wissen .....	13

## Het systeem bedienen met behulp van de app

Gebruik van de SoundTouch™-app .....	14
Hulp krijgen .....	14
Het systeem bedienen vanaf een andere smartphone, tablet of computer .....	14

## Geavanceerde functies

Bedieningsknop .....	15
Wi-Fi®-indicatorlampje .....	15
Wi-Fi®-functionaliteit uitschakelen.....	15
Wi-Fi® opnieuw inschakelen .....	15
De adapter terugzetten op de fabrieksinstellingen.....	16

# Inhoud

---

## Verzorging en onderhoud

Problemen oplossen .....	17
Een Wi-Fi®-netwerk toevoegen .....	18
Schoonmaken .....	18
Klantenservice .....	18
Beperkte garantie .....	18
Technische informatie.....	18

## Aanhangsel A: SoundTouch™ installeren

Installeren met behulp van de SoundTouch™-app .....	19
De installatiemodus op de adapter activeren.....	19
Het systeem toevoegen aan een bestaande SoundTouch™-account .....	19
De SoundTouch™-app downloaden en installeren .....	19
Het systeem met uw Wi-Fi®-thuisnetwerk verbinden.....	19

## Aanhangsel B: De draadloze adapter bevestigen

De adapter bevestigen .....	20
Bevestigingsopties .....	20
De adapter bevestigen .....	20

## SoundTouch™

---

Uw SoundTouch™ draadloze muzieksysteem biedt een helder, kamervullend geluid, draadloos gestreamd via uw Wi-Fi-thuisnetwerk. Met SoundTouch™ kunt u internetradio, muziekservices en uw muziekbibliotheek streamen.

Als u thuis Wi-Fi® en een voor SoundTouch™ geschikt entertainmentsysteem hebt, bent u klaar om te genieten van uw favoriete muziek in elke kamer die u wilt. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw systeem voor installatie-instructies.

**Opmerking:** Als u de adapter als accessoire hebt gekocht, raadpleeg dan de beknopte handleiding voor installatie-instructies.

### Voordelen van het systeem

- Het systeem stelt uw Bose-entertainmentsysteem in staat om draadloos muziek te streamen met behulp van SoundTouch™.
- Genieten van draadloze toegang tot internetradio, muziekservices en uw muziekbibliotheek.
- Hiermee voegt u de SoundTouch™-bron toe, zodat u uw voorkeursinstellingen, Recent-lijst en 'Wordt nu afgespeeld'-content op uw tv kunt weergeven en bedienen.
- De gratis SoundTouch™-app laat u internetradio, muziekservices en uw muziekbibliotheek verkennen vanaf uw computer, smartphone of tablet.
- U kunt maximaal zes voorkeursinstellingen instellen om met slechts één aanraking via uw afstandsbediening toegang te hebben tot uw muziek.
- Draadloze installatie met behulp van uw smartphone of tablet.
- Werkt met uw bestaande Wi-Fi-thuisnetwerk.
- Muziek streamen vanaf Bluetooth®-apparaten.
- Eenvoudig verdere systemen toevoegen, wanneer u maar wilt, voor een luisterervaring in meerdere kamers.
- Dankzij de grote keuze aan Bose®-audiosystemen kunt u voor elke kamer de juiste oplossing kiezen.

# SoundTouch™

## Toegang krijgen tot SoundTouch™

U hebt toegang tot SoundTouch™ via het menu BRON op uw entertainmentsysteem of via de SoundTouch™-app.

- SoundTouch™-bron: Deze biedt een subset SoundTouch™-functies waarmee u items uit de Recent-lijst kunt afspelen en voorkeursinstellingen kunt aanpassen.
- SoundTouch™-app: Met de app kunt de SoundTouch™ volledig bedienen, en kunt u uw systeeminstellingen beheren, internetradio verkennen, voorkeursinstellingen instellen en wijzigen, muziek naar het systeem streamen, zien wat er wordt afgespeeld en nog veel meer.

## De SoundTouch™-bron selecteren

Met de SoundTouch™-bron kunt u uw voorkeursinstellingen, Recent-lijst en ‘Wordt nu afgespeeld’-content bedienen met behulp van de afstandsbediening van het systeem.

1. Zet het systeem aan.
2. Druk op de knop **SOURCE** op uw afstandsbediening.

Het menu BRON verschijnt.



**Tip:** U kunt ook op de knop SOURCE op de bedieningsconsole drukken.


3. Selecteer SoundTouch™.

# Gebruik van het SoundTouch™-bronscherm

Met de afstandsbediening hebt u toegang tot een subset van de SoundTouch™-functies via het bronscherm.

## Wat u kunt doen

- Voorkeursinstellingen instellen en afspelen (pagina 10).
- Items van de Recent-lijst afspelen (pagina 11).
- Beschikbare informatie over artiesten weergeven in het paneel WORDT NU AFGESPEELED.
- Afspelen bedienen (afspelen, pauzeren, stoppen, naar de volgende track gaan, enz.).
- De muziekbron van de content weergeven in het paneel WORDT NU AFGESPEELED.



Voor betere bediening van uw SoundTouch™-systeem raadpleegt u “Gebruik van de SoundTouch™-app” op pagina 14.

## Hoe voorkeursinstellingen werken

---

U kunt zes voorkeursinstellingen aan uw persoonlijke wensen aanpassen voor uw favoriete streaming-muziekservices, zenders, afspeellijsten, artiesten, albums of songs uit uw muziekbibliotheek. U hebt op elk moment toegang tot uw muziek met de SoundTouch™-app op uw computer, smartphone, tablet of de SoundTouch™-bron op uw entertainmentsysteem.

### Wat u moet weten

- U kunt voorkeursinstellingen instellen via de app en uw entertainmentsysteem.
- Als de bron van de voorkeursinstelling uw iTunes- of Windows Media Player-muziekbibliotheek is, zorg dan dat de computer waarop uw muziekbibliotheek is opgeslagen aanstaat en verbonden is met hetzelfde netwerk als het SoundTouch™-systeem.

## Een voorkeursinstelling afspelen

---

Nadat u uw voorkeursinstellingen hebt ingesteld, selecteert u met de afstandsbediening of de app een voorkeursinstelling om deze af te spelen.

**Opmerking:** Als er geen muziek wordt afgespeeld, raadpleeg dan “Een voorkeursinstelling instellen”.

## Een voorkeursinstelling instellen

---

1. Stream muziek naar uw entertainmentsysteem met de app of de SoundTouch™-bron.
2. Terwijl de muziek wordt afgespeeld, houdt u een nummer van een voorkeursinstelling ingedrukt op de afstandsbediening (ongeveer 2 seconden).

**Opmerking:** Voor informatie over het gebruik van de SoundTouch™-app om uw voorkeursinstellingen in te stellen en te wijzigen, raadpleegt u het Help-systeem in de app.

## Recent afgespeelde content vinden

In de Recent-lijst worden de 50 laatst afgespeelde SoundTouch™-items weergegeven.

### 1. Selecteer **Naar de Recent-lijst gaan**.

Naar de  
Recent-  
lijst gaan



Het paneel RECENT-LIJST verschijnt.

Recent  
afgespeelde  
content



### 2. Selecteer een item.

## **Bluetooth®**

### **Toegang krijgen tot Bluetooth®**

U hebt toegang tot *Bluetooth* via het menu BRON op uw entertainmentsysteem of via de SoundTouch™-app.

#### **De Bluetooth®-bron selecteren**

Met de *Bluetooth*-bron kunt u uw *Bluetooth*-apparaten koppelen en bedienen met behulp van de afstandsbediening van uw systeem.

1. Zet het systeem aan.
2. Druk op de knop **SOURCE** op uw afstandsbediening.

Het menu BRON verschijnt.



**Tip:** U kunt ook op de knop SOURCE op de bedieningsconsole drukken.


3. Selecteer **Bluetooth®**.

## Gebruik van het scherm van de Bluetooth®-bron

Met de afstandsbediening hebt u toegang tot een subset van de Bluetooth-functies via het bronscherm.

### Wat u kunt doen

- Koppel en verbind uw Bluetooth-apparaten.
- Beschikbare informatie over artiesten weergeven in het paneel WORDT NU AFGESPEELD.
- Verbonden apparaten weergeven.
- Afspelen bedienen (afspelen, pauzeren, stoppen, naar de volgende track gaan, enz.).
- De koppellijst wissen.



## De Bluetooth®-koppellijst van het systeem wissen

Wanneer u een Bluetooth-apparaat met uw systeem koppelt, wordt de verbinding opgeslagen in de koppellijst van het systeem. Het kan nodig zijn de koppellijst te wissen als u geen verbinding kunt maken met een apparaat. Nadat u de lijst hebt gewist, moet u de eerder gekoppelde apparaten opnieuw koppelen.

1. Druk op de knop op de afstandsbediening.
2. Selecteer .

Er verschijnt een bericht als *Koppellijst gewist* op het scherm.

Het systeem is gereed om een apparaat te koppelen.

# Het systeem bedienen met behulp van de app

## Gebruik van de SoundTouch™ -app

De SoundTouch™-app is een softwaretoepassing waarmee u SoundTouch™ kunt installeren en bedienen vanaf uw smartphone, tablet of computer. Met de app werkt uw smartapparaat als een functierijke afstandsbediening voor uw SoundTouch™-systeem.

Met de app kunt u uw SoundTouch™-instellingen beheren, lokale en wereldwijde internetradiozenders verkennen, voorkeursinstellingen instellen en wijzigen, muziek naar het systeem streamen, zien wat er wordt afgespeeld en nog veel meer.

Nadat u het systeem op het netwerk hebt geïnstalleerd met de Soundtouch™-app kunt u beginnen streaming muziek te verkennen en uw voorkeursinstellingen aan uw wensen aan te passen.

### **Hulp krijgen**

#### [SoundTouch.com](http://SoundTouch.com)

Biedt toegang tot het supportcenter voor eigenaars, waar u het volgende kunt vinden: gebruikershandleidingen, artikelen, tips, handleidingen, een videobibliotheek en de gemeenschap van eigenaars waar u vragen en antwoorden kunt posten.

1. Open een browser.
2. Typ SoundTouch.com in het adresveld.

### **Help in de app**

Biedt helpteksten voor het gebruik van SoundTouch™.

1. Selecteer  op uw apparaat om de app te openen.
2. Selecteer **HELP** in het paneel VERKENNEN.


## **Het systeem bedienen vanaf een andere smartphone, tablet of computer**

Nadat u het SoundTouch™-systeem hebt geïnstalleerd op uw Wi-Fi®-thuisnetwerk kunt u het systeem bedienen vanaf elke smartphone, tablet of computer op hetzelfde netwerk.

1. Sluit het apparaat op hetzelfde netwerk aan als uw systeem.
2. Download en installeer de SoundTouch™-app op het apparaat:
  - iOS-gebruikers: uit de App Store downloaden
  - Android™-gebruikers: uit de Google Play™-store downloaden
  - Amazon Kindle Fire-gebruikers: uit de Amazon Appstore voor Android downloaden
  - Als u een computer gebruikt, open dan een browser en ga naar:  
**SoundTouch.com/app**

### Bedieningsknop

De SoundTouch™ draadloze adapter biedt geavanceerde functionaliteit via het ingedrukt houden van de bedieningsknop.



### Wi-Fi®-indicatorlampje

Het Wi-Fi-indicatorlampje aan de achterkant van de adapter geeft de Wi-Fi-status aan.

Activiteit van het indicatorlampje	Status van het systeem
Knipperend wit	Bezig verbinding te maken met Wi-Fi-netwerk
Continu wit	Systeem aan en verbonden met het Wi-Fi-netwerk
Continu oranje	Systeem in installatiemodus
Oranje, langzaam knipperend	Verbinding met Wi-Fi-netwerk verbroken
Oranje, snel knipperend	Firmwarefout - Bel Bose-service
Uit	Wi-Fi-netwerken uitgeschakeld of systeem aangesloten op ethernet

### Wi-Fi®-functionaliteit uitschakelen

Als u Wi-Fi uitschakelt, wordt de *Bluetooth*®-functie eveneens uitgeschakeld.

1. Schakel uw entertainmentsysteem in.
2. Houd de bedieningsknop op de adapter ingedrukt (8-10 seconden).
3. Wanneer het Wi-Fi-indicatorlampje uitgaat, laat u de bedieningsknop los.

### Wi-Fi® opnieuw inschakelen

Als u Wi-Fi opnieuw inschakelt, wordt de *Bluetooth*®-functie eveneens opnieuw ingeschakeld.

1. Schakel uw entertainmentsysteem in.
2. Druk op de bedieningsknop op de adapter.

## Geavanceerde functies

---

### De adapter terugzetten op de fabrieksinstellingen

---

Als u de fabrieksinstellingen terugzet, worden alle instellingen voor bronnen en netwerk uit het systeem gewist en wordt dit teruggezet op de oorspronkelijke fabrieksinstellingen.

**Opmerking:** Met deze resetfunctie worden uw SoundTouch™-voorgekozeninstellingen en opgeslagen netwerkinloggegevens gewist.

1. Schakel uw entertainmentssysteem in.
2. Koppel de Bose® link-kabel los.
3. Sluit de kabel opnieuw aan terwijl u de bedieningsknop ingedrukt houdt.
4. Start de SoundTouch™-app op uw computer en voeg het systeem aan uw netwerk toe.

## Problemen oplossen

Probleem	Wat te doen
De netwerkinstallatie kan niet worden voltooid of er kan geen adapter worden gedetecteerd	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sluit de SoundTouch™ draadloze adapter aan op de aansluiting Bose link op de bedieningsconsole.</li> <li>Sluit de USB-kabel aan op de draadloze adapter en bedieningsconsole. Deze kabel moet aangesloten blijven om het systeem goed te laten werken.</li> <li>Sluit het systeem aan op een stopcontact.</li> <li>Selecteer de juiste netwerkaanma en voer het wachtwoord in.</li> <li>Sluit het apparaat en het SoundTouch™-systeem op hetzelfde Wi-Fi®-netwerk aan.</li> <li>Plaats de draadloze adapter binnen het bereik van de router.</li> <li>Schakel Wi-Fi in op het apparaat (mobiel of computer) dat u gebruikt voor de installatie.</li> <li>Sluit andere open toepassingen.</li> <li>Als u een computer gebruikt voor de installatie, controleer dan de firewallinstellingen om te zien of de SoundTouch™-app en SoundTouch™-muziekserver toegelaten programma's zijn.</li> <li>Test uw internetverbinding door <a href="http://www.SoundTouch.com">www.SoundTouch.com</a> te laden.</li> <li>Start uw mobiele apparaat of computer en router opnieuw op.</li> <li>Start het SoundTouch™-systeem opnieuw op (raadpleeg het helpstelsel in de app).</li> <li>Verwijder de app, reset het systeem en start de installatie opnieuw.</li> <li>Als uw netwerk verborgen is, maak dit dan zichtbaar om de installatie te voltooien.</li> </ul>
Kan geen verbinding maken met het netwerk	<ul style="list-style-type: none"> <li>Als uw netwerkinformatie is gewijzigd of als u het systeem met een ander netwerk wilt verbinden, raadpleeg dan het Helpstelsel in de app.</li> <li>Sluit het systeem op het netwerk aan met een ethernetkabel.</li> </ul>
SoundTouch™ of Bluetooth® verschijnt niet in het bronmenu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Update de bedieningsconsole. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw entertainmentssysteem.</li> <li>Zorg dat de Bose® link-kabel en de USB-kabel volledig zijn aangesloten op de draadloze adapter en de bedieningsconsole. Deze kabels moeten aangesloten blijven om het systeem goed te laten werken.</li> <li>Voltooide de installatie van SoundTouch™. Zie pagina 19.</li> </ul>
Kan geen Bluetooth®-audio afspelen	<p>Op uw systeem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Koppel een apparaat via het <i>Bluetooth</i>-scherm BRON (pagina 13).</li> <li>Probeer een ander apparaat te koppelen.</li> <li>Zie "Geen geluid" in de gebruikershandleiding van uw systeem.</li> <li>Installeer SoundTouch™ eerst en voer alle systeemupdates uit.</li> <li>Wis de koppellijst van het systeem (pagina 13).</li> </ul> <p>Op uw mobiele apparaat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Schakel de <i>Bluetooth</i>-functie uit en weer in.</li> <li>Verwijder het systeem uit het <i>Bluetooth</i>-menu. Koppel opnieuw.</li> <li>Raadpleeg de documentatie van uw <i>Bluetooth</i>-apparaat.</li> </ul>

## **Verzorging en onderhoud**

---

### **Een Wi-Fi®-netwerk toevoegen**

---

Als uw netwerkinformatie is gewijzigd of als u uw systeem met een ander netwerk wilt verbinden, moet u de nieuwe netwerkinformatie toevoegen onder Netwerkinstallatie in het UNIFY®-menu op uw entertainmentsysteem.

1. Schakel uw entertainmentsysteem in.
2. Druk op de knop **Setup** op het knoppenpaneel van de bedieningsconsole.  
Het UNIFY-menu verschijnt.
3. Selecteer **Netwerkinstallatie**.
4. Volg de instructies op het scherm om uw netwerk te wijzigen.

## **Schoonmaken**

---

Om de SoundTouch™ draadloze adapter schoon te maken, neemt u de behuizing af met een zachte, droge doek.

- Gebruik geen oplosmiddelen, chemicaliën of sprays.
- Zorg dat u geen vloeistoffen morst en geen voorwerpen in openingen laat vallen.

## **Klantenservice**

---

Voor verdere hulp bij gebruik van het systeem:

- Ga naar [SoundTouch.com](http://SoundTouch.com)
- Neem contact op met de klantenservice van Bose®. Zie het blad met contactgegevens in de doos.

## **Beperkte garantie**

---

Uw SoundTouch™ draadloze adapter wordt gedekt door een beperkte garantie. Informatie over de beperkte garantie wordt vermeld op het blad met belangrijke veiligheidsinstructies in de doos. Zie het blad met belangrijke veiligheidsinstructies voor informatie over hoe u het product registreert. Als u dit niet doet, is dit niet van invloed op uw rechten onder de beperkte garantie.

De bij dit product verstrekte garantie-informatie is niet van toepassing in Australië en Nieuw-Zeeland. Zie onze website op [www.Bose.com.au/warranty](http://www.Bose.com.au/warranty) of [www.Bose.co.nz/warranty](http://www.Bose.co.nz/warranty) voor informatie over de garantie voor Australië en Nieuw-Zeeland.

## **Technische informatie**

---

**Afmetingen:** 5,1 cm H x 6,4 cm B x 23,8 cm D

**Gewicht:** 340 g

## Aanhangsel A: SoundTouch™ installeren

### Installeren met behulp van de SoundTouch™-app

Als u de netwerkinstallatie niet kunt voltooien via UNIFY® of als u de installatie niet hebt voltooid met de SoundTouch™-app, moet u de Bose® SoundTouch™-bedieningsapp downloaden en installeren op een smartphone, tablet of computer die is aangesloten op uw netwerk. De app voert u door het verbinden van het systeem met uw netwerk.

#### De installatiemodus op de adapter activeren

1. Druk op de bedieningsknop aan de achterkant van de SoundTouch™ draadloze adapter en houd deze 1-8 seconden ingedrukt.
2. Als het oranje Wi-Fi®-indicatorlampje knippert, laat dan de bedieningsknop los. Het Wi-Fi-indicatorlampje hoort continu oranje te zijn.

#### Het systeem toevoegen aan een bestaande SoundTouch™-account

Als u SoundTouch™ al geïnstalleerd hebt voor een ander systeem, hoeft u de SoundTouch™-app niet opnieuw te downloaden.

1. Selecteer het SoundTouch™-pictogram op uw smartphone of tablet  om de app te starten.
2. Selecteer **VERKENNEN > INSTELLINGEN > Systemen > SYSTEEM TOEVOEGEN** om nog een systeem toe te voegen.

De app voert u door de installatie.

#### De SoundTouch™-app downloaden en installeren

Download de SoundTouch™-bedieningsapp op uw smartphone, tablet of computer.



Bose® SoundTouch™  
controller app

- iOS-gebruikers: uit de App Store downloaden
- Android™-gebruikers: uit de Google Play™-store downloaden
- Amazon Kindle Fire-gebruikers: uit de Amazon Appstore voor Android downloaden
- Als u een computer gebruikt, open dan een browser en ga naar:  
[SoundTouch.com/app](http://SoundTouch.com/app)

#### Het systeem met uw Wi-Fi®-thuisnetwerk verbinden

Na het installeren van de app voegt u het systeem aan uw netwerk toe:

1. Selecteer  op uw smartphone, tablet of computer om de app te starten.  
De app voert u door het verbinden van het systeem met uw Wi-Fi-netwerk.
2. Volg de instructies in de app om de installatie te voltooien, waaronder het aanmaken van een SoundTouch™-account, het toevoegen van een muziekbibliotheek en muziekservices.

## Aanhangsel B: De draadloze adapter bevestigen

### De adapter bevestigen

U kunt de adapter aan een muur bevestigen (bevestigingsmateriaal niet bijgeleverd). Als u bij het bevestigingsmateriaal instructies hebt gekregen die afwijken van deze instructies, volg dan de instructies die u bij uw bevestigingsmateriaal hebt gekregen.

In deze tabel worden de specificaties voor het bevestigingsmateriaal beschreven.

Item	Hout	Gipsplaat
<b>Wanddikte</b>	19 mm of dikker	9,5 mm of dikker
<b>Boortje</b>	3 mm	4,5 mm
<b>Pan-head-houtschroeven (2)</b>	4,2 mm x 32 mm	4,2 mm x 32 mm
<b>Plastic muurpluggen (2)</b>	Niet gebruikt	25 mm


### Bevestigingsopties

Er zijn twee manieren om de adapter te bevestigen:

- Verticaal, aansluitpaneel naar links gericht
- Horizontaal, aansluitpaneel naar boven gericht

### De adapter bevestigen

1. Boor twee gaten op een afstand van 159 mm van hartlijn tot hartlijn.



2. Breng plastic muurpluggen in (bij bevestiging op gipsplaat).
3. Breng pan-head-houtschroeven aan.  
**Opmerking:** Laat de schroefkoppen 6,4 mm buiten het wandoppervlak uitsteken.
4. Plaats de adapter op de schroeven.



# Instrucciones importantes de seguridad

---

Tómese el tiempo para leer cuidadosamente esta guía y seguir las Instrucciones importantes de seguridad.



El símbolo de relámpago con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero alerta al usuario acerca de la presencia de tensión peligrosa no aislada dentro de la carcasa del sistema que puede ser de una magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero, tal como está marcado en el sistema, tiene como propósito alertar al usuario sobre la presencia de instrucciones operativas y de mantenimiento importantes en la guía del usuario.



## PRECAUCIONES:

- No realice modificaciones al sistema o a los accesorios.
  - Las alteraciones no autorizadas pueden comprometer la seguridad, el cumplimiento regulatorio y el desempeño del sistema.
- 



## ADVERTENCIAS:

- Para reducir el riesgo de incendio o de choque eléctrico, no exponga este producto a la lluvia ni a la humedad.
  - No exponga el aparato a goteos o salpicaduras, no coloque encima, ni cerca del aparato, objetos llenos con líquido como jarrones. Al igual que con los productos electrónicos, tenga cuidado de no derramar líquidos sobre ninguna pieza del producto. La exposición a líquidos puede crear una falla o un peligro de incendio.
  - No coloque sobre el producto, o en su proximidad fuentes de llamas al descubierto, como velas encendidas.
- 

1. Lea estas instrucciones.
2. Conserve estas instrucciones.
3. Tenga en cuenta las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No use este aparato cerca del agua.
6. Límpielo solamente con un paño seco.
7. No bloquee ninguna abertura de ventilación. Realice la instalación conforme a las instrucciones del fabricante.
8. No lo coloque cerca de ninguna fuente de calor, como radiadores, rejillas de calefacción, estufas u otros aparatos (incluidos los amplificadores) que produzcan calor.
9. Use solamente los accesorios especificados por el fabricante.
10. Derive todas las tareas de servicio a personal calificado. Se requieren tareas de servicio si el aparato se daña de alguna manera, por ejemplo si se dañó el enchufe o cable de alimentación, si se derramó líquido o cayeron objetos dentro del aparato, si el aparato estuvo expuesto a la lluvia o la humedad, si no funciona normalmente, o si se cayó.

## NOTAS:

- La etiqueta del producto se encuentra en la parte inferior del producto.
- Este producto se debe utilizar en interiores. No está diseñado ni fue sometido a pruebas para su uso al aire libre, en vehículos de recreación o en barcos.

## Información importante de cumplimiento

**Nota:** este equipo fue sometido a pruebas y se comprobó que cumple con los límites de un dispositivo digital Clase B, conforme a la Parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación domiciliaria. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se usa conforme a las instrucciones, puede causar una interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que la interferencia no se produzca en una instalación en particular. Si este equipo no causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, que se puede determinar al apagar y encender el equipo, se aconseja al usuario intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un enchufe en un circuito diferente al que esté conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o con un técnico en radio o televisión experimentado para obtener ayuda.

# Instrucciones importantes de seguridad

## ADVERTENCIA DE LA FCC

Los cambios o las modificaciones no aprobadas expresamente por Bose Corporation podrían invalidar la autoridad del usuario para operar el equipo.

## En los EE. UU. y Canadá

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

(1) Es posible que este dispositivo no cause una interferencia perjudicial y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluida la interferencia que puede causar un funcionamiento no deseado.

Este aparato digital Clase B cumple con las normas canadienses ICES-003 / CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B).

Este dispositivo cumple con los límites de exposición a la radiación de RF de la FCC y de la Industry Canada establecidos para la población en general.

- Este dispositivo no se debe ubicar ni operar conjuntamente con ninguna otra antena o transmisor.
- Este dispositivo cumple con las normas RSS sin licencia de la industria canadiense. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) es posible que este dispositivo no cause una interferencia y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluida la interferencia que puede causar un funcionamiento no deseado.
- Este equipo cumple con los límites de exposición a radiación de la FCC y de la Industry Canada establecidos para un ambiente no controlado. Este equipo debe instalarse y operarse a una distancia mínima de 8 pulg. (20 cm) entre el radiador y su cuerpo.



Por la presente, Bose Corporation declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y con otras cláusulas relevantes de la Directiva 1999/5/EC y con todos los demás requisitos de directivas correspondientes de la UE. Puede encontrar la declaración completa de conformidad en [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)



Este símbolo significa que el producto no debe desecharse como residuo domiciliario y que debe entregarse a un centro de recolección apropiado para ser reciclado. La eliminación y el reciclado adecuados ayudan a proteger los recursos naturales, la salud de las personas y el medioambiente. Para obtener más información sobre la eliminación y el reciclado de este producto, póngase en contacto con su municipio, el servicio de gestión de residuos o el comercio donde haya comprado este producto.

Nombres y contenidos de las sustancias o elementos tóxicos o peligrosos						
Nombre de parte	Sustancias y elementos tóxicos o peligrosos					
	Plomo (pb)	Mercurio (Hg)	Cadmio (Cd)	Hexavalente	Bifenilo polibromado (PBB)	Difeniléter polibromado (PBDE)
PCB	X	O	O	O	O	O
Partes metálicas	X	O	O	O	O	O
Partes plásticas	O	O	O	O	O	O
Altavoces	X	O	O	O	O	O
Cables	X	O	O	O	O	O

Esta tabla se preparó conforme a las cláusulas de SJ/T 11364.

O: indica que esta sustancia tóxica o peligrosa que está presente en todos los materiales homogéneos de esta parte se encuentra por debajo del requisito de límite en GB/T 26572.

X: indica que esta sustancia tóxica o peligrosa que está presente en al menos uno de los materiales homogéneos utilizados para esta parte se encuentra por encima del requisito de límite en GB/T 26572

# Información regulatoria

## Complete y conserve para su registro:

El número de serie y de modelo se pueden encontrar en la parte inferior del sistema.

Número de serie: \_\_\_\_\_

Número de modelo: \_\_\_\_\_

Fecha de compra: \_\_\_\_\_

Le sugerimos que guarde el recibo con esta guía del usuario

App Store es una marca de servicio de Apple Inc.

Amazon, Kindle y Fire son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o empresas asociadas.

Android y Google Play son marcas comerciales de Google Inc.

La marca y los logotipos de *Bluetooth*® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Bose Corporation se encuentra bajo licencia.



iHeartRadio es una marca comercial registrada de iHeartMedia, Inc.

iTunes es una marca registrada de Apple Inc., registrada en los Estados Unidos y en otros países.

Los términos HDMI y HDMI High-Definition Multimedia Interface y el logotipo HDMI son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing LLC en los Estados Unidos y otros países.

Este producto incorpora software de Spotify que está sujeto a licencias de otras empresas que se listan en: [www.spotify.com/connect/third-party-license](http://www.spotify.com/connect/third-party-license)

Spotify es una marca comercial registrada de Spotify AB.

SoundTouch y el diseño de la nota inalámbrica son marcas comerciales de Bose Corporation en los EE. UU. y otros países.

Wi-Fi es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance®.

Windows es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation en Estados Unidos y en otros países.

©2015 Bose Corporation. No se puede reproducir, modificar, distribuir, o usar de otra manera ninguna parte de este trabajo sin previo consentimiento por escrito.

## Introducción

SoundTouch™ .....	7
Beneficios del sistema .....	7

## SoundTouch™

Acceso a SoundTouch™ .....	8
Selección de la fuente de SoundTouch™ .....	8
Uso de la pantalla de fuente de SoundTouch™ .....	9
Opciones disponibles .....	9
Cómo funcionan los Ajustes predefinidos .....	10
Lo que debe saber .....	10
Reproducción de un Ajuste predefinido .....	10
Configuración de un Ajuste predefinido .....	10
Búsqueda de contenido reproducido recientemente .....	11

## Bluetooth®

Acceder a Bluetooth® .....	12
Selección de la fuente de Bluetooth® .....	12
Uso de la pantalla de la fuente de Bluetooth® .....	13
Borrado de la lista de dispositivos emparejados con Bluetooth® ....	13

## Control del sistema con la aplicación

Uso de la aplicación SoundTouch™ .....	14
Obtener ayuda .....	14
Control del sistema desde otro teléfono inteligente, tableta o computadora.....	14

## Funciones avanzadas

Botón Control .....	15
Indicador Wi-Fi® .....	15
Desactivación de la función Wi-Fi® .....	15
Reactivación de la función Wi-Fi® .....	15
Reinicio del adaptador .....	16

# Contenido

---

## Cuidado y mantenimiento

Solución de problemas .....	17
Añadir una red Wi-Fi® .....	18
Limpieza .....	18
Servicio de atención al cliente .....	18
Garantía limitada .....	18
Información técnica .....	18

## Apéndice A: configuración de SoundTouch™

Configuración usando la aplicación SoundTouch™ .....	19
Activar el modo de configuración en el adaptador .....	19
Agregar un sistema a una cuenta SoundTouch™ existente.....	19
Descargar e instalar la aplicación SoundTouch™ .....	19
Conexión del sistema a la red Wi-Fi® doméstica .....	19

## Apéndice B: montaje del adaptador inalámbrico

Montaje del adaptador .....	20
Opciones de montaje .....	20
Para montar el adaptador.....	20

## SoundTouch™

---

El sistema de música SoundTouch™ ofrece un sonido nítido que inunda el ambiente transmitido de forma inalámbrica a través de la red Wi-Fi del hogar. Con SoundTouch™, puede transmitir radio por Internet, servicios de música y la biblioteca de música.

Si tiene Wi-Fi® en su casa y un sistema de entretenimiento SoundTouch™, está listo para disfrutar su música favorita en cualquier habitación que desee. Consulte la guía del usuario del sistema para obtener las instrucciones de configuración.

**Nota:** si compró el adaptador como un accesorio, consulte la guía rápida de inicio para obtener las instrucciones de configuración.

### Beneficios del sistema

- Permite que el sistema de entretenimiento Bose transmita música de manera inalámbrica usando SoundTouch™.
- Disfrute el acceso inalámbrico a radio por Internet, servicios de música y a su biblioteca de música.
- Suma la fuente de SoundTouch™, lo que le permite ver y controlar el contenido de Ajustes predefinidos, Temas recientes y Reproduciendo ahora en el televisor.
- La aplicación SoundTouch™ gratuita le permite explorar radio por Internet, servicios de música y su biblioteca de música desde su computadora, teléfono inteligente o tableta.
- Personalice hasta seis ajustes predefinidos para transmitir música con un solo toque desde su control remoto.
- Realice una instalación inalámbrica con su teléfono inteligente o tableta.
- Funciona con su red Wi-Fi doméstica existente.
- Transmita música desde dispositivos con Bluetooth®.
- Simplemente agregue más sistemas en cualquier momento para vivir una experiencia auditiva en varias habitaciones.
- La amplia selección de sistemas de audio de Bose® le permite elegir la solución adecuada para cualquier habitación.

## Acceso a SoundTouch™

Puede acceder a SoundTouch™ desde el menú FUENTE en su sistema de entretenimiento o a través de la aplicación SoundTouch™.

- Fuente SoundTouch™: ofrece un subconjunto de funciones de SoundTouch™ que le permite transmitir la reproducción reciente y personalizar los ajustes predefinidos.
- Aplicación SoundTouch™: ofrece un control completo de SoundTouch™, que permite administrar la configuración del sistema, explorar radio por Internet, definir y cambiar ajustes predefinidos, transmitir música al sistema, ver qué se está reproduciendo y mucho más.

## Selección de la fuente de SoundTouch™

La fuente SoundTouch™ le permite controlar los Ajustes predefinidos, Temas recientes y Reproduciendo ahora con el control remoto del sistema.

1. Encienda el sistema.
2. Presione el botón **SOURCE** en el control remoto.  
Aparece el menú FUENTE.



**Consejo:** también puede presionar el botón SOURCE en la consola de control.


3. Seleccione **SoundTouch™**.

## Uso de la pantalla de fuente de SoundTouch™

Con el control remoto puede acceder a un subconjunto de funciones de SoundTouch™ de la pantalla de fuente.

### Opciones disponibles

- Personalizar y reproducir Ajustes predefinidos (página 10).
- Reproducir Temas recientes (página 11).
- Ver la información disponible de artistas en el panel REPRODUCIENDO AHORA.
- Controlar la reproducción (reproducir, pausa, detener, avanzar a la próxima pista, etc.).
- Ver la fuente de música del contenido en el panel REPRODUCIENDO AHORA.



Para tener un mayor control del sistema SoundTouch™, consulte “Uso de la aplicación SoundTouch™” en la página 14.

## Cómo funcionan los Ajustes predefinidos

---

Puede personalizar seis Ajustes predefinidos de sus servicios favoritos de transmisión de música; estaciones, listas de reproducción, artistas, álbumes o canciones de su biblioteca de música. Puede acceder a su música en cualquier momento usando la aplicación SoundTouch™ en su computadora, teléfono inteligente, tableta, o la fuente SoundTouch™ en su sistema de entretenimiento.

### Lo que debe saber

- Puede definir los Ajustes predefinidos desde la aplicación y el sistema de entretenimiento.
- Si la fuente de Ajuste predefinido es su biblioteca de iTunes o Windows Media Player, asegúrese de que la computadora que almacena la biblioteca de música esté encendida y conectada a la misma red que el sistema SoundTouch™.

## Reproducción de un Ajuste predefinido

---

Una vez que personalice los ajustes predefinidos, seleccione un ajuste predefinido usando el control remoto o la aplicación para reproducirlo.

**Nota:** si no se reproduce música, consulte “Configuración de un Ajuste predefinido”.

## Configuración de un Ajuste predefinido

---

1. Transmite música a su sistema de entretenimiento usando la aplicación o la fuente de SoundTouch™.
2. Mientras se reproduce música, mantenga presionado un número de Ajuste predefinido en el control remoto (aproximadamente 2 segundos).

**Nota:** para obtener información sobre el uso de la aplicación SoundTouch™ para ajustar y cambiar los Ajustes predefinidos, consulte la ayuda de la aplicación.

## Búsqueda de contenido reproducido recientemente

La lista Temas recientes muestra los 50 temas reproducidos más recientemente por SoundTouch™.

1. Seleccione **Ir a Temas recientes**.



Aparece el panel TEMAS RECIENTES.



2. Seleccione un tema.

### **Acceder a Bluetooth®**

Puede acceder a *Bluetooth* desde el menú FUENTE de su sistema de entretenimiento, o a través de la aplicación SoundTouch™.

#### **Selección de la fuente de Bluetooth®**

La fuente de *Bluetooth* le permite emparejar y controlar los dispositivos con *Bluetooth* activado con el control remoto del sistema.

1. Encienda el sistema.
2. Presione el botón **SOURCE** en el control remoto.  
Aparece el menú FUENTE.



**Consejo:** también puede presionar el botón SOURCE en la consola de control.


3. Seleccione **Bluetooth®**.

## Uso de la pantalla de la fuente de Bluetooth®

Con el control remoto puede acceder a un subconjunto de características de Bluetooth desde la pantalla de fuente.

### Opciones disponibles

- Emparejar y conectar dispositivos con Bluetooth.
- Ver la información disponible de artistas en el panel REPRODUCIENDO AHORA.
- Ver dispositivos conectados.
- Controlar la reproducción (reproducir, pausa, detener, avanzar a la próxima pista, etc).
- Borrar la lista de dispositivos emparejados.



## Borrado de la lista de dispositivos emparejados con Bluetooth®

Cuando empareja un dispositivo con Bluetooth al sistema, la conexión se guarda en la lista de dispositivos conectados del sistema. Es posible que deba borrar la lista de dispositivos emparejados si no puede conectar un dispositivo. Una vez que borra la lista, debe volver a emparejar los dispositivos previamente emparejados.

1. Presione el botón en el control remoto.
2. Seleccionar .

Un mensaje similar a *Lista de dispositivos emparejados borrada* aparece en la pantalla.

El sistema está listo para emparejar a un dispositivo.

## Control del sistema con la aplicación

---

### Uso de la aplicación SoundTouch™

---

La aplicación SoundTouch™ es una aplicación de software que le permite configurar y controlar SoundTouch™ desde su teléfono inteligente, tableta o computadora. Al usar la aplicación, el dispositivo inteligente actúa como un control remoto de varias funciones para el sistema de SoundTouch™.

La aplicación le permite administrar la configuración de SoundTouch™, agregar servicios de música, explorar estaciones de radio locales y mundiales por Internet, fijar y cambiar Ajustes predefinidos, transmitir música al sistema, ver qué se está reproduciendo y mucho más.

Luego de configurar el sistema en la red con la aplicación SoundTouch™, está listo para explorar la transmisión de música y personalizar los ajustes predefinidos.

### Obtener ayuda



Proporciona acceso al centro de asistencia al usuario, que incluye: manuales del usuario, artículos, sugerencias, tutoriales, una biblioteca de videos y la comunidad de usuarios donde puede publicar preguntas y respuestas.

1. Abra su navegador.
2. En el campo de la dirección escriba SoundTouch.com

### Ayuda de la aplicación

Ofrece artículos de ayuda para usar SoundTouch™.

1. En el dispositivo, seleccione  para abrir la aplicación.
2. Desde el panel EXPLORAR, seleccione AYUDA.


### Control del sistema desde otro teléfono inteligente, tableta o computadora

Una vez que haya configurado el sistema SoundTouch™ en su red Wi-Fi® doméstica, puede controlar el sistema desde cualquier teléfono inteligente, tableta o computadora en la misma red.

1. Conecte el dispositivo a la misma red que su sistema.
2. En el dispositivo, descargue e instale la aplicación SoundTouch™:
  - Usuarios de iOS: descargar desde App Store
  - Usuarios de Android™: descargar de la tienda de Google Play™
  - Usuarios de Amazon Kindle Fire: descargar de Amazon Appstore para Android
  - Si está usando una computadora, abra el explorador y vaya a:  
**SoundTouch.com/app**

### Botón Control

El adaptador inalámbrico SoundTouch™ ofrece una funcionalidad avanzada cuando se mantiene presionado el botón Control.



### Indicador Wi-Fi®

El indicador Wi-Fi en la parte posterior del adaptador indica el estado del Wi-Fi.

Actividad del indicador	Estado del sistema
Blanco intermitente	Conectándose a una red Wi-Fi
Blanco fijo	Blanco fijo
Ámbar fijo	Sistema en modo de configuración
Ámbar intermitente lento	Desconectado de la red Wi-Fi
Ámbar intermitente rápido	Error de firmware: llamar al servicio técnico de Bose
Apagado	Red Wi-Fi desactivada o sistema conectado a Ethernet

### Desactivación de la función Wi-Fi®

La desactivación de Wi-Fi también desactiva la función Bluetooth®.

1. Encienda el sistema de entretenimiento.
2. Mantenga presionado el botón Control del adaptador (de 8 a 10 segundos).
3. Cuando se apague el indicador Wi-Fi, suelte el botón Control.

### Reactivación de la función Wi-Fi®

Si vuelve a activar el Wi-Fi también se activa la función Bluetooth®.

1. Encienda el sistema de entretenimiento.
2. Presione el botón Control del adaptador.

## Funciones avanzadas

### Reinicio del adaptador

La restauración de la configuración de fábrica elimina todas las configuraciones de fuente y red del sistema y restablece la configuración original.

**Nota:** esta función de restablecimiento borra todos los Ajustes predefinidos de SoundTouch™ y las credenciales de red guardadas.

1. Encienda el sistema de entretenimiento.
2. Desconecte el cable Bose link®.
3. Mantenga presionado el botón de control al volver a conectar el cable.
4. Inicie la aplicación SoundTouch™ en la computadora y agregue el sistema a la red.

## Solución de problemas

Problema	Qué hacer
No se puede completar la configuración de red o no se detecta el adaptador.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Enchufe el adaptador inalámbrico SoundTouch™ en el conector Bose link en la consola de control.</li> <li>Conecte el cable USB al adaptador inalámbrico y a la consola de control. Este cable debe permanecer conectado para que el sistema funcione correctamente.</li> <li>Conecte el sistema a una fuente de alimentación de CA (red eléctrica).</li> <li>Seleccione el nombre y la contraseña de red correctos.</li> <li>Conecte el dispositivo y el sistema SoundTouch™ a la misma red de Wi-Fi®.</li> <li>Coloque el adaptador inalámbrico dentro del alcance del router.</li> <li>Active el Wi-Fi en el dispositivo (móvil o computadora) que está usando para configurar.</li> <li>Cierre otras aplicaciones que estén abiertas.</li> <li>Si usa una computadora para la configuración, verifique la configuración de firewall para asegurarse de que la aplicación SoundTouch™ y SoundTouch™ Music Server sean programas habilitados.</li> <li>Pruebe la conexión de Internet cargando <a href="http://www.SoundTouch.com">www.SoundTouch.com</a></li> <li>Reinic peace el dispositivo móvil, o computadora y router.</li> <li>Reinic peace el sistema SoundTouch™ (consulte la Ayuda de sistema de la aplicación).</li> <li>Desinstale la aplicación, restablezca el sistema y reinicie la configuración.</li> <li>Muestre el nombre de la red si está oculto para completar la configuración.</li> </ul>
No se puede conectar a la red	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si la red cambió, o desea conectar el sistema a otra red, consulte el sistema de Ayuda de la aplicación.</li> <li>Conecte la red con un cable Ethernet.</li> </ul>
SoundTouch™ o Bluetooth® no aparecen en el menú fuente	<ul style="list-style-type: none"> <li>Actualización de la consola de control. Consulte la guía de funcionamiento del sistema de entretenimiento.</li> <li>Verifique que el cable Bose® link y el cable USB estén conectados correctamente al adaptador inalámbrico y a la consola de control. Estos cables deben permanecer conectados para que el sistema funcione correctamente.</li> <li>Complete la configuración de SoundTouch™. Consulte página 19.</li> </ul>
No se puede reproducir audio de Bluetooth®	<p>En su sistema:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Empareje un dispositivo usando la pantalla FUENTE de <i>Bluetooth</i> (página 13).</li> <li>Intenta emparejar otro dispositivo móvil.</li> <li>Consulte "Sin sonido" en la guía de funcionamiento del sistema.</li> <li>Primero configure SoundTouch™ y luego realice todas las actualizaciones del sistema.</li> <li>Borre la lista de dispositivos emparejados (página 13).</li> </ul> <p>En su dispositivo móvil:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Desactive y vuelva a activar la función de <i>Bluetooth</i>.</li> <li>Elimine el sistema del menú <i>Bluetooth</i>. Vuelva a emparejar.</li> <li>Consulte la documentación del dispositivo con <i>Bluetooth</i>.</li> </ul>

## Cuidado y mantenimiento

---

### Añadir una red Wi-Fi®

---

Si la información de la red ha cambiado, o para conectar el sistema a otra red, debe agregar la nueva información de red en Configurar red en el menú UNIFY® en el sistema de entretenimiento.

1. Encienda el sistema de entretenimiento.
2. Presione el botón **Configurar** en el panel de botones de la consola de control. Aparece el menú UNIFICAR.
3. Seleccione **Configurar red**.
4. Siga las instrucciones en la pantalla para cambiar la red.

## Limpieza

---

Para limpiar el adaptador inalámbrico SoundTouch™, límpie el compartimiento con un paño suave y seco.

- No use solventes, productos químicos o rociadores.
- No deje que se vuelquen líquidos o que caigan objetos en las aberturas.

## Servicio de atención al cliente

---

Para obtener ayuda adicional sobre el uso del sistema:

- Visite [SoundTouch.com](http://SoundTouch.com)
- Comuníquese con el servicio de atención al cliente de Bose®. Remítase a la hoja de contacto que se encuentra en la caja.

## Garantía limitada

---

El adaptador inalámbrico SoundTouch™ cuenta con una garantía limitada.

La información de la garantía limitada se encuentra en la hoja de Instrucciones importantes de seguridad en la caja. Consulte la hoja de Instrucciones importantes de seguridad para registrarse. Si no registra su producto no afectará sus derechos de garantía limitada.

La información de la garantía que se proporciona con este producto no se aplica en Australia y en Nueva Zelanda. Visite nuestro sitio web [www.Bose.com.au/warranty](http://www.Bose.com.au/warranty) o [www.Bose.co.nz/warranty](http://www.Bose.co.nz/warranty) para obtener detalles de la garantía de Australia y Nueva Zelanda.

## Información técnica

---

**Tamaño:** 2pulgadas de alto x 2 ½ pulgadas de ancho x 9 ¾ pulgadas de profundidad (5,1 cm x 6,4 cm x 23,8 cm)

**Peso:** 0,34 kg (0,75 libras)

# Configuración usando la aplicación SoundTouch™

Si no puede completar la configuración de red mediante UNIFY® o si no completó la configuración con la aplicación SoundTouch™, debe descargar e instalar la aplicación de control de Bose® de SoundTouch™ en un teléfono inteligente, tableta, o computadora que esté conectada a la red. La aplicación lo guía durante la conexión del sistema a la red.

## Activar el modo de configuración en el adaptador

1. En la parte posterior del adaptador inalámbrico SoundTouch™, mantenga presionado el botón Control entre 1 y 8 segundos.
2. Cuando el indicador Wi-Fi® ámbar parpadea, suelte el botón Control. El indicador Wi-Fi debe iluminarse en ámbar sin parpadeo.

## Agregar un sistema a una cuenta SoundTouch™ existente

Si ya configuró SoundTouch™ para otro sistema, no es necesario que vuelva a descargar la aplicación SoundTouch™.

1. En el teléfono inteligente o la tableta, seleccione el ícono SoundTouch™ para iniciar la aplicación.
2. Seleccione **EXPLORAR > CONFIGURACIÓN > Sistemas > AGREGAR SISTEMA** para agregar otro sistema.



La aplicación lo guía durante la configuración.

## Descargar e instalar la aplicación SoundTouch™

En el teléfono inteligente, tableta o computadora, descargue la **aplicación de control de SoundTouch™**.



Bose® SoundTouch™  
controller app

- Usuarios de iOS: descargar desde App Store
- Usuarios de Android™: descargar de la tienda de Google Play™
- Usuarios de Amazon Kindle Fire: descargar de Amazon Appstore para Android
- Si está usando una computadora, abra el explorador y vaya a:  
[SoundTouch.com/app](http://SoundTouch.com/app)

## Conexión del sistema a la red Wi-Fi® doméstica

Después de instalar la aplicación, agregue el sistema a la red:

1. En el teléfono inteligente o la tableta, seleccione para iniciar la aplicación. La aplicación lo guiará durante la conexión del sistema a la red Wi-Fi.
2. Siga las instrucciones en la aplicación para completar la configuración, incluida la creación de una cuenta de SoundTouch™, al agregar una biblioteca de música y servicios de música.

## Apéndice B: montaje del adaptador inalámbrico

### Montaje del adaptador

Puede montar el adaptador en la pared (no se incluyen los herrajes). Si el equipo de montaje trae instrucciones que difieren de estas instrucciones, siga las instrucciones proporcionadas con el equipo de montaje.

Esta tabla describe las especificaciones del equipo de montaje.

Elemento	Madera	Yeso
Espesor de la pared	$\frac{3}{4}$ pulg. (19 mm) o más gruesa	$\frac{3}{8}$ pulg. (9,5 mm) o más gruesa
Broca	$\frac{1}{8}$ pulg. (3 mm)	$\frac{3}{16}$ pulg. (4,5 mm)
Tornillos de madera de cabeza troncocónica (2)	N. <sup>o</sup> 8 x 1 $\frac{1}{4}$ pulg. (32 mm)	N. <sup>o</sup> 8 x 1 $\frac{1}{4}$ pulg. (32 mm)
Anclajes plásticos para pared (2)	No se utiliza	N. <sup>o</sup> 6 - 8 x 1 pulg. (25 mm)


### Opciones de montaje

Existen dos formas de montar el adaptador:

- Verticalmente: panel de conectores mirando hacia la izquierda
- Horizontalmente: panel de conectores mirando hacia arriba

### Para montar el adaptador

1. Perfore dos orificios de 6 $\frac{1}{4}$  pulg. (159 mm) de centro a centro.



2. Inserte los anclajes plásticos de pared (si va a realizar la instalación en paneles).
3. Coloque los tornillos de madera de cabeza troncocónica.  
**Nota:** deje las cabezas de los tornillos  $\frac{1}{4}$  pulg. (6,35 mm) por sobre la superficie de la pared.
4. Coloque el adaptador sobre los tornillos.



# Tärkeitä turvallisuusohjeita

---

Perehdy tähän käyttöohjeseen ja noudata tärkeitä turvaohjeita.

 Nuolisalama ja tasavuinen kolmio varoittavat käyttäjää laitteen sisällä olevasta vaarallisesta eristämättömästä jännitteestä ja sähköiskun vaarasta.

 Tasakulmaisen kolmion sisällä näkyvä huutomerkki muistuttaa käyttäjää tärkeistä käyttö- ja huolto-ohjeista, jotka ovat tässä käyttöohjeessä.

## VAROTOIMENPITEET:

- Älä tee muutoksia järjestelmään tai sen varusteisiin.
- Ilman lupaa tehdyt muutokset voivat vaarantaa turvallisuuden, vaatimusten täyttymisen ja järjestelmän tehokkuuden.

## VAROITUKSIA:

- Älä altista tätä tuotetta sateelle tai kosteudelle tulipalon tai sähköiskun vaaran välittämiseksi.
- Älä sijoita vuotavia, roiskuvia tai nesteitä sisältäviä esineitä, kuten maljakkoita, laitteen päälle tai lähelle. Älä anna minkään nesteen roiskua laitteeseen. Altistuminen nesteille voi aiheuttaa vian ja/ tai tulipalon vaaran.
- Älä laita laitteen päälle tai lähelle avotulta, esimerkiksi palavaa kynttilää.

1. Lue nämä ohjeet.
2. Säilytä nämä ohjeet.
3. Ota kaikki varoitukset huomioon.
4. Noudata kaikkia ohjeita.
5. Älä käytä tätä laitetta veden lähettyvillä.
6. Puhdistaa ainoastaan kuivalla pyyheliinalla.
7. Älä sulje tuuletusaukkoja. Asenna laite valmistajan ohjeiden mukaisesti.
8. Älä sijoita laitetta minkään lämmönlähteen kuten lämpöpattereiden, lämpövaraajien, uunien tai muiden lämpöä tuottavien laitteiden (vahvistimet mukaan lukien) lähelle.
9. Käytä ainoastaan valmistajan määritämää lisävarustetta.
10. Vain koulutettu huoltohenkilöstö saa tehdä huoltotyöt. Laite on huollettava, jos se vaarioituu millään tavalla. Huoltotarpeen aiheuttaviaasioita ovat mm. seuraavat: virtajohdot tai -pistokset on vaarioitunut, laitteen päälle on läikkynyt nestettä tai pudonnut esine, laite on kastunut tai kostunut, laite ei toimi normaalisti tai laite on pudonnut.

## HUOMAUTUKSIA:

- Tämän laitteen tarra on sen pohjassa.
- Tätä tuotetta on käytettävä sisätiloissa. Sitä ei ole suunniteltu ulkona, ajoneuvoissa tai veneissä käytettäväksi, eikä ulkona käytettämistä ole testattu.

## Tärkeitä yhteensovivuustietoja

**Huomautus:** Tämä laite on testattu ja todettu luokan B digitaalilaitetta koskevien FCC:n sääntöjen osan 15 rajoitusten mukaiseksi. Nämä rajoitukset on tarkoitettu antamaan kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan kotioloissa. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi sääteillä energiata radiotaajuuudella, ja jos sitä ei ole asennettu tai käytetä ohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa vahingollista häiriintää radioliikenteelle. Kuitenkaan ei voida taata, ettei missään yksittäisessä asennuksessa aiheutuisi häiriöitä. Jos tämä laite aiheuttaa radio- tai televisiovastaanotossa häiriöitä, jotka ovat helposti todettavissa kytkemällä laitteeseen virta ja sammuttamalla se, käyttäjän tulisi yrittää poistaa häiriöt seuraavilla toimenpiteillä:

- Suuntaa vastaanottoantenni toisin tai siirrä se toiseen paikkaan.
- Siirrä laite ja vastaanotin kauemmas toisistaan.
- Kytke laite ja vastaanotin eri virtapiireissä oleviin pistorasioihin.
- Kysy neuvoa jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio- tai tv-asentajalta.

# Tärkeitä turvallisuusohjeita

## FCC:n (Yhdysvaltain tietoliikenneviranomaisen) varoitus

Tähän laitteeseen tehtävät Bose Corporationin hyväksymättömät muutokset voivat mitätöidä käyttäjälle annetun luvan käyttää tästä laitetta.

## USA ja Kanada

Laite täyttää FCC:n sääntöjen kohdan 15 vaatimukset. Käytön edellytyksenä on kaksi ehtoa:

- (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä.
- (2) Tämän laitteen täytyy ottaa vastaan kaikki häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka saattavat aiheuttaa ei-toivotua toimintaa.

Tämä luokan B digitaalinen laite täyttää Kanadassa voimassa olevat ICES-003 / CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B) -vaatimukset.

Tämä laite täyttää yleiselle käyttämiselle laaditut FCC- ja Industry Canada RF -säteilynrajoittamishoejet.

- Laitetta ei saa sijoittaa toisen antennin tai lähettimen lähelle.
- Tämä laite täyttää Industry Canada -standardin vaatimukset. Käytön edellytyksenä on kaksi ehtoa:
  - (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa häiriöitä.
  - (2) Tämän laitteen täytyy sietää kaikki häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka saattavat aiheuttaa ei-toivotua toimintaa.
- Tämä laite täyttää FCC- ja Industry Canada -säteilyrajat valvomattomassa ympäristössä. Laite on asennettava ja sitä on käytettävä siten, että säteilevän osan ja kehon väliin jää vähintään 20 cm.



Bose Corporation vakuuttaa täten, että tämä tuote täyttää direktiivin 1999/5/CE (R&TTE-direktiivi) sekä muiden sovellettavien EU-direktiivien vaatimukset. Täydellinen vaativuudenmukaisuusvakuutus on osoiteessa [www.bose.com/compliance](http://www.bose.com/compliance)



Tämä symboli merkitsee, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan se on se toimitettava kierrätykseen. Kierrätäminen auttaa estämään vahingollisia seurauksia ympäristölle, luonolle ja ihmisten terveydelle. Saat lisätietoja kierrättämisestä paikallisilta viranomaisilta, kotitalousjätteen kierrätypalvelusta tai liikkeestä, josta tuote ostettiin.

Myrkyllisten tai vaarallisten aineiden tai alkuaineiden nimet ja sisältö						
	Myrkylliset tai vaaralliset aineiden tai alkuaineet					
Osan nimi	Lyijy (Pb)	Elohopea (Hg)	Kadmium (Cd)	Kuusiarvoinen (CR(VI))	Polybrominoitu bifenyyli (PBB)	Polybrominoitu difenyylieetteri (PBDE)
PCB-yhdisteet	X	O	O	O	O	O
Metalliosat	X	O	O	O	O	O
Muoviosat	O	O	O	O	O	O
Kaiuttimet	X	O	O	O	O	O
Johdot	X	O	O	O	O	O

Tämä taulukko on laadittu SJ/T 11364 -määärysten mukaisesti.

O: Ilmaisee, että tästä myrkyllistä tai vaarallista ainetta on kaikissa tästä materiaalista valmistetuissa osissa alle GB/T 26572 -raja-arvon.

X: Ilmaisee, että tästä myrkyllistä tai vaarallista ainetta on kaikissa tästä materiaalista valmistetuissa osissa yli GB/T 26572 -raja-arvon.

# Sääntömääräystiedot

---

## Säilytä tiedot.

Sarja- ja mallinumerot näkyvät järjestelmän pohjassa.

Sarjanumero: \_\_\_\_\_

Mallinumero: \_\_\_\_\_

Ostopäivä: \_\_\_\_\_

On suositeltavaa säilyttää ostokuitti tämän käyttöohjeen välissä.

App Store on Apple Inc:n palvelumerkki.

Amazon, Kindle ja Fire ovat Amazon.com, Inc:n tai sen kumppanien tavaramerkkejä.

Android ja Google Play ovat Google Inc:n tavaramerkkejä.

Bluetooth®-logon omistaa Bluetooth SIG, Inc. Bose Corporation käyttää sitä lisenssin nojalla.



iHeartRadio on iHeartMedia, Inc:n rekisteröity tavaramerkki.

iTunes on Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröimä tavaramerkki.

HDMI- ja HDMI High-Definition Multimedia Interface -termit sekä HDMI-logo ovat HDMI Licensing LLC:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Tässä tuotteessa käytetään Spotify-ohjelmisto, jota suojaavat kolmansien osapuolien lisenssit näkyvät tällä: [www.spotify.com/connect/third-party-license](http://www.spotify.com/connect/third-party-license)

Spotify on Spotify AB:n rekisteröity tuotemerkki.

SoundTouch ja langattoman nuotin muotoilu ovat Bose Corporationin tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Wi-Fi on Wi-Fi Alliance® rekisteröity tavaramerkki.

Windows on Microsoft Corporation -yhtiön Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröity tavaramerkki.

©2015 Bose Corporation. Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa kopioida, muokata, jaella tai käyttää ilman julkaisijan etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

**Johdanto**

SoundTouch™ .....	7
Järjestelmän edut.....	7

**SoundTouch™**

SoundTouchin™ käyttäminen .....	8
SoundTouch™-lähteen valitseminen.....	8
SoundTouch™-lähdenäytön käyttäminen .....	9
Toimintamahdollisuudet.....	9
Esiasetusten toiminta .....	10
Hyvä tietää .....	10
Esiasetuksen toistaminen .....	10
Esiasetuksen ohjelmoiminen.....	10
Äskettäin toistetun sisällön saaminen esiin.....	11

**Bluetooth®**

Bluetooth®-yhteyden käyttäminen.....	12
Bluetooth®-lähteen valitseminen .....	12
Bluetooth®-lähderuudun käyttäminen .....	13
Järjestelmän Bluetooth®-laitepariluettelon tyhjentäminen .....	13

**Järjestelmän ohjaaminen sovelluksen avulla**

SoundTouch™-sovelluksen käyttäminen .....	14
Ohjeen käyttäminen .....	14
Järjestelmän ohjaaminen toisen älypuhelimen, tablet-tietokoneen tai tietokoneen avulla .....	14

**Kehittyneet ominaisuudet**

Ohjauspainike.....	15
Wi-Fi®-merkkivalo .....	15
Wi-Fi®-toiminnon poistaminen käytöstä .....	15
Wi-Fi-toiminnon ottaminen käyttöön .....	15
Sovittimen nollaaminen .....	16

# Sisältö

---

## Hoito ja kunnossapito

Ongelmanratkaisu.....	17
Wi-Fi®-verkon lisääminen.....	18
Puhdistaminen .....	18
Asiakaspalvelu .....	18
Rajoitettu takuu.....	18
Tekniset tiedot.....	18

## Liite A: SoundTouch™-valmistelut

Ottaminen käyttöön SoundTouch™-sovelluksen avulla.....	19
Sovittimen asetustilan ottaminen käyttöön.....	19
Järjestelmän lisääminen aiemmin luotuun SoundTouch™-tiliin ....	19
SoundTouch™-sovelluksen lataaminen ja asentaminen.....	19
Järjestelmän yhdistäminen kodin Wi-Fi®-verkkoon.....	19

## Liite B: Langattoman sovittimen kiinnittäminen

Sovittimen kiinnittäminen .....	20
Kiinnitysvaihtoehdot.....	20
Sovittimen kiinnittäminen.....	20

## SoundTouch™

Langaton SoundTouch™-musiikkijärjestelmä täyttää huoneen kirkkaalla äänellä, jota virtautetaan langattomasti kotisi Wi-Fi-verkosta. SoundTouch™ virtauttaa Internet-radioasemia, musiikkipalveluita ja musiikkikirjastosi sisältöä.

Jos kotonasi on langaton Wi-Fi®-verkko ja SoundTouch™-yhteensopiva viihdejärjestelmä, voit nauttia mielumusiikistasi kaikissa haluamissasi huoneissa. Ottamisesta käyttöön on lisätietoja järjestelmän käyttöönotto-ohjeesta.

**Huomautus:** Jos olet ostanut sovittimen lisävarusteena, katso käyttöönotto-ohjeet pikaohjeesta.

### Järjestelmän edut

- Bose-viihdejärjestelmään voi virtauttaa musiikkia langattomasti SoundTouchin™ avulla.
- Internet-radioasemat, musiikkipalvelut ja musiikkikirjastosi sisältö ovat käytössäsi langattomasti.
- Kun lähteenä on SoundTouch™, voit tarkastella esiasetuksia sekä äskettäin toistettua ja parhaillaan toistettavaa sisältöä televisiosi avulla.
- Maksuton SoundTouch™-sovellus auttaa käyttämään Internet-radioasemia, musiikkipalveluita ja musiikkikirjastoasi tietokoneen, älypuhelimen tai tablet-tietokoneen avulla.
- Voit mukauttaa enintään kuusi esiasetusta, jotta voit kuunnella musiikkia painamalla yhtä kaukosäätimen painiketta.
- Langattoman asetukset älypuhelimen tai tablet-tietokoneen käyttämiseksi.
- Toimii yhdessä kotisi Wi-Fi-verkon kanssa.
- Voit virtauttaa musiikkia *Bluetooth*®-yhteensopivista laitteista.
- Uusia laitteita on helppo lisätä koska tahansa, jotta voit kuunnella useissa huoneissa.
- Löydät laajasta Bose®-valikoimasta oikean ratkaisun joka huoneeseen.

## SoundTouchin™ käyttäminen

Voit käyttää SoundTouchia™ viihdejärjestelmän LÄHDE (SOURCE) -valikon tai SoundTouch™-sovelluksen avulla.

- SoundTouch™-lähde: Antaa käyttöön osan SoundTouch™-ominaisuksista, jotta voit toistaa äskettäin kuunneltuja ja mukauttaa esiasetukset.
- SoundTouch™-sovellus: Voit hallita kaikkia SoundTouch™-ominaisuksia, kuten määrittää järjestelmän asetukset, kuunnella Internet-radioasemia, määrittää esiasetukset ja muuttaa niitä, virtauttaa musiikkia järjestelmään ja nähdä, mitä parhaillaan soitetaan.

## SoundTouch™ -lähteen valitseminen

Kun lähteenä on SoundTouch™, voit tarkastella esiasetuksia sekä äskettäin toistettua ja parhaillaan toistettavaan sisältöä järjestelmän kaukosäätimen avulla.

1. Käynnistä järjestelmäsi.
2. Paina kaukosäätimen **SOURCE** -painiketta.  
LÄHDE-valikko avautuu.



**Vihje:** Voit myös painaa ohjauskonsolin SOURCE-painiketta.


3. Valitse **SoundTouch™**.

# SoundTouch™ -lähdenäytön käyttäminen

Voit käyttää tiettyjä SoundTouch™-ominaisuksia kaukosäätimen ja lähdenäytön avulla.

## Toimintamahdollisuudet

- Esiasetusten mukauttaminen ja toistaminen (sivu 10).
- Äskettäin kuunneltujen toistaminen (sivu 11).
- Esittäjän tietojen tarkasteleminen PARHAILLAAN TOISTETAAN -paneelin avulla.
- Toiston hallinta: esimerkiksi toisto, tauko, pysäytäminen ja siirtyminen seuraavaan raitaan.
- Musiikkilähteen näyttäminen Parhaillaan toistetaan -paneelissa.



SoundTouch™-järjestelmän täysimittaisesta hallinnasta kerrotaan "SoundTouch™-sovelluksen käyttäminen" sivulla 14 -kohdassa.

## Esiasetusten toiminta

---

Voit mukauttaa kuusi virtautettua musiikkia lähetävien palveluiden, radioasemien, soittolueteloiden, esittäjien, albumien tai kappaleiden esiasetusta. Voit kuunnella musiikkia koska tahansa SoundTouch™-sovelluksen, tietokoneen, älypuhelimen, tablet-tietokoneen tai vihdejärjestelmän SoundTouch™-lähteen avulla.

### Hyvä tietää

- Voit määrittää esiasetukset sovelluksessa tai viihdejärjestelmän avulla.
- Jos esiasettuna lähteenä toimii iTunes- tai Windows Media Player -musiikkikirjastosi, varmista, että musiikin sisältävään tietokoneeseen on kytketty virta ja että se on yhdistetty samaan verkkoon kuin SoundTouch™-järjestelmä.

## Esiasetuksen toistaminen

---

Kun olet mukauttanut esiasetukset, voit valita esiasetuksen ja kuunnella sitä kaukosäätimen tai sovelluksen avulla.

**Huomautus:** Jos musiikkia ei kuulu, katso "Esiasetuksen ohjelmoiminen".

## Esiasetuksen ohjelmoiminen

---

1. Virtauta musiikkia viihdejärjestelmään sovelluksen tai SoundTouch™-lähteen avulla.
2. Kun musiikkia toistetaan, pidä kaukosäätimen esiasetuksen numeropainiketta painettuna noin 2 sekuntia.

**Huomautus:** Esiasetusten määrittämisestä ja muutosten tekemisestä niihin kerrotaan SoundTouch™-sovelluksen ohjeessa.

## Äskettäin toistetun sisällön saaminen esiin

Äskettäiset-luettelossa näkyy 50 viimeksi toistettua SoundTouch™-kohdetta.

### 1. Valitse **Siirry äskettäisiin**.

Siirtyminen  
äskettäisiin



ÄSKETTÄISET-paneeli tulee näkyviin.

Äskettäin  
toistettu  
sisältö



### 2. Valitse kohde.

## **Bluetooth®-yhteyden käyttäminen**

Voit käyttää *Bluetooth*-yhteyttä viihdejärjestelmän LÄHDE-valikon tai SoundTouch™-sovelluksen avulla.

### **Bluetooth®-lähteen valitseminen**

*Bluetooth*-toiminnon avulla voit muodostaa *Bluetooth*-laitteita laitepareiksi ja ohjata niitä järjestelmän kaukosäätimen avulla.

1. Käynnistä järjestelmäsi.
2. Paina kaukosäätimen **SOURCE** -painiketta.  
LÄHDE-valikko avautuu.



**Vihje:** Voit myös painaa ohjauskonsolin SOURCE-painiketta.


3. Valitse **Bluetooth®**-vaihtoehto.

## Bluetooth®-lähderuudun käyttäminen

Voit käyttää tiettyjä Bluetooth-ominaisuksia kaukosäätimen ja lähderuudun avulla.

### Toimintamahdollisuudet

- Bluetooth-laitteiden muodostaminen laitepareiksi ja niiden yhdistäminen.
- Esittäjän tietojen tarkasteleminen PARHAILLAAN TOISTETAAN -paneelin avulla.
- Yhdistettyjen laitteiden hallitseminen.
- Toiston hallinta: esimerkiksi toisto, tauko, pysäytäminen ja siirtyminen seuraavaan raitaan.
- Laitepariluettelon tyhjentäminen.



## Järjestelmän Bluetooth®-laitepariluettelon tyhjentäminen

Kun Bluetooth-yhteensopivasta laitteesta ja järjestelmästä muodostetaan laitepari, yhteyden tiedot tallennetaan järjestelmän laitepariluetteloon. Jos laitteeseen ei voi muodostaa yhteyttä, laitepariluettelo on ehkä tyhjennettävä. Kun lista on tyhjennetty, aiemmin pareiksi muodostetut laitteet on muodostettava laitepareiksi uudelleen.

**1.** Paina kaukosäätimen -painiketta.

**2.** Valitse .

Näkyviin tulee ilmoitus, jonka mukaan *lähdeluettelo on tyhjennetty*.

Järjestelmä on valmis laitepariksi muodostamista varten.

# Järjestelmän ohjaaminen sovelluksen avulla

---

## SoundTouch™ -sovelluksen käyttäminen

---

SoundTouch™-sovelluksen avulla voit hallita SoundTouch™ järjestelmää tietokoneen, älypuhelimen tai tablet-tietokoneen avulla. Tämän sovelluksen ansiosta esimerkiksi älypuhelimesi toimii SoundTouch™-järjestelmän monipuolisena kaukosäätimenä.

Sovellus auttaa esimerkiksi hallitsemaan SoundTouch™ -järjestelmän asetukset, lisäämään musiikkipalveluita, kuuntelemaan Internet-radioasemia, hallitsemaan esiasetukset, virtauttamaan musiikkia järjestelmään ja näyttämään kuunneltavan musiikin tiedot.

Kun olet määrittänyt järjestelmän verkkoasetukset SoundTouch™-sovelluksen avulla, voit virtauttaa musiikkia ja mukauttaa esiasetuksesi.

### Ohjeen käyttäminen

#### [SoundTouch.com](#)

Tämä sivusto toimii tukikeskuksena. Siellä on käyttöohjeita, artikkeleita, vihjeitä, opetusohjelmia, videokirjasto ja käyttäjäyhteisö, johon voit lähettää kysymyksiä ja josta voit lukea vastauksia.

1. Avaa selain.
2. Kirjoita osoitekenttään SoundTouch.com

### Ohjeen käyttäminen sovelluksessa

Sisältää SoundTouch™-sovelluksen käyttämisestä kertovia artikkeleita.

1. Käynnistä sovellus valitsemalla  laitteessasi.
2. Valitse TUTKI-paneelissa **OHJE**.


### Järjestelmän ohjaaminen toisen älypuhelimen, tablet-tietokoneen tai tietokoneen avulla

Kun SoundTouch™-järjestelmä on yhdistetty kodin Wi-Fi®-verkkoon, voit ohjata järjestelmää minkä tahansa verkkoon yhdistetyn älypuhelimen, tablet-tietokoneen tai tietokoneen avulla.

1. Laitteen yhdistäminen samaan verkkoon järjestelmän kanssa.
2. Lataa ja asenna SoundTouch™-sovellus laitteeseen:
  - iOS-käyttäjät: Lataa App Storesta.
  - Android™-käyttäjät: Lataa Google Play™ Storesta.
  - Amazon Kindle Fire -käyttäjät: lataa Amazon Appstore for Android -palvelusta.
  - Jos käytät tietokonetta, käynnistä selain ja siirry osoitteeseen:  
**SoundTouch.com/app**

### Ohjauspainike

Langaton SoundTouch™-sovitin tuo tullessaan lisätoimintoja. Voit käyttää niitä pitämällä ohjauspainiketta painettuna.



### Wi-Fi®-merkkivalo

Wi-Fi-verkon tila näytetään sovittimen takaosan Wi-Fi-merkkivalon avulla.

Toiminnan ilmaisin	Järjestelmän tila.
Vilkkuu valkoisena	Yhdistetään Wi-Fi-verkkoon.
Palaa valkoisena	Järjestelmään on kytketty virta, ja se on yhdistetty Wi-Fi-verkkoon.
Palaa oranssina	Järjestelmä asetustilassa
Vilkkuu hitaasti oranssina	Yhteys Wi-Fi-verkkoon on katkaistu.
Vilkkuu nopeasti oranssina	Laiteohjelmistovirhe. Ota yhteys Bosen huoltoon.
Pois	Wi-Fi-verkkotoiminto on pois käytöstä tai järjestelmä on yhdistetty Ethernet-verkkoon.

### Wi-Fi®-toiminnon poistaminen käytöstä

Jos Wi-Fi-toiminto poistetaan käytöstä, myös Bluetooth®-ominaisuus poistetaan käytöstä.

1. Käynnistä viihdejärjestelmäsi.
2. Pidä sovittimen ohjauspainiketta painettuna 8-10 sekuntia.
3. Kun Wi-Fi-verkon merkkivalo sammuu, vapauta ohjauspainike.

### Wi-Fi-toiminnon ottaminen käyttöön

Jos Wi-Fi-toiminto otetaan käyttöön, myös Bluetooth®-ominaisuus otetaan käyttöön.

1. Käynnistä viihdejärjestelmäsi.
2. Paina sovittimen ohjauspainiketta.

## Kehittyneet ominaisuudet

---

### Sovittimen nollaaminen

---

Kun järjestelmään palautetaan tehdasasetukset, kaikki lähde- ja verkkoasetukset poistetaan.

**Huomautus:** Nollaaminen poistaa SoundTouch™-esiasetukset ja tallennetut verkon tunnistetiedot.

1. Käynnistä viihdejärjestelmäsi.
2. Irrota Bose® link -johto.
3. Pidä ohjauspainiketta painettuna, kun yhdistät johdon takaisin paikalleen.
4. Käynnistä SoundTouch™-sovellus tietokoneessa ja lisää järjestelmä verkkoon.

## Ongelmanratkaisu

Ongelma	Toimintaojjeet
Verkon asetusten määrittäminen ei onnistu tai sovitinta ei tunnisteta.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Yhdistä langaton SoundTouch™-sovitin ohjauskonsolin Bose link -liitäntään.</li> <li>Yhdistä USB-johto langattomaan sovittimeen ja ohjauskonsoliin. Järjestelmä toimiminen oikein edellyttää, että johto on yhdistetty.</li> <li>Yhdistä järjestelmä sähköpistorasiaan.</li> <li>Valitse oikea verkon nimi ja kirjoita salasana.</li> <li>Yhdistä laite ja SoundTouch™ -järjestelmä samaan Wi-Fi®-verkkoon.</li> <li>Aseta langaton sovitin reitittimen kantoalueelle.</li> <li>Ota Wi-Fi-yhteys käyttöön mobiililaitteessa tai tietokoneessa, jonka avulla asetukset määritetään.</li> <li>Sulje muut käynnissä olevat sovellukset.</li> <li>Jos määritit asetukset tietokoneen avulla, tarkista sen palomuurin asetuksista, että SoundTouch™-sovellus ja SoundTouch™-musiikkipalvelin on sallittu.</li> <li>Testaa Internet-yhteys lataamalla osoitteesta <a href="http://www.SoundTouch.com">www.SoundTouch.com</a></li> <li>Käynnistä mobiililaite tai tietokone ja reitin uudelleen.</li> <li>Käynnistä SoundTouch™ -järjestelmä uudelleen. Lisätietoja on sovelluksen ohjeessa.</li> <li>Poista sovelluksen asetus, palauta järjestelmään tehdasasetukset ja aloita asetusten määrittäminen alusta.</li> <li>Jos verkko on piilotettu, tuo se näkyviin, jotta asetukset voidaan määrittää.</li> </ul>
Verkkoon ei voi yhdistää.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jos verkon tiedot ovat muuttuneet tai yhdistät järjestelmän toiseen verkkoon, katso lisätietoja sovelluksen ohjeesta.</li> <li>Yhdistä verkkoon Ethernet-johdon avulla.</li> </ul>
SoundTouch™ tai Bluetooth® ei näy lähdevalikossa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Päivitä ohjauskonsoli. Lisätietoja on viihdejärjestelmän käyttöohjeessa.</li> <li>Varmista, että Bose® link -johto ja USB-johto on yhdistetty langattomaan sovittimeen ja ohjauskonsoliin kunnolla. Järjestelmä toimiminen oikein edellyttää, että nämä johdot on yhdistetty.</li> <li>Viimeistele SoundTouch™-asetukset. Katso sivu 19.</li> </ul>
Bluetooth®-ääntä ei voi toistaa.	<p>Järjestelmässä:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Muodosta laitepari käytämällä Bluetooth-lähderuutua (sivu 13).</li> <li>Kokeile muodostaa toinen laite laitepariksi.</li> <li>Lisätietoja on käyttöohjeen Ei ääntä -kohdassa.</li> <li>Määritä ensin SoundTouch™-asetukset ja päivitä järjestelmä.</li> <li>Tyhjennä järjestelmän laitepariluettelo (sivu 13).</li> </ul> <p>Mobiililaitteessa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Poista Bluetooth-toiminto käytöstä ja ota se käyttöön uudelleen.</li> <li>Poista järjestelmä Bluetooth-valikosta. Muodosta laitepari uudelleen.</li> <li>Bluetooth-laitteen käyttöoppaissa on lisätietoja.</li> </ul>

# Hoito ja kunnossapito

---

## Wi-Fi®-verkon lisääminen

---

Jos verkon tiedot ovat muuttuneet tai yhdistät järjestelmän toiseen verkkoon, lisää uuden verkon viihdejärjestelmän UNIFY®-valikon Verkkoasetukset-kohdassa.

1. Käynnistä viihdejärjestelmäsi.
2. Paina ohjauskonsolin **Setup**-painiketta. UNIFY-valikko tulee näkyviin.
3. Valitse **Verkkoasetukset**.
4. Voit vaihtaa verkkoasetukset seuraamalla näytön ohjeita.

## Puhdistaminen

---

Voit puhdistaa langattoman SoundTouch™-sovittimen pyyhkimällä sen ulkopinnan pehmeällä kuivalla liinalla.

- Älä käytä liuottimia, kemikaaleja tai sumutteita.
- Varo, ettei aukkoihin pääse nesteitä tai esineitä.

## Asiakaspalvelu

---

Lisätietoja järjestelmän käyttämisestä:

- Siirry osoitteeseen SoundTouch.com
- Ota yhteys Bosen® asiakaspalveluun. Yhteystiedot ovat pakkauksessa.

## Rajoitettu takuu

---

Langattomalla SoundTouch™-sovittimella on rajoitettu takuu. Rajoitetun takuun tiedot ovat pakkauksessa toimitetuissa tärkeissä turvallisuusohjeissa. Tärkeissä turvallisuusohjeissa kerrotaan takuun rekisteröimisestä. Sen jättämättä tekemättä ei kuitenkaan vaikuta rajoitettuun takuuseen.

Tämän tuotteen mukana toimitetut takuutiedot eivät ole voimassa Australiassa eivätkä Uusi-Seelannissa. Osoitteessa [www.Bose.com.au/warranty](http://www.Bose.com.au/warranty) ja [www.Bose.co.nz/warranty](http://www.Bose.co.nz/warranty) kerrotaan Australiassa ja Uusi-Seelannissa voimassa olevasta takuusta.

## Tekniset tiedot

---

Koko:	2" H x 2 ½" W x 9 ¾" D (5,1 cm x 6,4 cm x 23,8 cm)
Paino:	0,34 kg

### Ottaminen käyttöön SoundTouch™-sovelluksen avulla

Jos verkon asetuksia ei voi määrittää UNIFY®-toiminnon avulla tai asetusten määrittäminen SoundTouch™-sovelluksen avulla on jäänyt kesken, lataa ja asenna Bose® SoundTouch™-ohjaussovellus verkkoon yhdistettyyn älypuhelimeen, tablet-tietokoneeseen tai tietokoneeseen. Sovellus opastaa yhdistämään järjestelmän verkkoon.

#### Sovittimen asetustilan ottaminen käyttöön

1. Pidä langattoman SoundTouch™-sovittimen takaosan ohjauspainiketta painettuna 1-8 sekuntia.
2. Kun Wi-Fi®-verkon merkkivalo vilkkuu, vapauta ohjauspainike. Wi-Fi-verkon merkkivalon tulee palaa oranssina.

#### Järjestelmän lisääminen aiemmin luotuun SoundTouch™-tiliin

Jos olet jo määrittänyt SoundTouch™-asetukset toista järjestelmää varten, SoundTouch™-sovellusta ei tarvitse ladata uudelleen.

1. Käynnistä sovellus valitsemalla SoundTouch™-kuvaake  älypuhelimessa tai tablet-tietokoneessa.
2. Voit lisätä toisen järjestelmän valitsemalla **TUTKI > ASETUKSET > Järjestelmät > LISÄÄ JÄRJESTELMÄ**.

Sovellus opastaa asetusten määrittämisessä.

#### SoundTouch™-sovelluksen lataaminen ja asentaminen

Lataa SoundTouch™-ohjaussovellus älypuhelimeen, tietokoneeseen tai tablet-tietokoneeseen.



Bose® SoundTouch™ controller app

- iOS-käyttäjät: Lataa App Storesta.
- Android™-käyttäjät: Lataa Google Play™ Storesta.
- Amazon Kindle Fire -käyttäjät: Lataa Amazon Appstore for Android -palvelusta.
- Jos käytät tietokonetta, käynnistä selain ja siirry osoitteeseen:  
[SoundTouch.com/app](http://SoundTouch.com/app)

#### Järjestelmän yhdistäminen kodin Wi-Fi®-verkkoon

Kun olet asentanut sovelluksen, lisää järjestelmä verkkoon.

1. Käynnistä sovellus valitsemalla  älypuhelimessa, tietokoneessa tai tablet-tietokoneessa.
2. Viimeistele asetukset noudattamalla sovelluksen ohjeita esimerkiksi luomalla SoundTouch™-tili, lisäämällä musiikkikirjasto ja käyttämällä palveluita.

## **Liite B: Langattoman sovittimen kiinnittäminen**

### **Sovittimen kiinnittäminen**

Voit kiinnittää sovittimen seinään. Kiinnitystarvikkeet on hankittava erikseen. Jos asennustarvikkeiden ohjeet eroavat näistä ohjeista, noudata asennustarvikkeiden ohjeita.

Kiinnitystarvikkeiden tiedot näkyvät tässä taulukossa.

Kohde	Puu	Levyseinä
<b>Seinän paksuus</b>	Paksuus vähintään $\frac{3}{4}$ tuumaa (19 mm)	Paksuus vähintään $\frac{3}{8}$ tuumaa (9,5 mm)
<b>Poranterä</b>	$\frac{1}{8}$ tuumaa (3 mm)	$\frac{3}{16}$ tuumaa (4,5 mm)
<b>Tasakantaiset puuruuvit (2)</b>	#8 x 1 $\frac{1}{4}$ tuumaa (32 mm)	#8 x 1 $\frac{1}{4}$ tuumaa (32 mm)
<b>Muoviset tulpat (2)</b>	Ei käytössä	#6 - 8 x 1 tuumaa (25 mm)


### **Kiinnitysvaihtoehdot**

Sovittimen voi kiinnittää kahdella tavalla:

- Pystysuoraan liitääntäpaneeli vasemmalle
- Vaakasuoraan liitääntäpaneeli ylöspäin

### **Sovittimen kiinnittäminen**

1. Poraa kaksi reikää, joiden välinen etäisyys on 159 mm.



2. Jos asennat levyseinäään, työnnä aukkoihin tulpat.

3. Kiinnitä tasakantaisten puuruuvien avulla.

**Huomautus:** Jätä ruuvien kannat noin 6 mm seinän pinnan yläpuolelle.

4. Kiinnitä sovitin ruuveihin.



# Instructions importantes relatives à la sécurité

Lisez attentivement ce guide, ainsi que le document Informations importantes relatives à la sécurité.



Le symbole représentant un éclair avec une flèche à l'intérieur d'un triangle équilatéral est utilisé pour prévenir l'utilisateur de la présence d'une tension électrique dangereuse non isolée à l'intérieur de l'appareil. Cette tension est d'un niveau suffisamment élevé pour représenter un risque d'électrocution.



Le symbole représentant un point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral, tel qu'il figure sur le système, signale à l'utilisateur la présence d'instructions importantes relatives au fonctionnement et à l'entretien de l'appareil dans cette notice d'installation.



## ATTENTION :

- N'apportez aucune modification au système ou aux accessoires.
- Toute modification non autorisée peut compromettre votre sécurité, le respect des réglementations et les performances.



## AVERTISSEMENTS :

- Afin de limiter les risques d'incendie ou d'électrocution, n'exposez jamais ce produit à la pluie ou à l'humidité.
- Protégez l'appareil de tout risque de ruissellement ou d'éclaboussure. Ne placez pas d'objets contenant des liquides, tels que des vases, sur l'appareil. Comme avec tout produit électronique, veillez à ne pas renverser de liquide sur cet appareil. L'exposition aux liquides risque de provoquer un dysfonctionnement et/ou un incendie.
- Ne placez jamais d'objets enflammés, tels que des bougies allumées, sur l'appareil.

1. Lisez attentivement ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Respectez tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. N'utilisez pas cet appareil à proximité d'eau ou d'une source d'humidité.
6. Utilisez uniquement un chiffon sec pour le nettoyage.
7. Ne bloquez jamais les orifices d'aération. Suivez les instructions du fabricant pour l'installation.
8. N'installez pas cet appareil à proximité d'une quelconque source de chaleur, telle qu'un radiateur, une arrivée d'air chaud, un four ou tout autre appareil (notamment les amplificateurs) produisant de la chaleur.
9. Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.
10. Confiez toute réparation à du personnel qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit (endommagement du cordon d'alimentation ou de la fiche électrique, renversement d'un liquide ou de tout objet sur l'appareil, exposition de l'appareil à la pluie ou à l'humidité, mauvais fonctionnement, chute de l'appareil, etc.).

## REMARQUES :

- L'étiquette d'identification du produit est située au-dessous de l'appareil.
- Ce produit doit être utilisé à l'intérieur. Il n'a pas été conçu ni testé pour une utilisation en extérieur, dans des véhicules ou sur des bateaux.

## Informations importantes relatives à la conformité

**Remarque :** cet appareil a fait l'objet de tests prouvant sa conformité aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des réglementations de la FCC.

Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Ce matériel génère, utilise et est susceptible d'émettre de l'énergie à des fréquences radio. À ce titre, s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux instructions, il est susceptible de perturber les communications radio. Cependant, il n'est nullement garanti que de telles perturbations ne se produisent pas dans une installation donnée. Si cet appareil perturbe effectivement la réception de la radio ou de la télévision (ce qui peut être vérifié en allumant et en éteignant l'appareil), vous êtes invité à tenter de remédier au problème en prenant une ou plusieurs des mesures ci-dessous :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance séparant le matériel du récepteur.
- Connectez l'appareil à une prise reliée à un circuit différent de celui auquel est connecté le récepteur.
- Consultez votre revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour toute assistance.

# Instructions importantes relatives à la sécurité

## AVERTISSEMENT DE LA FCC

Toute modification non autorisée expressément par Bose Corporation est susceptible d'annuler le droit de l'utilisateur à utiliser cet équipement.

## Aux États-Unis et au Canada

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation de la FCC. L'utilisation de cet appareil est soumise aux conditions suivantes :

(1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) cet appareil doit tolérer les interférences externes, y compris celles qui peuvent provoquer un fonctionnement abnormal de cet appareil.

Ce produit de classe B est conforme aux spécifications de la réglementation ICES-003 / CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B).

Cet appareil est conforme aux réglementations de la FCC et d'Industrie Canada sur les limites d'exposition aux rayonnements électromagnétiques pour le grand public.

- Cet appareil ne doit pas être installé ni utilisé avec d'autres antennes ou émetteurs-récepteurs.
- Cet appareil est conforme aux standards RSS exemptés de licence d'Industrie Canada. L'utilisation de cet appareil est assujettie aux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) cet appareil doit tolérer les interférences externes, y compris celles qui peuvent provoquer un fonctionnement abnormal.
- Cet appareil est conforme aux réglementations de la FCC et d'Industrie Canada sur les limites d'exposition aux rayonnements électromagnétiques en environnement non contrôlé. Cet appareil doit être installé et utilisé en préservant une distance minimale de 20 cm entre le corps rayonnant et votre corps.



Bose Corporation déclare que ce produit est conforme aux critères essentiels et autres dispositions de la Directive 1999/5/CE et des autres directives européennes applicables.

L'attestation complète de conformité est disponible à l'adresse [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)



Ce symbole signifie que le produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers mais doit être déposé dans un centre de collecte approprié pour recyclage. Une mise au rebut et un recyclage adéquats permettent de protéger les ressources naturelles, la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'informations sur l'élimination et le recyclage de ce produit, contactez votre mairie, votre service de ramassage des ordures ou le magasin où vous avez acheté ce produit.

Noms et contenu des substances ou éléments toxiques ou dangereux						
Nom	Substances ou éléments toxiques ou dangereux					
	Plomb (Pb)	Mercure (Hg)	Cadmium (Cd)	Chrome hexavalent (CR(VI))	Biphényle polybromé (PBB)	Éther de diphenyle polybromé (PBDE)
Polychlorobiphényles	X	O	O	O	O	O
Pièces métalliques	X	O	O	O	O	O
Pièces en plastique	O	O	O	O	O	O
Enceintes	X	O	O	O	O	O
Câbles	X	O	O	O	O	O

Les données de ce tableau sont conformes aux dispositions de la norme SJ/T 11364.

O : indique que la quantité de cette substance toxique ou dangereuse contenue dans tous les composants homogènes de cette pièce est inférieure à la limite définie dans GB/T 26572.

X : indique que la quantité de cette substance toxique ou dangereuse contenue dans au moins un des composants homogènes de cette pièce est supérieure à la limite définie dans GB/T 26572

# Informations réglementaires

## Renseignements à noter et conserver :

Le modèle et le numéro de série sont indiqués à la base de l'appareil.

Numéro de série : \_\_\_\_\_

Modèle : \_\_\_\_\_

Date d'achat : \_\_\_\_\_

Nous vous conseillons de conserver votre reçu avec cette notice d'utilisation.

App Store est une marque de service d'Apple Inc.

Amazon, Kindle et Fire sont des marques de commerce d'Amazon.com, Inc. ou de ses filiales.

Android et Google Play sont des marques de commerce de Google, Inc.

La marque et le logo *Bluetooth*® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc., et leur utilisation par Bose Corporation fait l'objet d'un accord de licence.



iHeartRadio est une marque déposée d'iHeartMedia, Inc.

iTunes est une marque de commerce d'Apple Inc., aux États-Unis et dans d'autres pays.

Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface (Interface multimédia haute définition) et le logo HDMI sont des marques de commerce ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.

Ce produit incorpore le logiciel Spotify, qui fait l'objet des licences tierces indiquées sur la page suivante : [www.spotify.com/connect/third-party-license](http://www.spotify.com/connect/third-party-license)

Spotify est une marque déposée de Spotify AB.

SoundTouch et le design « wireless note » sont des marques de commerce de Bose Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

Wi-Fi est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®.

Windows est une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

©2015 Bose Corporation. Toute reproduction, modification, distribution ou autre utilisation, même partielle, de ce document est interdite sans autorisation écrite préalable.

## Introduction

SoundTouch™ .....	7
Avantages du système.....	7

## SoundTouch™

Accès à SoundTouch™ .....	8
Sélection de la source SoundTouch™ .....	8
Utilisation de l'écran de la source SoundTouch™ .....	9
Ce que vous pouvez faire .....	9
Principe de fonctionnement des présélections.....	10
Points importants .....	10
Écoute d'une présélection.....	10
Définition d'une présélection .....	10
Recherche d'une source musicale écouteée récemment.....	11

## Bluetooth®

Accès à la fonction Bluetooth® .....	12
Sélection de la source Bluetooth® .....	12
Utilisation de l'écran de la source Bluetooth® .....	13
Effacement de la liste de jumelage Bluetooth® du système .....	13

## Contrôle du système à l'aide de l'application

Utilisation de l'application SoundTouch™ .....	14
Pour obtenir de l'aide.....	14
Contrôle du système à partir d'un autre ordinateur, smartphone ou tablette.....	14

## Fonctionnalités avancées

Touche de commande .....	15
Indicateur Wi-Fi® .....	15
Désactivation de la fonctionnalité Wi-Fi® .....	15
Réactivation de la fonctionnalité Wi-Fi® .....	15
Réinitialisation de l'adaptateur.....	16

# Sommaire

---

## Entretien

Résolution des problèmes .....	17
Ajout d'un réseau Wi-Fi® .....	18
Nettoyage.....	18
Service client.....	18
Garantie limitée .....	18
Caractéristiques techniques .....	18

## Annexe A : Configuration de SoundTouch™

Configuration à l'aide de l'application SoundTouch™ .....	19
Activation du mode de configuration sur l'adaptateur.....	19
Ajout du système à un compte SoundTouch™ existant .....	19
Téléchargement et installation de l'application SoundTouch™ .....	19
Connexion du système à votre réseau Wi-Fi® .....	19

## Annexe B : Installation de l'adaptateur pour réseau sans fil

Fixation de l'adaptateur.....	20
Options de montage .....	20
Montage de l'adaptateur.....	20

## SoundTouch™

---

Votre système musical SoundTouch™ produit un son clair et ample via une liaison sans fil utilisant votre réseau Wi-Fi domestique. SoundTouch™ permet de transmettre les stations radio et les services musicaux sur l'Internet, ainsi que la bibliothèque musicale enregistrée sur votre ordinateur.

Si vous êtes connecté en Wi-Fi® et disposez d'un système home cinéma compatible SoundTouch™, vous pouvez écouter votre musique favorite dans n'importe quelle pièce. Reportez-vous à la notice d'utilisation de votre système pour obtenir des informations de configuration.

**Remarque :** si vous avez acheté l'adaptateur en tant qu'accessoire, reportez-vous au guide de démarrage rapide pour obtenir des instructions d'installation.

## Avantages du système

- Votre système home cinéma Bose peut diffuser de la musique sans liaison filaire, grâce au système SoundTouch™.
- Accès sans fil aux stations radio et services musicaux sur Internet, ainsi qu'à la bibliothèque musicale enregistrée sur votre ordinateur.
- La source SoundTouch™ permet d'afficher et de contrôler sur votre téléviseur vos présélections, vos écoutes récentes et le contenu en cours de lecture.
- L'application SoundTouch™ permet de parcourir les stations radio et les services musicaux disponibles sur Internet, ainsi que la bibliothèque musicale enregistrée sur votre ordinateur, smartphone ou tablette.
- Six présélections permettent de contrôler toute votre musique du bout des doigts, avec votre télécommande.
- Configuration sans fil à l'aide de votre smartphone ou tablette.
- Utilisation de votre réseau Wi-Fi existant.
- Diffusion de musique sur des appareils compatibles Bluetooth®.
- Il suffit d'ajouter des composants supplémentaires à tout moment pour pouvoir écouter votre musique dans davantage de pièces.
- La vaste gamme de systèmes audio Bose® permet de choisir la solution la mieux adaptée à chaque pièce.

# SoundTouch™

## Accès à SoundTouch™

Vous pouvez accéder à SoundTouch™ via le menu SOURCE de votre système ou l'application SoundTouch™.

- Source SoundTouch™ : cette « source » offre un sous-ensemble des fonctionnalités SoundTouch™ pour vous permettre de sélectionner les écoutes récentes et de modifier les présélections.
- Application SoundTouch™ : offrant un contrôle complet de SoundTouch™, l'application permet de gérer la configuration de votre système, d'explorer les stations de radio Internet, de définir et modifier des présélections, de transmettre de la musique au système, de voir ce qui est en lecture, etc.

## Sélection de la source SoundTouch™

La source SoundTouch™ permet de contrôler vos présélections, vos écoutes récentes et le contenu en cours de lecture à l'aide de la télécommande de votre système.

1. Mettez votre système sous tension.
2. Appuyez sur la touche **SOURCE** de la télécommande.  
Le menu Source apparaît.



**Conseil :** vous pouvez aussi appuyer sur la touche SOURCE de votre télécommande.


3. Sélectionnez **SoundTouch™**.

# Utilisation de l'écran de la source SoundTouch™

La télécommande permet d'accéder à un sous-ensemble des fonctionnalités de SoundTouch™ dans l'écran de la source.

## Ce que vous pouvez faire

- Modifier et écouter des présélections (page 10).
- Réécouter des écoutes récentes (page 11).
- Voir les informations disponibles sur les artistes dans le volet Lecture en cours.
- Contrôler la lecture (lecture, pause, arrêt, passage à l'enregistrement suivant, etc.)
- Afficher la source en cours d'écoute dans le volet Lecture en cours.



Pour savoir comment contrôler plus encore votre système SoundTouch™, consultez « Utilisation de l'application SoundTouch™ », page 14.

## Principe de fonctionnement des présélections

---

Vous pouvez définir six présélections qui vous permettront d'accéder directement à un service de diffusion en continu, une station radio Internet, une liste de lecture, un artiste, un album ou un morceau de votre bibliothèque musicale. Vous pouvez accéder à votre musique à tout moment, soit à l'aide de l'application SoundTouch™ sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, soit avec la source SoundTouch™ de votre système home cinéma.

### Points importants

- Il est possible de définir des présélections depuis l'application ou votre système home cinéma.
- Si la source de l'une des présélections est votre bibliothèque musicale iTunes ou Windows Media Player, l'ordinateur sur lequel elle est enregistrée doit être sous tension et connecté au même réseau que le système SoundTouch™.

## Écoute d'une présélection

---

Après avoir personnalisé vos présélections, sélectionnez-en une à l'aide de la télécommande ou de l'application pour l'écouter.

**Remarque :** si la lecture ne démarre pas, reportez-vous à la section « Définition d'une présélection ».

## Définition d'une présélection

---

1. Diffusion de musique sur votre home cinéma à l'aide de l'application ou de la source SoundTouch™.
2. Pendant l'écoute d'une source musicale, maintenez enfoncée l'une des touches de présélection de la télécommande pendant environ 2 secondes.

**Remarque :** pour plus d'informations sur l'utilisation de l'application SoundTouch™ pour définir et modifier vos présélections, reportez-vous aux rubriques d'aide de l'application.

## Recherche d'une source musicale écoutée récemment

La liste des écoutes récentes affiche les 50 dernières sources SoundTouch™ écoutées.

1. Choisissez **Aller à Sources récentes**.

Aller à  
Sources  
récentes



Le volet SOURCES RÉCENTES apparaît.

Contenu  
récemment  
lu



2. Sélectionnez un élément.

## **Accès à la fonction Bluetooth®**

Vous pouvez accéder à la fonction *Bluetooth* via le menu SOURCE de votre système ou via l'application SoundTouch™.

### **Sélection de la source Bluetooth®**

La source *Bluetooth* vous permet de jumeler et de contrôler vos appareils compatibles *Bluetooth* à l'aide de la télécommande votre système.

1. Mettez votre système sous tension.
2. Appuyez sur la touche **SOURCE** de la télécommande.

Le menu Source apparaît.



**Conseil :** vous pouvez aussi appuyer sur la touche SOURCE de votre télécommande.


3. Sélectionnez **Bluetooth®**.

## Utilisation de l'écran de la source Bluetooth®

La télécommande permet d'accéder à un sous-ensemble de fonctions *Bluetooth* dans l'écran de la source.

### Actions possibles

- Jumeler et connecter les périphériques compatibles *Bluetooth*.
- Voir les informations disponibles sur les artistes dans le volet Lecture en cours.
- Afficher les appareils connectés.
- Contrôler la lecture (lecture, pause, arrêt, passage à l'enregistrement suivant, etc.)
- Effacer la liste de jumelage.



## Effacement de la liste de jumelage Bluetooth® du système

Lorsque vous jumelez un appareil compatible *Bluetooth* avec votre système, la connexion est mémorisée dans la liste de jumelage du système. Il est possible que vous deviez effacer la liste de jumelage si vous ne pouvez pas vous connecter à un appareil. Une fois la liste effacée, vous devez renouveler le jumelage des appareils préalablement jumelés.

1. Appuyez sur la touche  de la télécommande.
2. Sélectionnez .

Un message similaire à *Liste de jumelage effacée* s'affiche.

Le système est prêt à être jumelé à un appareil.

# Contrôle du système à l'aide de l'application

## Utilisation de l'application SoundTouch™

L'application SoundTouch™ permet de contrôler votre système SoundTouch™ à partir de votre ordinateur, votre smartphone ou votre tablette. Cette application peut donc transformer votre ordinateur, smartphone ou tablette en une télécommande perfectionnée pour votre système SoundTouch™.

Elle permet en effet de gérer la configuration de votre système SoundTouch™, d'ajouter des services musicaux, d'explorer des stations radio Internet locales et mondiales, de définir et modifier des présélections, de diffuser de la musique via le système, de voir ce qui est en lecture, etc.

Après avoir configuré le système sur votre réseau à l'aide de l'application SoundTouch™, vous êtes prêt à explorer la musique diffusée en continu et à personnaliser vos présélections.

### **Pour obtenir de l'aide**

#### [SoundTouch.com](#)

Cette page permet d'accéder au centre d'assistance, qui contient des notices d'utilisation, des articles, des conseils, des didacticiels, une vidéothèque et la communauté de propriétaires où vous pouvez publier des questions et des réponses.

1. Ouvrez une fenêtre de navigateur.
2. Dans le champ d'adresse, tapez SoundTouch.com

### **Rubriques d'aide de l'application**

Ces rubriques contiennent des articles d'aide concernant l'utilisation du système SoundTouch™.

1. Sur votre appareil, sélectionnez  pour ouvrir l'application.
2. Dans le volet EXPLORATION, sélectionnez **AIDE**.

### **Contrôle du système à partir d'un autre ordinateur, smartphone ou tablette**


Après avoir configuré le système SoundTouch™ sur votre réseau Wi-Fi®, vous pouvez le contrôler à partir de tout ordinateur, smartphone ou tablette connecté(e) au même réseau.

1. Connectez le système et l'appareil externe au même réseau.
2. Téléchargez et installez l'application SoundTouch™ :
  - Pour iOS : téléchargez l'application sur l'App Store
  - Pour Android™ : téléchargez l'application sur Google Play™ Store
  - Utilisateurs d'Amazon Kindle Fire : téléchargez l'application via l'App-Shop Amazon pour Android
  - Si vous utilisez un ordinateur, ouvrez un navigateur et accédez au site suivant :

**[SoundTouch.com/app](#)**

## Touche de commande

L'adaptateur pour réseau sans fil SoundTouch™ dispose de fonctionnalités avancées, accessibles en maintenant enfoncée la touche de commande.



## Indicateur Wi-Fi®

L'indicateur Wi-Fi en face arrière de l'adaptateur indique le statut de la liaison Wi-Fi.

Activité de l'indicateur	État du système
Blanc clignotant	Connexion au réseau Wi-Fi en cours
Blanc fixe	Système allumé et connecté au réseau Wi-Fi
Orange fixe	Système en mode de configuration
Orange clignotant lentement	Déconnecté du réseau Wi-Fi
Orange clignotant rapidement	Erreur du micrologiciel, contactez l'assistance de Bose
Éteint	Réseau Wi-Fi désactivé ou système connecté par liaison Ethernet

## Désactivation de la fonctionnalité Wi-Fi®

La désactivation du réseau Wi-Fi désactive également à la fonction Bluetooth®.

1. Mettez votre système home cinéma sous tension.
2. Maintenez appuyé la touche de commande de l'adaptateur pendant 8 à 10 secondes.
3. Lorsque l'indicateur Wi-Fi s'éteint, relâchez le bouton de commande.

## Réactivation de la fonctionnalité Wi-Fi®

La réactivation du réseau Wi-Fi réactive également à la fonction Bluetooth®.

1. Mettez votre système home cinéma sous tension.
2. Appuyez sur le bouton de commande de l'adaptateur.

## Fonctionnalités avancées

---

### Réinitialisation de l'adaptateur

---

Une réinitialisation efface tous les réglages de source et de volume ainsi que les paramètres réseau du système, qui retrouve alors sa configuration d'origine.

**Remarque :** la réinitialisation efface vos présélections SoundTouch™ et vos informations d'identification réseau enregistrées.

1. Mettez votre système home cinéma sous tension.
2. Débranchez le câble Bose® link.
3. Maintenez enfoncée la touche de commande tout en reconnectant le câble.
4. Lancez l'application SoundTouch™ sur votre ordinateur et ajoutez le système à votre réseau.

## Résolution des problèmes

Problème	Mesure corrective
Impossible de configurer le réseau ou de détecter le périphérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>Raccordez l'adaptateur pour réseau sans fil SoundTouch™ au connecteur Bose link de la console de commande.</li> <li>Raccordez le câble USB à l'adaptateur pour réseau sans fil et à la console de commande. Ce câble doit rester connecté afin que le système fonctionne correctement.</li> <li>Branchez le système sur une prise de courant.</li> <li>Sélectionnez le nom de réseau correct et saisissez le mot de passe correspondant.</li> <li>Connectez le périphérique et le système SoundTouch™ au même réseau Wi-Fi®.</li> <li>Placez l'adaptateur pour réseau sans fil dans le champ de portée du routeur.</li> <li>Activez la fonction Wi-Fi sur le périphérique (mobile ou ordinateur) que vous utilisez pour la configuration.</li> <li>Fermez les autres applications ouvertes.</li> <li>Si vous utilisez un ordinateur pour la configuration, vérifiez les paramètres du pare-feu afin de vous assurer que l'application SoundTouch™ et le serveur musical SoundTouch™ font partie des programmes autorisés.</li> <li>Testez votre connexion Internet en chargeant la page <a href="http://www.SoundTouch.com">www.SoundTouch.com</a>.</li> <li>Redémarrez votre smartphone ou votre ordinateur, ainsi que votre routeur.</li> <li>Redémarrez votre système SoundTouch™ (pour obtenir de l'aide, reportez-vous aux rubriques d'aide de l'application).</li> <li>Désinstallez l'application, réinitialisez le système, puis recommencez le processus de configuration.</li> <li>Affichez votre réseau s'il est masqué pour terminer la configuration.</li> </ul>
Impossible de se connecter au réseau	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si votre réseau a été modifié ou si vous souhaitez connecter votre système à un autre réseau, reportez-vous aux rubriques d'aide de l'application.</li> <li>Connectez-vous au réseau en utilisant un câble Ethernet.</li> </ul>
L'indication SoundTouch™ ou Bluetooth® n'apparaît pas dans le menu SOURCE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mettez à jour la console de commande. Reportez-vous au mode d'emploi de votre système home cinéma.</li> <li>Vérifiez que le câble Bose® link et que le câble USB sont correctement branchés à l'adaptateur pour réseau sans fil et à la console de commande. Ces câbles doivent rester connectés afin que le système fonctionne correctement.</li> <li>Terminez la configuration de SoundTouch™. Voir page 19.</li> </ul>
Lecture audio Bluetooth® impossible	<p>Sur votre système :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumellez un appareil à l'aide de l'écran de la source <i>Bluetooth</i> (page 13).</li> <li>Essayez de jumeler un autre appareil.</li> <li>Reportez-vous à la section « Absence de son » du mode d'emploi de votre système.</li> <li>Configurez tout d'abord SoundTouch™, puis installez les mises à jour du système.</li> <li>Effacez la liste de jumelage du système (page 13).</li> </ul> <p>Sur votre appareil mobile :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Désactivez, puis activez de nouveau la fonction <i>Bluetooth</i>.</li> <li>Supprimez le système du menu <i>Bluetooth</i>. Renouvez le jumelage.</li> <li>Reportez-vous à la documentation de votre appareil compatible <i>Bluetooth</i>.</li> </ul>

## Entretien

---

### Ajout d'un réseau Wi-Fi®

---

Si les caractéristiques de votre réseau ont changé, ou pour connecter votre système à un autre réseau, vous devez saisir les nouvelles informations de réseau dans le menu UNIFY® de la page de configuration du réseau de votre système home cinéma.

1. Mettez votre système home cinéma sous tension.
2. Appuyez sur le bouton **Setup** de la console de commande.  
Le menu UNIFY apparaît.
3. Choisissez l'option **Configuration réseau**.
4. Suivez les instructions qui s'affichent pour modifier votre réseau.

## Nettoyage

---

Pour nettoyer votre adaptateur pour réseau sans fil SoundTouch™, essuyez le boîtier avec un chiffon doux et sec.

- N'utilisez pas de solvants, de produits chimiques ou d'aérosols.
- Veillez à ce qu'aucun liquide ou objet ne pénètre dans les ouvertures.

## Service client

---

Pour obtenir de l'aide supplémentaire sur l'utilisation du système :

- Rendez-vous sur le site SoundTouch.com
- Contactez le service client de Bose®. Consultez la liste d'adresses incluse dans le carton d'emballage.

## Garantie limitée

---

Votre adaptateur pour réseau sans fil SoundTouch™ est couvert par une garantie limitée. Les conditions détaillées de la garantie limitée sont notées sur le document Informations importantes relatives à la sécurité qui figure dans l'emballage. Consultez ce document pour connaître la procédure d'enregistrement. En cas d'oubli, les droits que vous confère cette garantie limitée ne s'en trouveront pas affectés.

Les informations de garantie qui accompagnent ce produit ne s'appliquent ni en Australie ni en Nouvelle-Zélande. Consultez notre site Web [www.Bose.com.au/warranty](http://www.Bose.com.au/warranty) ou [www.Bose.co.nz/warranty](http://www.Bose.co.nz/warranty) pour plus d'informations sur les conditions de garantie en Australie et Nouvelle-Zélande.

## Caractéristiques techniques

---

**Dimensions :** 5,1 cm x 6,4 cm x 23,8 cm (H x L x P)

**Poids :** 0,34 kg

# Configuration à l'aide de l'application SoundTouch™

Si vous ne parvenez pas à terminer la configuration du réseau via UNIFY® ou si vous n'avez pas effectué la configuration avec l'application SoundTouch™, vous devez télécharger et installer l'application de contrôle Bose® SoundTouch™ sur un smartphone, une tablette ou un ordinateur connecté(e) à votre réseau. L'application vous guide pour connecter le système au réseau Wi-Fi.

## Activation du mode de configuration sur l'adaptateur

- À l'arrière de l'adaptateur pour réseau sans fil SoundTouch™, appuyez sur la touche de commande pendant 1 à 8 secondes.
- Lorsque l'indicateur Wi-Fi® orange clignote, relâchez la touche de commande. L'indicateur Wi-Fi doit rester allumé en orange.

## Ajout du système à un compte SoundTouch™ existant

Si vous avez déjà configuré le système SoundTouch™ avec un autre système, il n'est pas nécessaire de télécharger à nouveau l'application SoundTouch™.

- Sur votre smartphone ou tablette, sélectionnez l'icône SoundTouch™ pour  lancer l'application.
- Pour ajouter un autre système, choisissez **EXPLORER > PARAMÈTRES > Systèmes > AJOUTER SYSTÈME**.  
L'application vous guidera durant toute la configuration.

## Téléchargement et installation de l'application SoundTouch™

Sur votre smartphone, tablette ou ordinateur, téléchargez l'**application SoundTouch™**.



Bose® SoundTouch™ controller app

- Pour iOS : téléchargez l'application sur l'App Store
- Pour Android™ : téléchargez l'application sur Google Play™ Store
- Utilisateurs d'Amazon Kindle Fire : téléchargez l'application via l'App-Shop Amazon pour Android
- Si vous utilisez un ordinateur, ouvrez un navigateur et accédez au site suivant : [SoundTouch.com/app](http://SoundTouch.com/app)

## Connexion du système à votre réseau Wi-Fi®

Après l'installation de l'application, ajoutez le système à votre réseau :

- Sur votre smartphone, ordinateur ou tablette, sélectionnez l'icône  pour lancer l'application.  
L'application vous guide pour connecter le système au réseau Wi-Fi.
- Suivez les instructions de l'application pour terminer l'installation, notamment la création d'un compte SoundTouch™, l'ajout de votre bibliothèque musicale et l'inscription aux services musicaux.

## Annexe B : Installation de l'adaptateur pour réseau sans fil

### Fixation de l'adaptateur

Il est possible de monter l'adaptateur sur un mur (matériel de fixation non fourni). Si votre matériel de fixation est accompagné d'instructions qui diffèrent des présentes, suivez les instructions fournies avec votre matériel.

Ce tableau décrit les spécifications du matériel de fixation.

Élément	Bois	Cloison en plâtre
Épaisseur du mur	19 mm ou plus	9,5 mm ou plus
Mèche	3 mm	4,5 mm
Vis à bois à tête bombée (2)	32 mm	32 mm
Chevilles murales en plastique (2)	Non utilisé	25 mm


### Options de montage

Il existe deux façons de monter l'adaptateur :

- Verticalement, panneau de connexion orienté vers la gauche
- Horizontalement, panneau de connexion orienté vers le haut

### Montage de l'adaptateur

1. Pratiquez deux trous espacés de 159 mm de centre à centre.



2. En cas de montage sur un support en plâtre, béton ou brique, insérez les chevilles en plastique.

3. Fixez les vis à bois à tête bombée.

**Remarque :** laissez dépasser les têtes des vis de la surface du mur d'environ 6,35 mm.

4. Positionnez l'adaptateur sur les vis.



# Importanti istruzioni di sicurezza

---

Leggere attentamente questa guida e attenersi alle istruzioni importanti sulla sicurezza.

 Il simbolo del fulmine con la punta a freccia all'interno di un triangolo equilatero mette in guardia l'utente contro tensioni pericolose non isolate all'interno del telaio del sistema, di entità tale da presentare un potenziale pericolo di scossa elettrica.

 Il simbolo del punto esclamativo racchiuso all'interno di un triangolo equilatero, che appare sul sistema, rimanda l'utente alla lettura delle importanti istruzioni di uso e manutenzione contenute in questo manuale.

---

## ATTENZIONE:

- Non apportare modifiche al sistema o agli accessori.
  - Le modifiche non autorizzate possono compromettere la sicurezza, la conformità alle norme e le prestazioni del sistema.
- 

## AVVERTENZE:

- Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, evitare di esporre il prodotto a pioggia o umidità.
  - Non esporre l'apparecchio a gocce o schizzi e non porre oggetti colmi di liquidi, quali vasi, sopra o accanto all'apparecchio. Come per qualsiasi prodotto elettronico, è importante che all'interno delle parti del prodotto non penetrino liquidi, che potrebbero determinare guasti e/o rischio di incendio.
  - Non collocare sorgenti di fiamme libere (ad esempio candele accese) sull'apparecchio o nelle sue vicinanze.
- 

1. Leggere queste istruzioni.
2. Conservare queste istruzioni.
3. Prestare attenzione a tutte le avvertenze.
4. Seguire tutte le istruzioni.
5. Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di acqua.
6. Utilizzare solo un panno asciutto per la pulizia.
7. Non ostruire le aperture di ventilazione. Installare il prodotto in conformità con le istruzioni fornite dal produttore.
8. Non installare i diffusori in prossimità di fonti di calore, quali termosifoni, radiatori, stufe o altri apparati (compresi gli amplificatori) che generano calore.
9. Utilizzare solo sistemi di aggancio/accessori specificati dal produttore.
10. Affidarsi a personale qualificato per tutti gli interventi di assistenza. Gli interventi di assistenza si rendono necessari quando l'apparato ha subito danni di qualsiasi tipo, ad esempio se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, se è stato versato del liquido o sono caduti oggetti sull'apparato, se l'apparato è stato esposto a pioggia o umidità, se non funziona normalmente o è caduto.

## NOTE:

- L'etichetta identificativa è situata sul fondo del prodotto.
- Il prodotto è destinato all'uso in ambienti interni. Non è stato progettato né collaudato per l'uso in ambienti esterni, camper o imbarcazioni.

## Informazioni importanti sulla conformità

**Nota:** Questa apparecchiatura è stata sottoposta a collaudo ed è risultata conforme ai limiti relativi ai dispositivi digitali di Classe B previsti dalla Parte 15 delle norme FCC. Tali limiti sono stati fissati allo scopo di assicurare un'adeguata protezione dalle interferenze dannose nell'ambito di un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non viene installata e utilizzata in conformità alle istruzioni fornite, può interferire negativamente con le comunicazioni radiofoniche. Non esiste tuttavia alcuna garanzia che in una particolare installazione non si verificherà alcuna interferenza. Se questo dispositivo dovesse provocare interferenze con la ricezione radiotelevisiva (determinabili spegnendo e riaccendendo l'apparecchio), si dovrà provare a eliminare tali interferenze effettuando una o più delle seguenti operazioni:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra il dispositivo che provoca interferenza e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa appartenente a un circuito diverso rispetto a quella a cui è collegato il ricevitore.
- Rivolgersi al distributore o a un tecnico radiotelevisivo specializzato per ottenere assistenza.

# Importanti istruzioni di sicurezza

## AVVERTENZA FCC

Eventuali modifiche o alterazioni non espressamente approvate da Bose Corporation possono rendere nulla l'autorizzazione dell'utente all'utilizzo dell'apparecchiatura stessa.

## Negli Stati Uniti e in Canada

Questo dispositivo è conforme con la parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due seguenti condizioni:

(1) il dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) deve accettare le interferenze ricevute, incluse quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato del dispositivo.

Il presente apparato digitale di Classe B è conforme alla normativa canadese ICES-003 / CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B).

Questo apparecchio rispetta i limiti previsti dalle norme FCC e da Industry Canada per la popolazione in generale in merito alle radiazioni in radio frequenza.

- Il dispositivo non deve essere collocato oppure utilizzato in prossimità di altri radiotrasmettitori o antenne.
- Questo dispositivo è conforme agli standard RSS di Industry Canada per i dispositivi esenti da licenza. Il funzionamento è soggetto alle due seguenti condizioni: (1) il dispositivo non può causare interferenze e (2) deve accettare eventuali interferenze, incluse quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato del dispositivo.
- Questa apparecchiatura è conforme con i limiti di esposizione alle radiazioni delle normative FCC e Industry Canada previsti per un ambiente non controllato. L'apparecchiatura deve essere installata e utilizzata a una distanza minima di 20 cm tra il radiatore e il proprio corpo.



Bose Corporation dichiara che il presente prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni applicabili della Direttiva 1999/5/CE e di tutte le altre direttive UE applicabili.

La dichiarazione di conformità completa è disponibile all'indirizzo [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)



Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici, ma deve essere consegnato a una struttura di raccolta appropriata per il riciclaggio. Uno smaltimento e un riciclaggio corretti aiutano a preservare le risorse naturali, la salute e l'ambiente. Per ulteriori informazioni sullo smaltimento e sul riciclaggio di questo prodotto, rivolgersi alle autorità locali, al servizio di smaltimento dei rifiuti o al negozio presso il quale è stato acquistato.

Nome e contenuto delle sostanze o degli elementi tossici o pericolosi						
Nome parte	Sostanze ed elementi tossici o pericolosi					
	Piombo (Pb)	Mercurio (Hg)	Cadmio (Cd)	Cromo esavalente (CR(VI))	Bifenile polibromurato (PBB)	Difeniletere polibromurato (PBDE)
Circuiti stampati	X	O	O	O	O	O
Parti di metallo	X	O	O	O	O	O
Parti di plastica	O	O	O	O	O	O
Diffusori	X	O	O	O	O	O
Cavi	X	O	O	O	O	O

Questa tabella è stata messa a punto in accordo a quanto previsto dallo standard SJ/T 11364.  
O: indica che la quantità della sostanza tossica o pericolosa contenuta in tutti i materiali omogenei della parte è inferiore al limite previsto dallo standard GB/T 26572.

X: indica che la quantità della sostanza tossica o pericolosa contenuta in almeno uno dei materiali omogenei della parte è superiore al limite previsto dallo standard GB/T 26572

# Informazioni sulle normative

---

## Compilare e conservare le seguenti informazioni:

Il numero di serie e di modello sono riportati sulla base del sistema.

Numero di serie: \_\_\_\_\_

Numero di modello: \_\_\_\_\_

Data d'acquisto: \_\_\_\_\_

È consigliabile conservare la ricevuta insieme a questo manuale di istruzioni.

App Store è un marchio di servizio di Apple Inc.

Amazon, Kindle e Fire sono marchi commerciali di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate.

Android e Google Play sono marchi commerciali di Google Inc.

Il marchio in lettere e i loghi *Bluetooth*® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. L'uso di tali marchi da parte di Bose Corporation è consentito dietro licenza.



iHeartRadio è un marchio registrato di iHeartMedia, Inc.

iTunes è un marchio registrato di Apple Inc. negli USA e in altri Paesi.

I termini HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface e il logo HDMI sono marchi commerciali o marchi registrati di HDMI Licensing LLC negli Stati Uniti e in altri paesi.

Il prodotto include il software Spotify, soggetto a licenze di terze parti consultabili qui:  
[www.spotify.com/connect/third-party-license](http://www.spotify.com/connect/third-party-license)

Spotify è un marchio registrato di Spotify AB.

SoundTouch e il disegno della nota wireless sono marchi commerciali di Bose Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Wi-Fi è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance®.

Windows è un marchio registrato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri Paesi.

© 2015 Bose Corporation. Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta, modificata, distribuita o usata in altro modo senza previa autorizzazione scritta.

## Introduzione

SoundTouch™ .....	7
Vantaggi del sistema .....	7

## SoundTouch™

Accesso a SoundTouch™ .....	8
Selezione della sorgente SoundTouch™ .....	8
Uso della schermata della sorgente SoundTouch™ .....	9
Cosa si può fare.....	9
Funzionamento dei preset.....	10
Cosa occorre sapere.....	10
Riproduzione di un preset.....	10
Impostazione di un preset.....	10
Accesso ai contenuti eseguiti di recente .....	11

## Bluetooth®

Accesso a Bluetooth® .....	12
Selezione della sorgente Bluetooth® .....	12
Uso della schermata della sorgente Bluetooth® .....	13
Cancellazione dell'elenco dei dispositivi Bluetooth® accoppiati del sistema .....	13

## Controllo del sistema mediante l'app

Uso dell'app SoundTouch™ .....	14
Come ottenere assistenza.....	14
Controllo del sistema da un altro smartphone, tablet o computer..	14

## Funzioni avanzate

Pulsante di controllo.....	15
Indicatore Wi-Fi® .....	15
Disattivazione della funzionalità Wi-Fi® .....	15
Riattivazione della funzionalità Wi-Fi® .....	15
Ripristino dell'adattatore .....	16

# Sommario

---

## Manutenzione

Risoluzione dei problemi .....	17
Aggiunta di una rete Wi-Fi® .....	18
Pulizia .....	18
Assistenza tecnica.....	18
Garanzia limitata .....	18
Dati tecnici .....	18

## Appendice A: Configurazione di SoundTouch™

Configurazione mediante l'app SoundTouch™ .....	19
Attivazione della modalità di configurazione sull'adattatore .....	19
Aggiunta del sistema a un account SoundTouch™ esistente .....	19
Scaricare ed eseguire l'app SoundTouch™ .....	19
Collegamento del sistema alla rete Wi-Fi® domestica .....	19

## Appendice B: Montaggio dell'adattatore wireless

Montaggio dell'adattatore .....	20
Opzioni di montaggio.....	20
Montaggio dell'adattatore .....	20

## SoundTouch™

---

Il sistema musicale wireless SoundTouch™ consente di apprezzare un suono chiaro e potente, trasmesso in streaming wireless tramite la rete Wi-Fi domestica. Con SoundTouch™, è possibile utilizzare in streaming radio Internet, servizi musicali e librerie musicali.

Una rete Wi-Fi® domestica e un sistema SoundTouch™ è tutto quello che occorre per ascoltare liberamente la propria musica preferita in ogni ambiente della casa. Per ulteriori informazioni, consultare la guida alla configurazione del sistema.

**Nota:** Se è stato acquistato un adattatore come accessorio, fare riferimento alla guida rapida per le istruzioni di configurazione.

### Vantaggi del sistema

- Abilita il sistema di intrattenimento Bose alla trasmissione in streaming wireless di brani musicali tramite SoundTouch™.
- Accesso wireless a radio Internet, servizi musicali e librerie musicali.
- Aggiunge la sorgente SoundTouch™, che permette di visualizzare e controllare i preset e i contenuti Recenti e In riproduzione sul televisore.
- L'app gratuita SoundTouch™ consente di consultare radio Internet, servizi musicali e librerie musicali da computer, smartphone o tablet.
- I sei preset personalizzabili permettono di selezionare la musica preferita con un solo tocco sul telecomando.
- Configurazione wireless da smartphone o tablet.
- Funzionamento con la rete Wi-Fi domestica esistente.
- Streaming di brani musicali da dispositivi abilitati per *Bluetooth*®.
- Possibilità di aggiungere facilmente sistemi supplementari in qualunque momento per creare un'esperienza d'ascolto multi-ambiente.
- Ampia scelta di sistemi audio Bose® per individuare la soluzione giusta per ogni stanza.

# SoundTouch™

## Accesso a SoundTouch™

SoundTouch™ è accessibile tramite il menu SORGENTE del sistema di intrattenimento oppure mediante l'app SoundTouch™.

- **Sorgente SoundTouch™ :** Offre una serie di funzioni SoundTouch™ che permettono di riprodurre i contenuti recenti e personalizzare i preset.
- **App SoundTouch™ :** Offre un controllo completo di SoundTouch™, permettendo di gestire le impostazioni del sistema, consultare le stazioni radio Internet, impostare e modificare i preset, trasmettere la musica in streaming al sistema, visualizzare il contenuto in corso di riproduzione e molto altro.

## Selezione della sorgente SoundTouch™

La sorgente SoundTouch™ permette di controllare i preset e i contenuti Recenti e In riproduzione utilizzando il telecomando del sistema.

1. Accendere il sistema.
2. Premere il pulsante **SOURCE** sul telecomando.  
Viene visualizzato il menu SORGENTE.



**Suggerimento:** È anche possibile premere il pulsante SOURCE sulla console di controllo.


3. Selezionare **SoundTouch™**.

# Uso della schermata della sorgente SoundTouch™

Utilizzando il telecomando, è possibile accedere a una serie di funzioni SoundTouch™ dalla schermata della sorgente.

## Cosa si può fare

- Personalizzare e riprodurre i preset (pagina 10).
- Riprodurre i contenuti Recenti (pagina 11).
- Visualizzare le informazioni sull'artista nel pannello IN RIPRODUZIONE.
- Controllare la riproduzione (riproduci, pausa, interrompi, salta al brano successivo, ecc.).
- Visualizzare la sorgente musicale del contenuto del pannello IN RIPRODUZIONE.



Per un maggiore controllo del sistema SoundTouch™, vedere “Uso dell'app SoundTouch™” a pagina 14.

## Funzionamento dei preset

---

È possibile personalizzare sei preset con le proprie preferenze di servizi musicali: stazioni radio, playlist, artisti, album o brani della propria libreria musicale. Per accedere alla propria musica in qualunque momento, utilizzare l'app SoundTouch™ sul computer, smartphone o tablet, oppure la sorgente SoundTouch™ sul sistema di intrattenimento.

### Cosa occorre sapere

- È possibile impostare i preset dall'app e dal sistema di intrattenimento.
- Se la sorgente dei preset è iTunes o la libreria musicale di Windows Media Player, verificare che il computer su cui è archiviata la libreria musicale sia acceso e connesso alla stessa rete del sistema SoundTouch™.

## Riproduzione di un preset

---

Dopo aver personalizzato i preset, selezionarne uno con il telecomando o nell'app per riprodurlo.

**Nota:** Se la riproduzione non parte, vedere "Impostazione di un preset".

## Impostazione di un preset

---

1. È possibile riprodurre musica in streaming sul sistema di intrattenimento utilizzando l'app o la sorgente SoundTouch™.
2. Mentre è in corso la riproduzione di un brano, premere e tenere premuto un numero di preset sul telecomando (per circa 2 secondi).

**Nota:** Per informazioni sull'uso dell'app SoundTouch™ per impostare e modificare i preset, vedere la guida in linea dell'app.

## Accesso ai contenuti eseguiti di recente

L'elenco Recenti mostra gli ultimi 50 contenuti SoundTouch™ riprodotti.

1. Selezionare **Vai a recenti**.

Vai a recenti



Viene visualizzato il pannello RECENTI.

Contenuti eseguiti di recente



2. Selezionare una voce.

## **Bluetooth®**

### **Accesso a Bluetooth®**

Bluetooth è accessibile tramite il menu SORGENTE del sistema di intrattenimento oppure mediante l'app SoundTouch™.

#### **Selezione della sorgente Bluetooth®**

La sorgente Bluetooth permette di accoppiare e controllare i dispositivi Bluetooth utilizzando il telecomando del sistema.

1. Accendere il sistema.

2. Premere il pulsante **SOURCE** sul telecomando.

Viene visualizzato il menu SORGENTE.



**Suggerimento:** È anche possibile premere il pulsante SOURCE sulla console di controllo.


3. Selezionare **Bluetooth®**.

## Uso della schermata della sorgente Bluetooth®

Utilizzando il telecomando, è possibile accedere a una serie di funzioni *Bluetooth* dalla schermata della sorgente.

### Cosa si può fare

- Accoppiare e collegare i dispositivi *Bluetooth*.
- Visualizzare le informazioni sull'artista nel pannello IN RIPRODUZIONE.
- Visualizzare i dispositivi collegati.
- Controllare la riproduzione (riproduci, pausa, interrompi, salta al brano successivo, ecc.).
- Cancellare l'elenco dei dispositivi accoppiati.



## Cancellazione dell'elenco dei dispositivi Bluetooth® accoppiati del sistema

Quando si accoppia un dispositivo abilitato per *Bluetooth* al sistema, la connessione viene memorizzata nell'elenco dei dispositivi accoppiati del sistema. Se non è possibile connettersi a un dispositivo, potrebbe essere necessario cancellare l'elenco dei dispositivi accoppiati. Una volta cancellato l'elenco, è necessario eseguire di nuovo l'accoppiamento dei dispositivi precedentemente accoppiati.

1. Premere il pulsante  sul telecomando.
2. Selezionare .

Sullo schermo viene visualizzato un messaggio simile a *Elenco dei dispositivi accoppiati cancellato*.

Il sistema è pronto per accoppiare un dispositivo.

# Controllo del sistema mediante l'app

---

## Uso dell'app SoundTouch™

---

SoundTouch™ è un'applicazione software che permette di configurare e controllare il sistema SoundTouch™ da uno smartphone o un tablet. Utilizzando l'app, il dispositivo smart può essere utilizzato come telecomando per il sistema SoundTouch™.

L'app consente di gestire le impostazioni e i servizi musicali di SoundTouch™, consultare le stazioni radio Internet locali e internazionali, impostare e modificare i preset, trasmettere la musica in streaming al sistema, visualizzare il contenuto in corso di riproduzione e molto altro.

Dopo aver configurato il sistema all'interno della rete utilizzando l'app SoundTouch™, si è pronti per esplorare la musica in streaming e personalizzare i preset.

## Come ottenere assistenza

### [SoundTouch.com](#)

Consente di accedere al centro assistenza che include: manuali di istruzioni, articoli, suggerimenti, esercitazioni, una libreria video e la community degli utenti, dove è possibile pubblicare domande e trovare risposte ai problemi più comuni.

1. Aprire un browser.
2. Nel campo dell'indirizzo, digitare SoundTouch.com

## Guida nell'app

Contiene articoli della guida sull'uso di SoundTouch™.

1. Sul dispositivo, selezionare  per aprire l'app.
2. Dal pannello ESPLORA, selezionare **AIUTO**.


## Controllo del sistema da un altro smartphone, tablet o computer

Una volta configurato il sistema SoundTouch™ per la propria rete Wi-Fi®, è possibile controllare il sistema da qualsiasi smartphone, tablet o computer della stessa rete.

1. Collegare il dispositivo alla stessa rete del sistema.
2. Scaricare e installare l'app SoundTouch™ sul dispositivo:
  - Utenti iOS: scaricare da App Store
  - Utenti Android™: scaricare da Google Play™ Store
  - Utenti Amazon Kindle Fire: eseguire il download dall'Amazon Appstore per Android
  - Se si utilizza un computer, aprire un browser e andare a:  
**SoundTouch.com/app**

### Pulsante di controllo

L'adattatore wireless SoundTouch™ fornisce funzionalità avanzate accessibili tenendo premuto il pulsante Control.



### Indicatore Wi-Fi®

L'indicatore Wi-Fi sulla parte anteriore del sistema indica lo stato del Wi-Fi.

Attività dell'indicatore	Stato del sistema
Bianco lampeggiante	Connessione alla rete Wi-Fi in corso
Bianco fisso	Sistema acceso e connesso alla rete Wi-Fi
Ambra fisso	Sistema in modalità di impostazione
Luce ambra lampeggiante lenta	Disconnesso dalla rete Wi-Fi
Luce ambra lampeggiante veloce	Errore firmware - chiamare l'assistenza Bose
Spento	Connessione Wi-Fi disattivata oppure sistema connesso a Ethernet

### Disattivazione della funzionalità Wi-Fi®

Disattivare e riattivare la funzionalità *Bluetooth*®.

1. Accendere il sistema di intrattenimento.
2. Tenere premuto il pulsante Control dell'adattatore per 8-10 secondi.
3. Quando l'indicatore Wi-Fi si spegne, rilasciare il pulsante Control.

### Riattivazione della funzionalità Wi-Fi®

La riattivazione della funzionalità Wi-Fi riattiva anche la funzione *Bluetooth*®.

1. Accendere il sistema di intrattenimento.
2. Premere il pulsante Control dell'adattatore.

## Funzioni avanzate

---

### Ripristino dell'adattatore

---

Il ripristino delle impostazioni originali cancella tutte le impostazioni di sorgente e di rete dal sistema, ripristinando le impostazioni di fabbrica originali.

**Nota:** La funzione di ripristino cancella i preset SoundTouch™ e le credenziali di rete salvate.

1. Accendere il sistema di intrattenimento.
2. Scollegare il cavo Bose® link.
3. Premere e tenere premuto il pulsante Control mentre si riconnette il cavo.
4. Avviare l'app SoundTouch™ sul computer e aggiungere il sistema alla rete.

## Risoluzione dei problemi

Problema	Soluzione
Impossibile completare la configurazione di rete o impossibile rilevare l'adattatore	<ul style="list-style-type: none"> <li>Collegare l'adattatore wireless SoundTouch™ al connettore Bose link della console di controllo.</li> <li>Collegare il cavo USB all'adattatore wireless e alla console di controllo. Questo cavo deve rimanere collegato affinché il sistema funzioni correttamente.</li> <li>Collegare il sistema all'alimentazione.</li> <li>Selezionare il nome di rete corretto e immettere la password.</li> <li>Connettere il dispositivo e il sistema SoundTouch™ alla stessa rete Wi-Fi®.</li> <li>Posizionare l'adattatore wireless nell'area coperta dal router.</li> <li>Abilitare la funzione Wi-Fi sul dispositivo (mobile o computer) che si sta utilizzando per la configurazione.</li> <li>Chiudere altre applicazioni aperte.</li> <li>Se si usa un computer per la configurazione, controllare le impostazioni del firewall per verificare che l'app SoundTouch™ e SoundTouch™ Music Server siano tra i programmi consentiti.</li> <li>Provare la connessione Internet caricando il sito <a href="http://www.SoundTouch.com">www.SoundTouch.com</a></li> <li>Riavviare il dispositivo mobile o il computer e il router.</li> <li>Riavviare il sistema SoundTouch™ (vedere la guida in linea dell'app).</li> <li>Disinstallare l'app, ripristinare il sistema e riavviare la procedura di configurazione.</li> <li>Rendere visibile la rete (se è nascosta) per completare la configurazione.</li> </ul>
Impossibile connettersi alla rete	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se la rete è cambiata oppure si desidera connettere il sistema a un'altra rete, consultare la guida in linea dell'app.</li> <li>Provare a connettersi alla rete tramite cavo Ethernet.</li> </ul>
SoundTouch™ o Bluetooth® non compare nel menu della sorgente	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aggiornare la console di controllo. Consultare il manuale di istruzioni del sistema di intrattenimento.</li> <li>Controllare che il cavo Bose® link e il cavo USB siano completamente inseriti nell'adattatore wireless e nella console di controllo. Questi cavi devono rimanere collegati affinché il sistema funzioni correttamente.</li> <li>Completare la configurazione SoundTouch™. Vedere pagina 19.</li> </ul>
Impossibile riprodurre audio Bluetooth®	<p>Sul sistema:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Accoppiare un dispositivo utilizzando la schermata della sorgente Bluetooth (pagina 13).</li> <li>Provare ad accoppiare un altro dispositivo.</li> <li>Vedere "Non si sente alcun suono" nel manuale d'uso del sistema.</li> <li>Configurare prima SoundTouch™ e aggiornare il sistema.</li> <li>Cancellare l'elenco dei dispositivi accoppiati del sistema (pagina 13).</li> </ul> <p>Sul dispositivo mobile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Disattivare e riattivare la funzionalità Bluetooth.</li> <li>Rimuovere il sistema dal menu Bluetooth. Ripetere l'accoppiamento.</li> <li>Consultare la documentazione del dispositivo abilitato per Bluetooth.</li> </ul>

## Manutenzione

---

### Aggiunta di una rete Wi-Fi®

---

Se le informazioni della rete sono cambiate oppure se si desidera collegare il sistema a un'altra rete, occorre aggiungere le informazioni della nuova rete nella sezione Configurazione della rete del menu UNIFY® del sistema di intrattenimento.

1. Accendere il sistema di intrattenimento.
2. Premere il pulsante **Setup** sulla console di controllo.  
Viene visualizzato il menu UNIFY.
3. Selezionare **Configurazione della rete**.
4. Seguire le istruzioni visualizzate per cambiare la rete.

## Pulizia

---

Per pulire l'adattatore wireless SoundTouch™, passare sulla superficie esterna un panno morbido e asciutto.

- Non utilizzare solventi, prodotti chimici o spray.
- Evitare di versare liquidi o lasciar cadere oggetti nelle aperture.

## Assistenza tecnica

---

Per ulteriore assistenza sull'uso del sistema:

- Visitare il sito SoundTouch.com
- Contattare il centro di assistenza tecnica Bose®. Consultare l'elenco dei contatti accluso alla confezione.

## Garanzia limitata

---

Il sistema SoundTouch™ è coperto da una garanzia limitata. I dettagli relativi alla garanzia limitata sono riportati sulla scheda Informazioni importanti sulla sicurezza contenuta nella confezione. Per istruzioni sulla registrazione, consultare la scheda Informazioni importanti sulla sicurezza. La mancata registrazione non inciderà in alcun modo sui diritti previsti dalla garanzia limitata.

Le informazioni di garanzia fornite con questo prodotto non sono valide in Australia e Nuova Zelanda. Per i dettagli della garanzia in Australia e Nuova Zelanda, consultare il nostro sito web all'indirizzo [www.Bose.com.au/warranty](http://www.Bose.com.au/warranty) o [www.Bose.co.nz/warranty](http://www.Bose.co.nz/warranty).

## Dati tecnici

---

**Dimensioni:** 5,1 cm (A) x 6,4 cm (L) x 23,8 cm (P)

**Peso:** 0,34 kg

## **Appendice A: Configurazione di SoundTouch™**

### **Configurazione mediante l'app SoundTouch™**

Se non si riesce a completare la configurazione di rete mediante UNIFY® oppure se non è stata completata la configurazione con l'app SoundTouch™, è necessario scaricare e installare l'app di controllo Bose® SoundTouch™ su uno smartphone, tablet o computer connesso alla propria rete. L'app guiderà l'utente nei vari passaggi della procedura di connessione del sistema alla rete.

#### **Attivazione della modalità di configurazione sull'adattatore**

1. Sul retro dell'adattatore wireless SoundTouch™, premere e tenere premuto il pulsante Control per 1-8 secondi.
2. Quando l'indicatore Wi-Fi® lampeggia in ambra, rilasciare il pulsante Control. A questo punto l'indicatore Wi-Fi dovrebbe avere una luce ambra fissa.

#### **Aggiunta del sistema a un account SoundTouch™ esistente**

Se SoundTouch™ è già stato configurato per un altro sistema, non è necessario scaricare di nuovo l'app SoundTouch™.

1. Sullo smartphone o sul tablet, selezionare l'icona SoundTouch™  per avviare l'app.
2. Selezionare **ESPLORA > IMPOSTAZIONI > Sistemi > AGGIUNGI SISTEMA** per aggiungere un altro sistema.

L'app guida l'utente nei vari passaggi della configurazione.

#### **Scaricare ed eseguire l'app SoundTouch™**

Sullo smartphone, tablet o computer, scaricare l'**app di controllo SoundTouch™**.



**Bose® SoundTouch™  
controller app**

- Utenti iOS: scaricare da App Store
- Utenti Android™: scaricare da Google Play™ Store
- Utenti Amazon Kindle Fire: eseguire il download dall'Amazon Appstore per Android
- Se si utilizza un computer, aprire un browser e andare a:  
**SoundTouch.com/app**

#### **Collegamento del sistema alla rete Wi-Fi® domestica**

Una volta installata l'app, aggiungere il sistema alla rete:

1. Sullo smartphone, tablet o computer, selezionare  per avviare l'app.  
L'app guiderà l'utente nei vari passaggi della procedura di connessione del sistema alla rete Wi-Fi.
2. Seguire le istruzioni visualizzate per completare la configurazione, che include la creazione di un account SoundTouch™, l'aggiunta di una libreria musicale e l'accesso ai servizi musicali.

## Appendice B: Montaggio dell'adattatore wireless

### Montaggio dell'adattatore

L'adattatore può essere montato a parete (attrezzatura non inclusa). Se le istruzioni degli accessori di montaggio differiscono da quelle riportate qui, seguire le istruzioni fornite con gli accessori.

In questa tabella sono riportate le specifiche degli accessori di montaggio.

Voce	Legno	Pannello in cartongesso
<b>Spessore parete</b>	Almeno $\frac{3}{4}$ poll. (19 mm)	Almeno $\frac{9}{16}$ poll. (9,5 mm)
<b>Tipo di punta da trapano</b>	$\frac{1}{8}$ poll. (3 mm)	$\frac{3}{16}$ poll. (4,5 mm)
<b>Viti da legno a testa cilindrica (2)</b>	8 x 1 $\frac{1}{4}$ poll. (32 mm)	8 x 1 $\frac{1}{4}$ poll. (32 mm)
<b>Tasselli in plastica (2)</b>	Non utilizzato	6 - 8 x 1 poll. (25 mm)


### Opzioni di montaggio

Per montare l'adattatore, è possibile procedere in due modi:

- Montaggio verticale, con pannello connettori rivolto verso sinistra
- Montaggio orizzontale, con pannello connettori rivolto verso l'alto

### Montaggio dell'adattatore

1. Praticare due fori da 159 mm da centro a centro.



2. Inserire dei tasselli in plastica (se si monta l'adattatore su una parete in cartongesso).

3. Installare due viti da legno a testa cilindrica.

**Nota:** Lasciare che le teste delle viti fuoriescano di 6,35 mm dalla superficie della parete.

4. Posizionare l'adattatore sulle viti.



# Fontos biztonsági utasítások

Olvassa el figyelmesen a jelen útmutatót, és kövesse a Fontos biztonsági utasításokban leírtakat.

 A háromszögbe rajzolt, nyílban végződő villámszimbólum arra figyelmezteti a felhasználót, hogy a rendszer burkolatán belül veszélyes mértékű, szigetelés nélküli feszültség található, amely elég erős ahhoz, hogy áramütést okozzon.

 A rendszeren feltüntetett, háromszögben ábrázolt felkiáltójel arra hívja fel a felhasználó figyelmét, hogy a jelen használati útmutatóban fontos üzemeltetési és karbantartási utasítások találhatók.

## FIGYELEM!

- A rendszert és annak tartozékait tilos módosítani.
- Az illetéktelen módosítások kedvezőtlenül befolyásolhatják a biztonságot, a jogszabályi megfelelőséget és a rendszer teljesítményét.

## VIGYÁZAT:

- A tűz és az áramütés kockázatának csökkentése érdekében a rendszert óva az esőtől és a nedvességtől.
- Ügyeljen arra, hogy a készülékre ne csöpögjön, illetve ne fröccsenjen víz. A készülékre és annak közelébe ne helyezzen vágát vagy más, folyadékkal töltött tárgyat. A többi elektronikus rendszerhez hasonlóan ezen terménkkel is vigyázzon arra, hogy annak egyetlen részébe se kerüljön folyadék. A termék folyadékkal történő érintkezése meghibásodáshoz vezethet, és tüzet is okozhat.
- A termékre és annak közelébe tilos gyertyát vagy egyéb nyílt lánggal működő eszközöt helyezni.

1. Olvassa el ezeket az utasításokat.
2. Órizze meg őket.
3. Tartson be minden figyelmeztetést.
4. Tartsa be az összes utasítást.
5. Ne használja a készüléket víz közelében.
6. Csak száraz ronggyal tisztítsa.
7. Ne zárja el a szellőzőnyílásokat. A készüléket a gyártó utasításainak megfelelően helyezze üzembe.
8. Ne helyezze a készüléket hőforrások, például fűtőtest, tűzhely vagy egyéb hőtermelő berendezés közelébe (ideértve az erősítőket is).
9. Kizárolag a gyártó által meghatározott kiegészítőket/tartozékokat használja.
10. A javítási munkákat bízza szakemberre. Javításra akkor van szükség, amikor a készülék valamilyen módon meghibásodott, például megsérült a hálózati csatlakozószínórja vagy a csatlakozódugója, folyadék ömlött rá, nehéz tárgy esett rá, eső vagy nedvesség érte, működésében rendellenesség tapasztalható, vagy leesett.

## MEGJEGYZÉSEK:

- A termék címke a termék alján található.
- A termék csak zárt helyiségen használható. Azt nem szabadtérben, lakóautóban, illetve hajón történő használatra terveztek, és az ilyen jellegű használatot nem tesztelték.

## Fontos megfelelőségi információk

**Megjegyzés:** A berendezést az FCCtörvények 15. cikke szerint tesztelték. Ez alapján a berendezés megfelel a „B” osztályú digitális eszközök előírásainak. Ezen határértékek megfelelő védelmet nyújtanak a káros sugárzások ellen lakóépületen belül. A berendezés rádiófrekvenciás energiát termel, használ és sugározhat, és amennyiben nem az utasításoknak megfelelően helyezik üzembe és használják, a rádiókommunikációra nézve káros interferenciát okozhat. Arra azonban nincs garancia, hogy adott üzembe helyezés esetén nem lép fel interferencia. Ha a berendezés nem kívánt interferenciával zavarja a rádió- vagy a tévéadást (ezt a berendezés ki- és bekapcsolásával lehet ellenőrizni), javasoljuk, hogy az interferencia kiküszöbölése érdekében próbálkozzon az alábbiak egyikével:

- Fordítsa el vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a berendezés és a vevőkészülék közötti távolságot.
- Csatlakoztassa a készüléket a vevőkészüléktől különböző elektromos hálózaton lévő aljzatba.
- Forduljon a forgalmazóhoz vagy rádió-/tévészerelőhöz.

# Fontos biztonsági utasítások

## FCC-FIGYELMEZTETÉS

A Bose Corporation által kifejezetten jóvá nem hagyott módosítások vagy változtatások esetén érvénytelenné válhat a berendezés működtetésére adott felhasználói engedély.

## Az USA-ban és Kanadában

Az eszköz megfelel az FCC szabályzat 15. részének. A működés során a következő két feltételnek kell eleget tenni:

(1) Ez a készülék nem bocsátthat ki káros interferenciát, és (2) ennek a készüléknek el kell viselnie bármilyen interferenciát, az esetlegesen rendellenes működést okozó interferenciát is beleértve.

Ez a „B” osztályú digitális készülék megfelel a kanadai ICES-003 / CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B) szabványnak.

Ez a készülék megfelel az FCC és az Industry Canada által az általános népességre vonatkozóan megállapított sugárzási határértékeknek.

- A készüléket tilos bármilyen antenna vagy jeladó mellé helyezni, illetve azokkal együtt használni.
- Ez a készülék megfelel az Industry Canada nem engedélyköteles RSS-szabványainak. A készülék üzemeltetése során az alábbi két feltételnek kell teljesülnie: (1) Ez a termék nem okozhat interferenciát, és (2) a jelen terméknek el kell viselnie minden interferenciát, ideértve a nem kívánt működést eredményező interferenciát is.
- Ez a berendezés megfelel az FCC és az Industry Canada általa nem ellenőrzött környezetre megállapított sugárzási határértékeknek. A berendezés telepítése és működtetése során a sugárzó egység és az emberi test között legalább 20 cm-es távolságot kell tartani.



A Bose Corporation ezennel kijelenti, hogy jelen termék megfelel a rádióberendezésekre és távközlési végberendezésekre vonatkozó 1999/5/EK irányelv és minden más idevonatkozó EU-irányelv alapvető követelményeinek és egyéb rendelkezéseinek. A teljes megfelelőségi nyilatkozat megtalálható a következő címen: [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a terméket nem szabad a háztartási hulladékkel együtt kidobni, hanem egy megfelelő hulladékkezelő létesítményben kell leadni, ahol gondoskodnak a termék újrahasznosításáról. A megfelelő hulladékkezelés és újrahasznosítás hozzájárul a természeti erőforrások, az emberi egészség és a környezet védelméhez. A feleslegessé vált termék kezelésével és újrahasznosításával kapcsolatos további információkért forduljon a helyi önkormányzat hulladékkezeléssel megbízott szolgáltatójához, vagy ahhoz az üzlethez, ahol ezt a terméket vásárolta.

Mérgező vagy veszélyes anyagok és vegyi elemek nevei a termékben						
	Mérgező vagy veszélyes anyagok és elemek					
Alkatrész neve	Ólom (Pb)	Higany (Hg)	Kadmium (Cd)	Hat vegyértékű króm (Cr(VI))	Polibrominált bifenil (PBB)	Polibrominált difeniléter (PBDE)
NYÁK-ok	X	O	O	O	O	O
Fémrészek	X	O	O	O	O	O
Műanyag részek	O	O	O	O	O	O
Hangszórók	X	O	O	O	O	O
Kábelek	X	O	O	O	O	O

Ez a táblázat az SJ/T 11364 előírásainak megfelelően készült.

O: Azt jelzi, hogy az adott mérgező vagy veszélyes anyag mennyisége az adott alkatrész egyetlen homogén anyagában sem éri el a GB/T 26572 által meghatározott határértéket.

X: Azt jelzi, hogy az adott mérgező vagy veszélyes anyagot az alkatrész legalább egy homogén anyaga az GB/T 26572 korlátozó előírásait meghaladó mértékben tartalmazza.

# Jogszabályi megfelelőség

## Feljegyzendő és megőrzendő adatok:

A gyári szám és a típuszám a termék alsó részén található.

Gyári szám: \_\_\_\_\_

Típuszám: \_\_\_\_\_

A vásárlás dátuma: \_\_\_\_\_

A vásárlási bizonylatot érdemes a kezelési útmutató mellett tartani.

Az App Store az Apple Inc. szolgáltatásának jele.

Az Amazon, a Kindle és a Fire az Amazon.com, Inc. vagy leányvállalatainak védjegye.

Az Android és a Google Play a Google, Inc. védjegyei.

A Bluetooth® szóvédjegy és logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képező bejegyzett védjegyek, és a Bose Corporation minden esetben engedéllyel használja őket.



Az iHeartRadio az iHeartMedia, Inc. bejegyzett védjegye.

Az iTunes az Apple Inc. bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban.

A „HDMI” és a „HDMI High-Definition Multimedia Interface” kifejezés és a HDMI logó a HDMI Licensing LLC védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

Ez a termék a Spotify szoftverrel rendelkezik, amelyre külső gyártók alábbi helyen található licencei vonatkoznak: [www.spotify.com/connect/third-party-license](http://www.spotify.com/connect/third-party-license).

A Spotify a Spotify AB bejegyzett védjegye.

A SoundTouch és a vezeték nélküli hangjegy ábrája a Bose Corporation bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban.

A Wi-Fi a Wi-Fi Alliance® védjegye.

A Windows a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

©2015 Bose Corporation. Előzetes írásos engedély nélkül a jelen kiadvány semmilyen része nem sokszorosítható, módosítható, terjeszthető, illetve nem használható fel semmilyen más módon.

## Bevezetés

SoundTouch™ .....	7
A rendszer előnyei .....	7

## SoundTouch™

A SoundTouch™ elérése .....	8
A SoundTouch™-forrás kiválasztása .....	8
A SoundTouch™ forrásképernyő használata .....	9
Funkció .....	9
Az előbeállítások használata .....	10
Fontos tudnivalók .....	10
Előbeállítás lejátszása .....	10
Előbeállítás megadása .....	10
A korábban lejátszott tartalom megkeresése .....	11

## Bluetooth®

A Bluetooth® elérése .....	12
A Bluetooth®-forrás kiválasztása .....	12
A Bluetooth® forrásképernyő használata .....	13
A rendszer Bluetooth® párosítási listájának törlése .....	13

## A rendszer vezérlése az alkalmazással

A SoundTouch™ alkalmazás használata .....	14
Segítség .....	14
A rendszer vezérlése egy másik okostelefonról, táblagépről vagy számítógépről .....	14

## Speciális funkciók

Vezérlőgomb .....	15
Wi-Fi® állapotjelző .....	15
Wi-Fi® kapcsolat letiltása .....	15
A Wi-Fi® újbóli engedélyezése .....	15
Az adapter alaphelyzetbe állítása .....	16

# Tartalom

---

## Ápolás és karbantartás

Hibaelhárítás .....	17
Wi-Fi® hálózat hozzáadása .....	18
Tisztítás .....	18
Ügyfélszolgálat .....	18
Korlátozott garancia .....	18
Műszaki adatok .....	18

## „A” függelék: A SoundTouch™ beállítása

Beállítás a SoundTouch™ alkalmazás használatával .....	19
A beállítási mód aktiválása az adapteren .....	19
A rendszer hozzáadása egy meglévő SoundTouch™-fiókhöz .....	19
A SoundTouch™ alkalmazás letöltése és telepítése .....	19
A rendszer csatlakoztatása az otthoni Wi-Fi® hálózathoz .....	19

## „B” függelék: A vezeték nélküli adapter felszerelése a falra

Az adapter felszerelése .....	20
Felszerelési lehetőségek .....	20
Az adapter felszerelése .....	20

## SoundTouch™

A SoundTouch™ vezeték nélküli hangrendszerrel a teljes helyiséget betöltő, tiszta hangzással szólaltathatja meg az otthoni Wi-Fi hálózatán átvitt zenéket.

A SoundTouch™ hangrendszer lehetővé teszi az internethoz való csatlakozást, a zenei szolgáltatások és a saját zenetár tartalmának vezeték nélküli sugárzását.

Ha otthonában rendelkezik Wi-Fi® kapcsolattal és SoundTouch™-kompatibilis zenei rendszerrel, akkor tetszése szerint bármelyik szobában hallgathatja a kedvenc zeneszámait. A beállítási információkért tekintse meg a rendszer kezelési útmutatóját.

**Megjegyzés:** Ha az adaptert kiegészítőként vásárolta meg, az üzembe helyezési információkért tekintse meg a gyors üzembe helyezési utasításokat.

### A rendszer előnyei

- Lehetővé teszi, hogy a Bose szórakoztató rendszerével vezeték nélküli játsszon le zenét a SoundTouch™ segítségével.
- Az internethoz való csatlakozást, a zenei szolgáltatásokat és zenetárának tartalmát vezeték nélküli is elérheti.
- A SoundTouch™-forrás hozzáadásával a tévén megtekintheti és vezérelheti az előbeállításokat, az előzményeket és az éppen lejátszott tartalmat.
- Az ingyenes SoundTouch™ alkalmazással számítógépről, okostelefonjáról vagy táblagépről böngészhet az internethoz való csatlakozást, a zenei szolgáltatások és a zenetár tartalmában.
- Legfeljebb hat előre beállított előbeállítás testre szabásával a távvezérlő megérzékelésével lejátszhatja a zenét.
- Vezeték nélküli üzembe helyezés okostelefon vagy táblagép használatával.
- A rendszer a meglévő otthoni Wi-Fi hálózattal használható.
- Zenehallgatás a Bluetooth® funkciót támogató eszközökről.
- A többszobás zenehallgatási élmény biztosításához a rendszer bármikor egyszerűen bővíthető.
- A Bose® hangrendszer széles választékából kiválaszthatja az adott szobának legmegfelelőbb megoldását.

## A SoundTouch™ elérése

A SoundTouch™ a szórakoztató rendszer SOURCE (FORRÁS) menüpárból vagy a SoundTouch™ alkalmazásból érhető el.

- SoundTouch™-forrás: A SoundTouch™ funkciók alkészletét kínálja, melyekkel lejátszhatja az előzményeket és személyre szabhatja az előbeállításokat.
- SoundTouch™ alkalmazás: A SoundTouch™ teljes körű vezérlését teszi lehetővé, ideérte a rendszerbeállítások kezelését, az internetes rádióállomások felfedezését, az előbeállítások megadását és módosítását, zene lejátszását a rendszeren, a lejátszott zeneszám megtakarítását és még sok minden mást.

## A SoundTouch™-forrás kiválasztása

A SoundTouch™-forrás segítségével vezérelheti az előbeállításokat, az előzményeket és az aktuálisan lejátszott tartalmat a rendszer távvezérlője segítségével.

1. Kapcsolja be a rendszert.
2. Nyomja meg a **SOURCE** gombot a távvezérlőn.

Megjelenik a SOURCE (FORRÁS) menü.



**Tip:** A vezérlőkonzol SOURCE (FORRÁS) gombját is megnyomhatja.


3. Válassza a SoundTouch™ lehetőséget.

# A SoundTouch™ forrásképernyő használata

A távvezérlő segítségével a forrás képernyőjén hozzáférhet a SoundTouch™ funkciók adott alkészetéhez.

## Funkció

- Előbeállítások személyre szabása és lejátszása (10. oldal).
- Előzmények lejátszása (11. oldal).
- A LEJÁTSZÁS panel rendelkezésre álló előadó-információinak megtekintése.
- Lejátszás vezérlése (lejátszás, szünet, leállítás, ugrás a következő számra stb.).
- A LEJÁTSZÁS panelen látható tartalom zenei forrásának megtekintése.



A SoundTouch™ rendszer részletes vezérlési lehetőségeivel kapcsolatban lásd:  
„A SoundTouch™ alkalmazás használata”, 14. oldal.

## Az előbeállítások használata

---

Kedvenc zenei szolgáltatásaihoz, csatornáihoz, zenei listáihoz, előadóihoz, albumaihoz és a zenetában lévő zeneszámaihoz hat előbeállítást hozhat létre. A számítógépén, okostelefonján, táblagépén, illetve a szórakoztató rendszerén, illetve a SoundTouch™-forráson lévő SoundTouch™ alkalmazás segítségével bármikor hozzáérhet zenei anyagaihoz.

### Fontos tudnivalók

- Az előbeállításokat az alkalmazásból és a szórakoztató rendszerből is beállíthatja.
- Ha az előbeállítást tartalmazó programhely forrása az iTunes vagy a Windows Media Player zenetár, győződjön meg róla, hogy a zenetárat tartalmazó számítógép be van kapcsolva, és ugyanahoz a hálózathoz csatlakozik, mint a SoundTouch™ rendszer.

## Előbeállítás lejátszása

---

Miután személyre szabta az előbeállításokat, a távvezérlővel vagy az alkalmazásban válasszon ki egyet a lejátszáshoz.

**Megjegyzés:** Ha a zene nem játszható le, lásd: „Előbeállítás megadása”.

## Előbeállítás megadása

---

1. Az alkalmazás vagy a SoundTouch™-forrás segítségével játssza le a zenét a szórakoztató rendszerén.
2. A zenelejátszás közben nyomja meg és tartsa lenyomva valamelyik előbeállítás gombját a távvezérlőn (körülbelül 2 másodpercig).

**Megjegyzés:** Ha bővebb információt szeretne kapni arról, hogyan használhatja a SoundTouch™ alkalmazást az előbeállítások rögzítésére és módosítására, olvassa el az alkalmazás súgóját.

# A korábban lejátszott tartalom megkeresése

Az Előzmények listán az 50 legutoljára lejátszott SoundTouch™ elem jelenik meg.

- Válassza a **Tovább az előzményekhez** lehetőséget.

Tovább az  
előzményekhez



Megjelenik az ELŐZMÉNYEK panel.

Utoljára  
lejátszott  
tartalom



- Válasszon ki egy elemet.


### **A Bluetooth® elérése**

A Bluetooth a szórakoztató rendszer SOURCE (FORRÁS) menüjéből vagy a SoundTouch™ alkalmazásból érhető el.

#### **A Bluetooth®-forrás kiválasztása**

A Bluetooth-forrás lehetővé teszi, hogy a rendszer távvezérlőjével párosítsa és vezérelje a Bluetooth funkciót támogató készülékeit.

1. Kapcsolja be a rendszert.
2. Nyomja meg a **SOURCE** gombot a távvezérlőn.



**Tip:** A vezérlőkonzol SOURCE (FORRÁS) gombját is megnyomhatja.


3. Válassza a **Bluetooth®** lehetőséget.

## A Bluetooth® forrásképernyő használata

A távvezérlő segítségével a forrás képernyőjén hozzáférhet a Bluetooth funkciók adott alkészsletéhez.

### Funkció

- Bluetooth-kompatibilis eszközök párosítása és csatlakoztatása.
- A LEJÁTSZÁS panel rendelkezésre álló előadó-információinak megtekintése.
- A csatlakoztatott eszközök megtekintése.
- Lejátszás vezérlése (lejátszás, szünet, leállítás, ugrás a következő számra stb.).
- A párosítási lista tartalmának törlése.



## A rendszer Bluetooth® párosítási listájának törlése

Amikor a rendszerhez Bluetooth funkciót támogató eszközt párosít, a kapcsolat felkerül a rendszer párosítási listájára. Ha egy adott eszközökhez nem sikerül kapcsolódni, lehet, hogy törölni kell a párosítási lista tartalmát. Miután törölte a listát, a korábban párosított eszközöket ismét párosítania kell.

**1.** Nyomja meg a távvezérlő  gombját.

**2.** Válassza a  gombot.

A kijelzőn megjelenik egy üzenet, amely a párosítási lista tartalmának törléséről tájékoztat.

A rendszer készen áll egy másik eszköz párosítására.

# A rendszer vezérlése az alkalmazással

## A SoundTouch™ alkalmazás használata

A SoundTouch™ alkalmazás segítségével a SoundTouch™-forrást számítógépről, okostelefonról vagy táblagépről is vezérelheti. Az alkalmazás lehetővé teszi, hogy eszközét a SoundTouch™ rendszer kibővített távezérőjeként használja.

Az alkalmazással kezelheti a SoundTouch™ beállításait, hozzáadhat zenei szolgáltatásokat, tallózhat a helyi és a nemzetközi internetes rádióállomások között, beállíthatja és módosíthatja az előbeállításokat, továbbíthatja a rendszerre és lejátszhatja a zenét, megtekintheti az éppen lejátszott számot és még számos egyéb műveletet hajthat végre.

Miután csatlakoztatta a rendszert a hálózathoz a SoundTouch™ alkalmazással, készen áll a zenelejátszásra és az előbeállítások egyéni rögzítésére.

### Segítség

#### [SoundTouch.com](#)

A tulajdonostárogatási központhoz biztosít hozzáférést, így többek között a kezelői útmutatókhoz, cikkekhez, tippekhez, oktatóanyagokhoz és a videókönyvtárhoz, valamint a tulajdonosok közösségi központjához, ahol választ kaphat kérdéseire.

1. Nyisson meg egy böngészőt.
2. A címmezőbe írja be a következőt: SoundTouch.com.

### Alkalmazás súgója

A SoundTouch™ használatával kapcsolatos súgócikkeket tartalmazza.



1. Az alkalmazás megnyitásához az eszközön válassza a gombot az eszközön.
2. A FELFEDEZÉS panelen válassza a SÚGÓ lehetőséget.

## A rendszer vezérlése egy másik okostelefonról, táblagépről vagy számítógépről


Ha beállította a SoundTouch™ rendszert az otthoni Wi-Fi® hálózaton, a rendszert az adott hálózaton lévő bármely okostelefonról, táblagépről vagy számítógépről vezérelheti.

1. Csatlakoztassa az eszközt a hálózathoz, amelyikhez a rendszer is csatlakozik.
2. Töltsen le és telepítse a SoundTouch™ alkalmazást az eszközre:
  - Az iOS-felhasználók az App Store áruházból tölthetik le az alkalmazást.
  - Az Android™-felhasználók a Google Play™ áruházból tölthetik le az alkalmazást.
  - Amazon Kindle Fire-felhasználók: az Amazon Appstore for Android webáruházból tölthetik le az alkalmazást.
  - Ha számítógépet használ, nyisson meg egy böngészőt, és látogasson el az alábbi webhelyre:

[SoundTouch.com/app](#)

## Vezérlőgomb

A SoundTouch™ vezeték nélküli adapter speciális funkciókat kínál. Ehhez tartsa lenyomva a vezérlőgombot.



## Wi-Fi® állapotjelző

Az adapter hátoldalán lévő Wi-Fi állapotjelző a Wi-Fi kapcsolat állapotát mutatja.

Állapotjelző működése	Rendszerállapot
Villogó fehér fény	Csatlakozás a Wi-Fi hálózathoz
Folyamatos fehér fény	A rendszer be van kapcsolva, és a Wi-Fi hálózathoz csatlakozik
Borostyán színnel világít	A rendszer beállítási módban van
Lassan villogó borostyánszínű fény	Lekapcsolódva a Wi-Fi hálózatról
Gyorsan villogó borostyánszínű fény	Firmware-hiba - hívja a Bose-szervizt
Nem világít	A Wi-Fi hálózati kapcsolat letiltva, vagy a rendszer Ethernet-hálózathoz csatlakozik

## Wi-Fi® kapcsolat letiltása

A Wi-Fi letiltásával a Bluetooth® funkció is letiltódik.

- Kapcsolja be a házimozirendszert.
- Tartsa lenyomva (8–10 másodpercig) az adapter vezérlőgombját.
- Amikor a Wi-Fi állapotjelző kikapcsol, engedje fel a vezérlőgombot.

## A Wi-Fi® újból engedélyezése

A Wi-Fi újból engedélyezésékor a Bluetooth® funkció is engedélyezetté válik.

- Kapcsolja be a házimozirendszert.
- Nyomja meg az adapter vezérlőgombját.

### Az adapter alaphelyzetbe állítása

---

A gyári beállítások visszaállítása törli a rendszer összes forrás- és hálózati beállítását, és visszaállítja a rendszer gyári beállításait.

**Megjegyzés:** Ez a visszaállítás a SoundTouch™ előbeállításokat és a mentett hálózati adatokat is törli.

1. Kapcsolja be a házimozirendszeret.
2. Húzza ki a Bose® link kábelt.
3. A kábel leválasztása közben tartsa nyomva a vezérlőgombot.
4. Indítsa el a SoundTouch™ alkalmazást a számítógépen, majd adja hozzá a rendszert a hálózathoz.

# Hibaelhárítás

Probléma	Teendő
A hálózatbeállítást nem sikerült elvégezni, vagy az adapter nem észlelhető	<ul style="list-style-type: none"> <li>Csatlakoztassa a SoundTouch™ vezeték nélküli adaptort a vezérlőkonzol Bose link jelzésű aljzatához.</li> <li>Az USB-kábelt dugja be a vezeték nélküli adapterbe és a vezérlőkonzolba. A rendszer helyes működése érdekében ezt a kábelt nem szabad kihúzni.</li> <li>Csatlakoztassa a rendszert az elektromos hálózathoz.</li> <li>Válassza ki a megfelelő hálózatnevet, és írja be a jelszót.</li> <li>A készüléket és a SoundTouch™ rendszert ugyanahhoz a Wi-Fi® hálózathoz csatlakoztassa.</li> <li>Helyezze a vezeték nélküli adaptort az útválasztó hatósugarába.</li> <li>Engedélyezze a Wi-Fi használatát azon a készüléken (mobilkészüléken vagy számítógépen), amelyet az üzembe helyezéshez használ.</li> <li>Zárja be a többi nyitott alkalmazást.</li> <li>Ha az üzembe helyezéshez számítógépet használ, a tűzfal beállításai között ellenőrizze, hogy a SoundTouch™ alkalmazás és a SoundTouch™ zenei kiszolgáló az engedélyezett programok között van-e.</li> <li>A <a href="http://www.SoundTouch.com">www.SoundTouch.com</a> webhely betöltésével tesztelje az internetkapcsolatot.</li> <li>Indítsa újra a mobilkészüléket vagy a számítógépet és az útválasztót.</li> <li>Indítsa újra a SoundTouch™ rendszert (tekintse meg az alkalmazás súgóját).</li> <li>Távolítsa el az alkalmazást, állítsa vissza a rendszer alapbeállításait, és kezdje el előlről az üzembe helyezést.</li> <li>Ha a hálózat rejtett, szüntesse meg a rejtettségét, és fejezze be a telepítést.</li> </ul>
Nem lehet kapcsolódni a hálózathoz	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ha a hálózat megváltozott, vagy ha másik hálózathoz szeretné csatlakoztatni a rendszert, tekintse meg az alkalmazás súgóját.</li> <li>Csatlakozzon a hálózathoz Ethernet-kábellel.</li> </ul>
A SoundTouch™ vagy a Bluetooth® elnevezés nem látható a forrásmenüben	<ul style="list-style-type: none"> <li>A vezérlőkonzol frissítése. Tekintse meg a szórakoztató rendszer kezelési útmutatóját.</li> <li>A Bose® link kábelt és az USB-kábelt teljesen dugja be a vezeték nélküli adapterbe és a vezérlőkonzolba. A rendszer helyes működése érdekében ezeket a kábeleket nem szabad kihúzni.</li> <li>Végezze el a SoundTouch™ beállítását. Lásd: 19. oldal.</li> </ul>
Nem játszható le Bluetooth®-audió	<p>A rendszeren:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Párosítson egy eszközt a Bluetooth SOURCE képernyőjén (13. oldal).</li> <li>Próbáljon egy másik eszközt párosítani.</li> <li>Lásd a rendszer kezelési útmutatójának „Nincs hang” fejezetét.</li> <li>Először állítsa be a SoundTouch™ alkalmazást, majd végezze el a rendszerfrissítéseket.</li> <li>Törölje a rendszer párosítási listájának tartalmát (13. oldal).</li> </ul> <p>A mobiles közön:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tiltsa le és engedélyezze újra a Bluetooth funkciót.</li> <li>Távolítsa el a hangszórót a Bluetooth menüből. Végezze el ismét a párosítást.</li> <li>Tekintse meg a Bluetooth-kompatibilis eszköz dokumentációját.</li> </ul>

# Ápolás és karbantartás

---

## Wi-Fi® hálózat hozzáadása

---

A hálózati adatok változása vagy másik hálózathoz történő csatlakozás esetén adja meg az új hálózati adatokat a szórakoztató rendszer UNIFY® menüjének hálózatbeállítási szakaszában.

1. Kapcsolja be a házimozirendszt.
2. A vezérlőkonzol gombsávján nyomja meg a **Setup** (Beállítás) gombot.  
Megjelenik a UNIFY menü.
3. Válassza a **Network Setup** (Hálózatbeállítás) lehetőséget.
4. A hálózat módosításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

## Tisztítás

---

A SoundTouch™ vezeték nélküli adapter burkolatát puha, száraz ruhával tisztítsa.

- Ne használjon oldószert, vegyszert és porlasztott folyadékot (sprayt).
- Ügyeljen arra, hogy semmilyen nyílásba ne kerüljön folyadék vagy valamelyen tárgy.

## Ügyfélszolgálat

---

A rendszer használatával kapcsolatos további információk:

- SoundTouch.com.
- Forduljon a Bose® ügyfélszolgálatához. Nézze meg a dobozban található elérhetőségi listát.

## Korlátozott garancia

---

A SoundTouch™ vezeték nélküli adapterre korlátozott garancia vonatkozik.

A korlátozott garancia részleteit a dobozban lévő Fontos biztonsági utasítások című lap tartalmazza. A regisztrálásra vonatkozó információkat a Fontos biztonsági utasítások című lap tartalmazza. Ennek elmulasztása azonban nem érinti a korlátozott garanciából fakadó jogait.

A termékhez mellékelt garanciális útmutatót szereplő feltételek Ausztráliában és Új-Zélandon nem érvényesek. Az Ausztráliában és Új-Zélandon érvényes garanciával kapcsolatos részletes tudnivalókért keresse fel webhelyünket a [www.Bose.com.au/warranty](http://www.Bose.com.au/warranty) vagy a [www.Bose.co.nz/warranty](http://www.Bose.co.nz/warranty) címen.

## Műszaki adatok

---

<b>Méret:</b>	5,1 cm x 6,4 cm x 23,8 cm (ma. x szé. x mé.)
<b>Tömeg:</b>	0,34 kg

## Beállítás a SoundTouch™ alkalmazás használatával

Ha a UNIFY® segítségével nem tudja elvégezni a hálózat beállítását, vagy ha a beállítást nem fejezte be a SoundTouch™ alkalmazás használatával, töltse le és telepítse a Bose® SoundTouch™ vezérlőalkalmazást a hálózathoz csatlakozó valamelyik okostelefonra, táblagépre vagy számítógépre. Az alkalmazás végigvezeti a rendszer hálózati csatlakoztatásának folyamatán.

### A beállítási mód aktiválása az adapteren

1. Nyomja meg és tartsa 1–8 másodpercig lenyomva a SoundTouch™ vezeték nélküli adapter háttoldalán lévő vezérlőgombot.
2. Amikor a borostyán színű Wi-Fi® állapotjelző villog, engedje fel a vezérlőgombot. A Wi-Fi állapotjelző folyamatos borostyán színre vált.

### A rendszer hozzáadása egy meglévő SoundTouch™-fiókhoz

Ha egy másik rendszerhez már beállította a SoundTouch™-eszközt, akkor nem kell újra letöltenie a SoundTouch™ alkalmazást.

1. Az alkalmazás elindításához válassza ki a SoundTouch™ ikont  az okostelefonon vagy a táblagépen.
2. Egy másik rendszer hozzáadásához válassza a **FELFEDEZÉS > BEÁLLÍTÁSOK > Rendszerek > RENDSZER HOZZÁADÁSA** lehetőséget.

Az alkalmazás végigvezeti Önt a telepítés folyamatán.

### A SoundTouch™ alkalmazás letöltése és telepítése

Töltsé le a **SoundTouch™ vezérlőalkalmazást** az okostelefonra, a táblagépre vagy a számítógépre.



Bose® SoundTouch™  
controller app

- Az iOS-felhasználók az App Store áruházból tölthetik le az alkalmazást.
- Az Android™-felhasználók a Google Play™ áruházból tölthetik le az alkalmazást.
- Amazon Kindle Fire-felhasználók: az Amazon Appstore for Android webáruházból tölthetik le az alkalmazást.
- Ha számítógépet használ, nyisson meg egy böngészőt, és látogasson el az alábbi webhelyre:

[SoundTouch.com/app](http://SoundTouch.com/app)

### A rendszer csatlakoztatása az otthoni Wi-Fi® hálózathoz

Miután telepítette az alkalmazást, adja hozzá a rendszert a hálózathoz:

1. Az alkalmazás indításához az okostelefonon, a táblagépen vagy a számítógépen válassza a  ikont.  
Az alkalmazás végigvezeti a rendszer csatlakoztatásának folyamatán a Wi-Fi hálózathoz.
2. Kövesse az alkalmazás utasításait a beállítások végrehajtásához, beleértve a SoundTouch™-fiók létrehozását, valamint a zenetár és a zenei szolgáltatások hozzáadását.

## „B” függelék: A vezeték nélküli adapter felszerelése a falra

### Az adapter felszerelése

Az adapter falra is szerelhető (a rögzítéshez szükséges eszközök nincsenek mellékelve). Ha a rögzítéshez szükséges eszközökhoz tartozó utasítások eltérnek az itt ismertetett utasításoktól, akkor a rögzítőeszközökhez mellékelt utasításokat kövesse.

Az alábbi táblázat a rögzítőeszközök jellemzőit ismerteti.

Tétel	Fa	Falkarton
<b>Falvastagság</b>	$\frac{3}{4}$ " (19 mm) vagy vastagabb	$\frac{3}{8}$ " (9,5 mm) vagy vastagabb
<b>Fúrófej</b>	$\frac{1}{8}$ " (3 mm)	$\frac{3}{16}$ " (4,5 mm)
<b>Kúpfejű facsavar (2)</b>	8-as sz. x $1\frac{1}{4}$ " (32 mm)	8-as sz. x $1\frac{1}{4}$ " (32 mm)
<b>Műanyag dübel (2)</b>	Nem szükséges	6-os sz. 8 x 1" (25 mm)


### Felszerelési lehetőségek

Az adapter kétféleképpen szerelhető fel:

- Függőlegesen: a csatlakozópanel balra néz.
- Vízszintesen: a csatlakozópanel felfelé néz.

### Az adapter felszerelése

1. Fúrjon két lyukat egymástól 159 mm távolságra.



2. Helyezze be a műanyag dübeleket (gipszkarton falra történő felszerelés esetén).
  3. Hajtsa be a kúpfejű facsavarokat.
- Megjegyzés:** A csavarfejek 6,35 mm-re álljanak ki a fal felületéből.
4. Helyezze az adaptort a csavarokra.



# Viktige sikkerhetsinstruksjoner

---

Bruk tid på å lese nøye gjennom og følge de viktige sikkerhetsinstruksjonene i veiledningen.

 Lynet med pilhodesymbolet i en likesidet trekant, varsler brukeren om at det finnes uisolert, farlig spenning i systemkabinetten som kan være kraftig nok til å utgjøre en risiko for elektrisk støt.

 Utrøstegnet i en likesidet trekant, som markert på systemet, varsler brukeren om at det finnes viktige drifts-/vedlikeholdsinstruksjoner i brukerhåndboken.



## FORSIKTIG:

- Ikke gjør noen endringer i systemet eller tilbehøret.
  - Uautoriserte endringer kan utgjøre en fare for sikkerheten, overholdelse av gjeldende forskrifter og systemets ytelse.
- 



## ADVARSLER:

- For å redusere faren for brann eller elektrisk støt må produktet ikke utsettes for regn eller fuktighet.
  - Ikke utsett dette apparatet for drøpp eller sprut, og ikke plasser gjenstander fylt med væske, for eksempel vaser, på eller nær apparatet. Som med alle elektroniske produkter må du passe på at det aldri kommer væske inn i noen del av produktet. Eksposering for væsker kan føre til funksjonsfeil og/eller branngjæring.
  - Ikke plasser kilder til bar ild, for eksempel tente stearinlys, på eller nær produktet.
- 

1. Les disse instruksjonene.
2. Oppbevar disse instruksjonene.
3. Følg alle advarsler.
4. Følg alle instruksjoner.
5. Ikke bruk apparatet i eller nær vann.
6. Rengjør bare med en ren klut.
7. Ikke blokker noen av ventilasjonsåpningene. Plasser i henhold til produsentens instruksjoner.
8. Ikke plasser i nærheten av varmekilder, for eksempel radiatorer, varmeapparater, ovner eller andre apparater (herunder forsterkere) som produserer varme.
9. Bruk kun tilbehør/utstyr som er spesifisert av produsenten.
10. Overlat all til kvalifisert personell. Service er nødvendig når apparatet har blitt skadet, for eksempel at ledningen eller kontakten til strømforsyningen er skadet, væske har blitt sølt på eller gjenstander har falt inn i apparatet, apparatet har blitt utsatt for regn eller fuktighet, apparatet fungerer ikke slik det skal eller det har blitt sluppet ned.

## MERKNADER:

- Produktetiketten er plassert på undersiden av produktet.
- Produktet må bare brukes innendørs. Det er verken utformet for eller testet for utendørs bruk, i fritidskjøretøy eller på båter.

## Viktig informasjon om samsvar

**Merk:** Dette utstyret er testet og funnet å overholde grenseverdiene for digitale utstyrseenheter av klasse B, som beskrevet i del 15 av FCC-regelverket. Disse grenseverdiene er beregnet på å sikre rimelig beskyttelse mot skadelig radioforstyrrelse ved installasjon i boligmiljø. Utstyret genererer, bruker og kan avggi radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres og brukes i overensstemmelse med instruksene, kan utstyret forårsake skadelig forstyrrelse av radiokommunikasjon. Det kan likevel ikke garanteres at slik forstyrrelse ikke vil kunne oppstå ved en gitt installasjon. Dersom dette utstyret skulle forårsake skadelig forstyrrelse for radio- eller TV-mottak, hvilket kan avgjøres ved å slå utstyret av og på igjen, oppfordres brukeren til å søke å avhjelpe forstyrrelsen med ett eller flere av følgende tiltak:

- Flytte mottakerantennen, eller orientere den annerledes.
- Øke avstanden mellom utstyret og radio- eller TV-mottakeren.
- Koble utstyret til en annen elektrisk krets enn den som radio- eller TV-mottakeren er tilkoblet.
- Ta kontakt med forhandleren eller en erfaren radio/TV-installatør for hjelp.

# Viktige sikkerhetsinstruksjoner

## FCC-ADVARSEL

Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av Bose Corporation, kan frata brukeren retten til å bruke utstyret.

## I USA og Canada

Dette utstyret overholder del 15 av FCC-regelverket. Bruk av enheten er underlagt følgende to betingelser:

- (1) Dette utstyret skal ikke forårsake skadelig interferens, og
- (2) dette utstyret skal akseptere all mottatt interferens, herunder interferens som kan føre til uønsket virkemåte for utstyret.

Dette klasse B-apparatet samsvarer med kanadiske ICES-003 / CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B).

Dette utstyret samsvarer med radiostrålingsgrensene i FCC og Industry Canada RF som er angitt for den generelle befolkningen.

- Utstyret må ikke plasseres på samme sted eller brukes i forbindelse med andre antenner eller sendere.
- Utstyret overholder Industry Canada-lisensunntak (RSS-standard(er)). Bruk av enheten er underlagt følgende to betingelser: (1) Dette utstyret skal ikke forårsake interferens, og (2) dette utstyret skal akseptere all interferens, herunder interferens som kan føre til uønsket virkemåte for utstyret.
- Dette utstyret samsvarer med radiostrålingsgrensene i FCC og Industry Canada som er angitt for ukontrollerte omgivelser. Utstyret må monteres og bruke med en minimumsavstand på 20 cm (8 tommer) mellom radiatoren og kroppen.



Bose Corporation erklærer herved at dette produktet er i samsvar med grunnleggende og andre relevante krav i henhold til direktiv 1999/5/EC og alle andre gjeldende krav i EU-direktiver. En fullstendig samsvarserklæring finner du på [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)



Dette symbolet betyr at produktet ikke må kasseres som husholdningsavfall, og at det skal leveres til en passende innsamlingsanlegg for gjenvinning. Riktig håndtering og gjenvinning bidrar til å beskytte naturressurser, helse og miljø. Hvis du vil ha mer informasjon om avhending og resirkulering av dette produktet, kan du kontakte kommunen, renovasjonstjenesten eller butikken der du kjøpte dette produktet.

Navn på og innhold i giftige eller skadelige stoffer eller bestanddeler						
	Giftige eller skadelige stoffer eller bestanddeler					
Delenavn	Bly (Pb)	Kvikksølv (Hg)	Kadmium (Cd)	Heksavalent (Cr(VI))	Polybromerte bifenyler (PBB)	Polybromerte difenylettere (PBDE)
PCBer	X	O	O	O	O	O
Metalldeler	X	O	O	O	O	O
Plastikkdeler	O	O	O	O	O	O
Høytalere	X	O	O	O	O	O
Kabler	X	O	O	O	O	O

Denne tabellen er klargjort i henhold til krav i SJ/T 11364.

O: Angir at dette giftige eller farlige stoffet som finnes i alle de homogene materialene i denne delen, er under grensekravene i GB/T 26572.

X: Angir at dette giftige eller farlige stoffet som finnes i minst én av de homogene materialene i denne delen, er under grensekravene i GB/T 26572

# Informasjon om regelverk

## Fyll ut og oppbevar for senere bruk:

Serie- og modellnummer er plassert på undersiden av systemet.

Serienummer: \_\_\_\_\_

Modellnummer: \_\_\_\_\_

Kjøpsdato: \_\_\_\_\_

Vi foreslår at du oppbevarer kvitteringen sammen med brukerhåndboken

App Store er et tjenestemerke for Apple, Inc.

Amazon, Kindle og Fire er varemerker som tilhører Amazon.com, Inc. eller dets datterselskaper.

Android og Google Play er varemerker for Google, Inc.

Navnet Bluetooth® og logoene er registrerte varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc. All Bose Corporations bruk av disse varemerkene er på lisens.



iHeartRadio er et registrert varemerke for iHeartMedia, Inc.

iTunes er et varemerke som tilhører Apple Inc. og er registrert i USA og andre land.

HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface og HDMI-logoen er varemerker eller registrerte varemerker for HDMI Licensing LLC i USA og andre land.

Dette produktet har innebygd Spotify-programvare som er underlagt tredjepartslisens som finnes her: [www.spotify.com/connect/third-party-license](http://www.spotify.com/connect/third-party-license)

Spotify er et registrert varemerke som tilhører Spotify AB.

SoundTouch og designen med den trådløse noten er varemerker for Bose Corporation i USA og andre land.

Wi-Fi er et registrert varemerke for Wi-Fi Alliance®.

Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og andre land.

©2015 Bose Corporation. Ingen del av dette produktet kan reproduseres, endres, distribueres eller brukes på annen måte uten å ha innhentet skriftlig tillatelse på forhånd.

**Innføring**

SoundTouch™ .....	7
Fordeler med systemet .....	7

**SoundTouch™**

Tilgang til SoundTouch™ .....	8
Velge SoundTouch™-kilden.....	8
Bruke skjermbildet for SoundTouch™-kilden .....	9
Dette kan du gjøre.....	9
Slik fungerer forhåndsinnstillinger.....	10
Hva du trenger å vite .....	10
Spille fra en forhåndsinnstilling .....	10
Angi en forhåndsinnstilling.....	10
Finne nylig avspilt innhold .....	11

**Bluetooth®**

Tilgang til Bluetooth® .....	12
Velge Bluetooth®-kilden.....	12
Bruke skjermbildet for Bluetooth®-kilde.....	13
Nullstiller sammenkoblingslisten for Bluetooth® .....	13

**Styre systemet med appen**

Ved hjelp av SoundTouch™-appen .....	14
Få hjelp .....	14
Styre systemet fra smarttelefon, nettbrett eller datamaskin .....	14

**Avanserte funksjoner**

Control-knapp .....	15
Wi-Fi®-indikator.....	15
Deaktivere Wi-Fi®-funksjonen .....	15
Aktivere Wi-Fi®-funksjonen.....	15
Tilbakestille adapteren.....	16

# Innhold

---

## Stell og vedlikehold

Feilsøking .....	17
Legge til et Wi-Fi®-nettverk.....	18
Rengjøring .....	18
Kundeservice.....	18
Begrenset garanti.....	18
Teknisk informasjon .....	18

## Vedlegg A: Konfigurere SoundTouch™

Konfigurere med SoundTouch™-appen.....	19
Aktivere konfigurasjonsmodus på adapteren .....	19
Legge systemet til en eksisterende SoundTouch™-konto .....	19
Laste ned og installere SoundTouch™-appen.....	19
Koble systemet til Wi-Fi®-hjemmenettverket ditt.....	19

## Vedlegg B: Feste den trådløse adapteren

Feste adapteren .....	20
Festearternativer .....	20
Slik fester du adapteren.....	20

## SoundTouch™

---

Det trådløse SoundTouch™-musikkssystemet gir klar lyd med god romklang direkteavspilt trådløst via ditt Wi-Fi-hjemmenettverk. Med SoundTouch™ kan du strømme Internett-radio, musikktjenester og musikkbiblioteket ditt med et enkelt tastetrykk.

Hvis du har Wi-Fi® hjemme og et SoundTouch™-kompatibelt underholdningssystem, er du klar til å høre på favorittmusikken din i alle rom i huset. Se i brukerveiledningen for systemet for instruksjoner om konfigurasjonen.

**Merk:** Hvis du kjøpte adapteren som et tilbehør, kan du se hurtigstartveiledningen for instruksjoner om konfigurasjonen.

### Fordeler med systemet

- Lar Bose-underholdningssystemet strømme musikk trådløst ved hjelp av SoundTouch™.
- Få trådløs tilgang til Internett-radio, musikktjenester og musikkbiblioteket ditt.
- Når du legger til SoundTouch™-kilden, kan du vise og styre forhåndsinnstillinger, sist brukte og Spilles nå-innholdet på TVen.
- Med den gratis SoundTouch™-appen kan du utforske Internett-radio, musikktjenester og musikkbiblioteket ditt fra datamaskinen, smarttelefonen eller nettbrettet.
- Tilpass opptil seks forhåndsinnstillinger for å spille av musikken din med bare ett trykk på fjernkontrollen.
- Trådløst oppsett med smarttelefonen eller nettbrettet.
- Fungerer med ditt eksisterende Wi-Fi-hjemmenettverk.
- Strømme musikk fra Bluetooth®-kompatible enheter.
- Bare legg til flere anlegg når du måtte ønske, for å høre musikk i flere rom.
- Et stort utvalg av lydsystemer fra Bose® gjør at du kan velge riktig løsning for hvert rom.

# SoundTouch™

## Tilgang til SoundTouch™

Du får tilgang til SoundTouch™ via KILDE-menyen på underholdningssystemet eller via SoundTouch™-appen.

- SoundTouch™-kilde: Har et delsett av SoundTouch™-funksjonene som lar deg spille av sist brukte og tilpassé forhåndsinnstillinger.
- SoundTouch™-appen: Gir full kontroll over SoundTouch™, og lar deg behandle systeminnstillingar, utforske radiostasjoner på Internett, stille inn og endre forhåndsinnstillingar, strømme musikk til systemet, se hva som spilles av, og mye mer.

## Velge SoundTouch™-kilden

SoundTouch™-kilden lar deg styre forhåndsinnstillingar, sist brukte og Spilles nå-innholdet ved hjelp av fjernkontrollen for systemet.

1. Slå på systemet.
2. Trykk **SOURCE** -knappen på fjernkontrollen.  
KILDE-menyen vises.



**Tips:** Du kan også trykke SOURCE-knappen på kontrollkonsollen.


3. Velg **SoundTouch™**.

# Bruke skjermbildet for SoundTouch™-kilden

Ved hjelp av fjernkontrollen får du tilgang til et delsett av SoundTouch™-funksjoner fra kildeskjermbildet.

## Dette kan du gjøre

- Tilpasse og spille av forhåndsinnstillinger (side 10).
- Spill av sist brukte (side 11).
- Vis tilgjengelig artistinformasjon i NOW PLAYING-panelet (SPILLES NÅ).
- Styrer avspilling (spille av, pause, stoppe eller hoppe til neste spor og så videre).
- Vis musikkilden for innholdet i NOW PLAYING-panelet (SPILLES NÅ).



Hvis du vil ha mer kontroll over SoundTouch™-systemet, kan du se "Ved hjelp av SoundTouch™-appen" på side 14.

## Slik fungerer forhåndsinnstillinger

---

Du kan tilpasse seks forhåndsinnstillinger til favorittjenester for strømming av musikk, radiostasjoner, spillelister, artister, album eller sanger fra musikkbiblioteket ditt. Du har tilgang til musikken din når som helst via SoundTouch™-appen på datamaskinen, smarttelefonen eller nettbrettet, eller SoundTouch™-kilden på underholdningssystemet ditt.

### Hva du trenger å vite

- Du kan stille inn forhåndsinnstillinger fra appen og underholdningssystemet.
- Hvis kilden for forhåndsinnstillingen er et musikkbibliotek fra iTunes eller Windows Media Player, må du passe på at datamaskinen der musikken er lagret, er slått på og koblet til det samme nettverket som SoundTouch™-systemet.

## Spille fra en forhåndsinnstilling

---

Når du har tilpasset forhåndsinnstillingene, kan du spille en forhåndsinnstilling ved å velge den med fjernkontrollen eller appen.

**Merk:** Hvis ingen musikk spilles, kan du se "Angi en forhåndsinnstilling".

## Angi en forhåndsinnstilling

---

1. Strøm musikk til underholdningssystemet ditt ved hjelp av appen eller SoundTouch™-kilden.
2. Når musikken spilles, trykker du inn og holder et forhåndsinnstillingsnummer med fjernkontrollen (ca. 2 sekunder).

**Merk:** Hvis du vil ha informasjon om hvordan du bruker SoundTouch™-appen til å angi og endre forhåndsinnstillinger, kan du se hjelpesystemet i appen.

## Finne nylig avspilt innhold

Listen over sist brukte viser de 50 sist avspilte SoundTouch™-elementene.

1. Velg **Gå til Sist brukte**.

Gå til Sist brukte



SIST BRUKTE-panelet vises.

Nylig  
avspilt  
innhold



2. Velg et element.

## **Tilgang til Bluetooth®**

Du får tilgang til *Bluetooth* via KILDE-menyen på underholdningssystemet eller via SoundTouch™-appen.

### **Velge *Bluetooth*-kilden**

*Bluetooth*-kilden lar deg koble sammen og styre *Bluetooth*-kompatible enheter ved hjelp av fjernkontrollen for systemet.

1. Slå på systemet.
2. Trykk **SOURCE**-knappen på fjernkontrollen.  
KILDE-menyen vises.



**Tips:** Du kan også trykke SOURCE-knappen på kontrollkonsollen.


3. Tilgang til **Bluetooth®**

## Bruke skjermbildet for Bluetooth®-kilde

Ved hjelp av fjernkontrollen får du tilgang til et delsett av Bluetooth-funksjoner fra kildeskjermbildet.

### Dette kan du gjøre

- Koble sammen og koble til Bluetooth-kompatible enheter.
- Vise tilgjengelig artistinformasjon i NOW PLAYING-panelet (SPILLES NÅ).
- Vise tilkoblede enheter.
- Styre avspilling (spille av, pause, stoppe eller hoppe til neste spør og så videre).
- Nullstille sammenkoblingslisten.



## Nullstiller sammenkoblingslisten for Bluetooth®

Når du kobler en Bluetooth-kompatibel enhet sammen med systemet, lagres sammenkoblingen i sammenkoblingslisten for systemet. Det kan hende du må nullstille sammenkoblingslisten for systemet hvis du ikke kan koble til en enhet. Når du nullstiller listen, må du koble sammen tidligere sammenkoblede enheter på nytt.

1. Trykk -knappen på fjernkontrollen.

2. Velg .

På skjermen vises en melding om at *sammenkoblingslisten er nullstilt*.

Systemet er nå klar til å koble sammen en enhet.

# Styre systemet med appen

---

## Ved hjelp av SoundTouch™-appen

---

SoundTouch™-appen er et dataprogram som lar deg konfigurere og styre SoundTouch™-systemet fra en smarttelefon, et nettbrett eller en datamaskin. Fra appen fungerer smarteneheten din nærmest som en funksjonsrik fjernkontroll for SoundTouch™-systemet.

Appen lar deg administrere systeminnstillingene for SoundTouch™, legge til musikkjenester, utforske lokale og globale radiostasjoner på Internett, stille inn og endre forhåndsinnstillingar, strømme musikk til systemet, se hva som spilles av, og mye mer.

Når du har konfigurert systemet på nettverket via SoundTouch™-appen, er du klar til å utforske strømming av musikk og tilpasse forhåndsinnstillingene dine.

### Få hjelp



Gir tilgang til kundestøttesenteret for eiere, som omfatter: brukerhåndbøker, artikler, tips, opplæring, et videobibliotek og eierfellesskapet der du kan publisere spørsmål og svar.

1. Åpne en nettleser.
2. Skriv inn SoundTouch.com i adressefeltet.

### Hjelp i appen

Gir tilgang til hjelpeartikler om hvordan du bruker SoundTouch™.

1. Velg på enheten for å starte appen.
2. Velg **HJELP** fra UTFORSK-panelet.

## Styre systemet fra smarttelefon, nettbrett eller datamaskin


Når du først har konfigurert SoundTouch™-systemet på Wi-Fi®-hjemmenettverket ditt, kan du styre systemet fra alle smarttelefoner, nettbrett eller datamaskiner som er koblet til samme nettverk.

1. Koble enheten til samme nettverk som systemet.
2. Last ned og installer SoundTouch™-appen på enheten:
  - iOS-brukere: Last ned fra App Store
  - Android™-brukere: Last ned fra Google Play™-butikken
  - Amazon Kindle Fire-brukere: Last ned fra Amazon Appstore for Android
  - Hvis du bruker datamaskin, kan du åpne en nettleser og gå til:

**SoundTouch.com/app**

### Control-knapp

Den trådløse SoundTouch™-adapteren gir tilgang til avanserte funksjoner ved å trykke og holde Control-knappen.



### Wi-Fi®-indikator

Wi-Fi-indikatoren på baksiden av adapteren viser Wi-Fi-status.

Indikatoraktivitet	Systemstatus
Blinker hvitt	Koble til et Wi-Fi-nettverk
Lyser hvitt	Systemet er på og koblet til et Wi-Fi-nettverk
Lyser gult	Systemet er i konfigureringsmodus
Blinker langsomt oransje	Koblet fra et Wi-Fi-nettverk
Blinker hurtig oransje	Fastvarefeil – Ring kundestøtte for Bose
Av	Wi-Fi-nettverkstilkobling er deaktivert eller systemet er koblet til Ethernet

### Deaktivere Wi-Fi®-funksjonen

Deaktivering av Wi-Fi deaktivérer også *Bluetooth*®-funksjonen.

- Slå underholdningssystemet på.
- Trykk og hold inne Control-knappen på adapteren (8-10 sekunder).
- Når Wi-Fi-indikatoren slukker, slipper du Control-knappen.

### Aktivere Wi-Fi®-funksjonen

Aktivering av Wi-Fi aktiverer også *Bluetooth*®-funksjonen.

- Slå underholdningssystemet på.
- Trykk Control-knappen på adapteren.

## Avanserte funksjoner

---

### Tilbakestille adapteren

---

Tilbakestilling til fabrikkinnstillingene fjerner alle innstillinger for kilde og nettverk og tilbakestiller systemet til de originale innstillingene fra fabrikken.

**Merk:** Denne tilbakestillingsfunksjonen sletter SoundTouch™-forhåndsinnstillingene og lagret nettverkslegitimasjon.

1. Slå underholdningssystemet på.
2. Koble fra Bose® link-kabelen.
3. Trykk og hold inne Control-knappen mens du kobler kabelen til på nytt.
4. Start SoundTouch™-appen på datamaskinen, og legg til systemet på nettverket.

## Feilsøking

Problem	Gjør dette
Kan ikke fullføre nettverksoppsett eller finner ikke adapteren	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plugg den trådløse SoundTouch™-adapteren inn i Bose link-kontakten på kontrollkonsollen.</li> <li>• Koble USB-kabelen til den trådløse adapteren og kontrollkonsollen. Denne kabelen må være tilkoblet for at systemet skal fungere riktig.</li> <li>• Koble systemet til en stikkontakt.</li> <li>• Velg riktig nettverksnavn, og skriv inn passordet.</li> <li>• Koble enheten og SoundTouch™-systemet til samme Wi-Fi®-nettverk.</li> <li>• Plasser den trådløse adapteren innenfor ruterens rekkevidde.</li> <li>• Aktivere Wi-Fi på enheten (mobil enhet eller datamaskin) du bruker til konfigurasjonen.</li> <li>• Lukk andre åpne apper.</li> <li>• Hvis du bruker en datamaskin til konfigurasjonen, kontrollerer du brannmurinnstillingene for å være sikker på at SoundTouch™-appen og SoundTouch™-musikkserveren er tillatte programmer.</li> <li>• Test Internett-tilkoblingen ved å laste inn <a href="http://www.SoundTouch.com">www.SoundTouch.com</a></li> <li>• Start den mobile enheten, datamaskinen eller ruten på nytt.</li> <li>• Start SoundTouch™-systemet på nytt (se hjelpestystemet i appen).</li> <li>• Avinstallér appen, tilbakestill systemet og start konfigurasjonen på nytt.</li> <li>• Vis nettverket hvis det er skjult, for å fullføre installasjonen.</li> </ul>
Kan ikke koble til nettverket	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hvis nettverket er endret eller du vil koble systemet til et annet nettverk, kan du se hjelpen i appen.</li> <li>• Koble til nettverket med en Ethernet-kabel.</li> </ul>
SoundTouch™ eller Bluetooth® vises ikke på kildemenyen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oppdatere kontrollkonsollen. Se i brukerveiledningen for underholdningssystemet.</li> <li>• Kontroller at Bose® link- og USB-kabelen er riktig tilkoblet til den trådløse adapteren og kontrollkonsollen. Disse kablene må være tilkoblet for at systemet skal fungere riktig.</li> <li>• Fullfør konfigurasjonen av SoundTouch™. Se side 19.</li> </ul>
Kan ikke spille av Bluetooth®-lyd	<p>På systemet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koble sammen en enhet ved hjelp av KILDE-skjermbildet for <i>Bluetooth</i> (side 13).</li> <li>• Prøv å koble sammen en annen enhet.</li> <li>• Se Ingen lyd i brukerveiledningen for systemet.</li> <li>• Konfigurer SoundTouch™ først, og utfør alle programvareoppdateringer på systemet.</li> <li>• Nullstill sammenkoblingslisten for systemet (side 13).</li> </ul> <p>På den mobile enheten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Deaktivér og aktivér <i>Bluetooth</i>-funksjonen på nytt.</li> <li>• Fjern systemet fra <i>Bluetooth</i>-menyen. Koble sammen på nytt.</li> <li>• Se dokumentasjonen for den <i>Bluetooth</i>-kompatible enheten.</li> </ul>

## Stell og vedlikehold

---

### Legge til et Wi-Fi®-nettverk

---

Hvis nettverksinformasjonen din er endret, eller hvis du skal koble systemet til et annet nettverk, må du legge den nye nettverksinformasjonen under nettverkskonfigurasjonen på UNIFY®-menyen på underholdningssystemet.

1. Slå underholdningssystemet på.
2. Trykk **Setup**-knappen på knappepanelet på kontrollkonsollen. UNIFY-menyen vises.
3. Velg **Nettverkskonfigurasjon**.
4. Følg anvisningene på skjermen for å endre nettverket.

## Rengjøring

---

Hvis du vil rengjøre den trådløse SoundTouch™-adapteren, tørker du av kabinetten med en myk, tørr klut.

- Ikke bruk løsemidler, kjemikalier eller spray.
- Ikke la det komme væskesøl eller dråper i åpningene.

## Kundeservice

---

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker systemet:

- Gå til [SoundTouch.com](http://SoundTouch.com)
- Kontakt kundestøtten hos Bose® Se kontaktarket i esken.

## Begrenset garanti

---

Den trådløse SoundTouch™-adapteren er dekket av en begrenset garanti. Du finner nærmere informasjon om den begrensede garantien på arket med viktige sikkerhetsinstruksjoner, som er i esken. Se arket med viktige sikkerhetsinstruksjoner for informasjon om hvordan du registrerer produktet. Hvis du ikke gjør dette, påvirker det ikke den begrensede garantien.

Garantiinformasjonen for dette produktet gjelder ikke i Australia og New Zealand. Se nettstedet vårt på [www.Bose.com.au/warranty](http://www.Bose.com.au/warranty) eller [www.Bose.co.nz/warranty](http://www.Bose.co.nz/warranty) for informasjon om garantien i Australia og New Zealand.

## Teknisk informasjon

---

<b>Størrelse:</b>	5,1 cm x 6,4 cm x 23,8 cm (2" H x 2 1/2" B x 9 5/8" D)
<b>Vekt:</b>	0,34 kg (0,75 lb)

## Konfigurere med SoundTouch™-appen

Hvis du ikke kan fullføre nettverkskonfigurasjonen ved hjelp av UNIFY® eller hvis du ikke fullfører konfigurasjonen med SoundTouch™-appen, må du laste ned og installere Bose® SoundTouch™-kontrollerappen til en smarttelefon, et nettbrett eller en datamaskin som er koblet til nettverket. Appen vil veilede deg gjennom tilkobling av systemet til nettverket.

### Aktivere konfigurasjonsmodus på adapteren

- Trykk og hold kontrollknappen, som er på baksiden av den trådløse SoundTouch™-adapteren, i 1-8 sekunder.
- Slipp Control-knappen når den gule Wi-Fi®-indikatoren blinker. Wi-Fi-indikatoren skal lyse med oransje farge.

### Legge systemet til en eksisterende SoundTouch™-konto

Hvis du allerede har konfigurert SoundTouch™ for et annet system, behøver du ikke å laste ned SoundTouch™-appen på nytt.

- Velg SoundTouch™-ikonet  på smarttelefonen eller nettbrettet for å starte appen.
- Velg **UTFORSK > INNSTILLINGER > Systemer > LEGG TIL SYSTEM** for å legge til et nytt system.

Appen veileder deg gjennom konfigurasjonen.

### Laste ned og installere SoundTouch™-appen

Last ned **SoundTouch™-kontrollerappen** på smarttelefonen, nettbrettet eller datamaskinen.



**Bose® SoundTouch™ controller app**

- iOS-brukere: Last ned fra App Store
- Android™-brukere: Last ned fra Google Play™-butikken
- Amazon Kindle Fire-brukere: Last ned fra Amazon Appstore for Android
- Hvis du bruker datamaskin, kan du åpne en nettleser og gå til:  
[SoundTouch.com/app](http://SoundTouch.com/app)

### Koble systemet til Wi-Fi®-hjemmenettverket ditt.

Når du har installert appen, legger du systemet til nettverket:

- Velg  på smarttelefonen, nettbrettet eller datamaskinen for å starte appen. Appen vil veilede deg gjennom tilkobling av systemet til Wi-Fi-nettverket.
- Følg instruksjonene i appen for å fullføre konfigurasjonen, herunder å opprette en SoundTouch™-konto, legge til et musikkbibliotek og lege til musikkjenester.

## Vedlegg B: Feste den trådløse adapteren

### Feste adapteren

Du kan montere adapteren på veggen (feste følger ikke med). Hvis festet leverer med andre instruksjoner enn disse, følger du instruksjonene som følger med festet. Denne tabellen inneholder spesifikasjoner for feste.

Vare	Tre	Veggplate
<b>Veggtykkelse</b>	19 mm ( $\frac{3}{4}$ tommer) eller tykkere	9,5 mm ( $\frac{3}{8}$ tommer) eller tykkere
<b>Bor</b>	3 mm ( $\frac{1}{8}$ tommer)	4,5 mm ( $\frac{3}{16}$ tommer)
<b>Flathodede treskruer (2)</b>	32 mm (#8 x 1 $\frac{1}{4}$ tommer)	32 mm (#8 x 1 $\frac{1}{4}$ tommer)
<b>Plastveggankre (2)</b>	Ikke i bruk	25 mm (#6-8x1 tommer)


### Festealternativer

Du kan feste adapteren på to måter.

- Vertikalt: kontaktpanelet vender mot venstre
- Horisontalt: kontaktpanelet vender opp

### Slik fester du adapteren

1. Bore to hull med senteravstand 159 mm (6 $\frac{1}{4}$  tommer).



2. Sett inn plastveggankerne (hvis feste til veggplate)

3. Skru inn de flathodede treskruene.

**Merk:** La det være 6,35 mm ( $\frac{1}{4}$  tommer) mellom skruhodene og veggoverflaten.

4. Plasser adapteren på skruene.



# Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Należy starannie przeczytać tę instrukcję obsługi i przestrzegać istotnych zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.

 Symbol blyskawicy ze strzałką w trójkącie równobocznym ostrzega użytkownika o zagrożeniach związanych z obecnością w obudowie nieizolowanych podzespołów pod napięciem, którego wartość może być przyczyną porażenia prądem elektrycznym.

 Symbol wykrywki w trójkącie równobocznym, umieszczony na urządzeniu, wskazuje użytkownikowi ważne instrukcje dotyczące obsługi i konserwacji, zamieszczone w tym podręczniku.

## **PRZESTROGI:**

- Nie należy modyfikować systemu lub akcesoriów.
- Nieautoryzowane modyfikacje mogą niekorzystnie wpływać na bezpieczeństwo, zgodność z przepisami i wydajność systemu.

## **OSTRZEŻENIA:**

- Aby ograniczyć ryzyko pożaru oraz porażenia prądem, należy chronić urządzenie przed deszczem i wilgocią.
- Nie należy narażać urządzenia na zachlapanie ani umieszczać w jego pobliżu naczyn wypełnionych płynami, takich jak wazon. Podobnie jak w przypadku innych urządzeń elektronicznych, należy zachować ostrożność, aby nie dopuścić do przedostania się rozlanych płynów do wnętrza urządzenia. Płyny mogą spowodować awarię i/lub zagrożenie pożarowe.
- Na urządzeniu lub w jego pobliżu nie należy umieszczać źródeł otwartego ognia (np. zapalonej świecy).

1. Należy przeczytać te instrukcje.
2. Należy zachować te instrukcje.
3. Należy uwzględnić wszystkie ostrzeżenia.
4. Należy postępować zgodnie z instrukcjami.
5. Nie wolno korzystać z tego urządzenia w pobliżu wody.
6. Urządzenie należy czyścić wyłącznie przy użyciu suchej ściereczki.
7. Nie wolno blokować szczelin wentylacyjnych. Urządzenie należy zainstalować zgodnie z zaleceniami producenta.
8. Nie wolno instalować urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kałoryfery, przewody kominowe, piecze lub inne urządzenia (na przykład wzmacniacze) wydzielające ciepło.
9. Należy korzystać wyłącznie z dodatków/akcesoriów zalecanych przez producenta.
10. Wykonanie wszystkich prac serwisowych należy zlecić wykwalifikowanemu personelowi. Naprawa w serwisie jest wymagana w przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia urządzenia, np. uszkodzenia przewodu zasilającego lub wtyczki, dostania się do wnętrza urządzenia płynu lub przedmiotów, po narażeniu urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci, gdy urządzenie nie działa normalnie lub jeśli zostało upuszczone.

## **UWAGI:**

- Etykieta produktu jest umieszczona na spodzie obudowy.
- Urządzenie musi być używane wewnętrz pomieszczeń. Nie zostało zaprojektowane z myślą o używaniu na zewnątrz, w pojazdach ani na łodziach, jak również nie zostało pod tym względem przetestowane.

## **Ważne informacje dotyczące zgodności**

**Uwaga:** Urządzenie zostało przetestowane oraz potwierdzona została jego zgodność z wymaganiami dla urządzeń cyfrowych klasy B, wynikającymi z części 15 przepisów FCC. Wymagania te określono w celu zapewnienia ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami działania instalacji w budynkach mieszkalnych. Urządzenie wytwarza oraz wykorzystuje energię promieniowania o częstotliwościach radiowych i może powodować zakłócenia komunikacji radiowej, jeżeli nie jest zainstalowane i użytkowane zgodnie z zaleceniami producenta. Co więcej, nie można zagwarantować, że działanie niektórych instalacji nie będzie zakłócone. Jeżeli urządzenie zakłóca odbiór radiowy lub telewizyjny, co można sprawdzić, wyłączając je i ponownie włączając, zakłócenia tego typu można eliminować, korzystając z jednej z następujących metod:

- Zmiana ustawienia lub lokalizacji anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia do gniazda sieciowego w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultowanie się z dystrybutorem lub doświadczonym technikiem radioowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy technicznej.

# Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

## OSTRZEŻENIE KOMISJI FCC

Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały oficjalnie zatwierdzone przez firmę Bose Corporation mogą być przyczyną anulowania autoryzacji użytkownika do korzystania z tego wyposażenia.

## W USA i Kanadzie

Urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów komisji FCC. Użytkowanie urządzenia jest uzależnione od dwóch następujących warunków:

(1) Urządzenie nie może powodować żadnych szkodliwych zakłóceń oraz (2) musi zachować odporność na wpływ zakłóceń zewnętrznych, w tym zakłóceń, które mogą powodować wadliwe działanie.

To urządzenie cyfrowe klasy B jest zgodne z kanadyjskimi normami ICES-003 / CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B).

To urządzenie jest zgodne z normami FCC i Industry Canada RF dotyczącymi limitów narażenia na promieniowanie o częstotliwościach radiowych określonych ogólnie dla ludzi.

- Nie może znajdować się w pobliżu ani być używane w połączeniu z innymi antenami lub nadajnikami.
- To urządzenie jest zgodne ze standardami RSS Industry Canada i nie wymaga licencjonowania. Ich działanie jest uwarunkowane dwoma czynnikami: (1) Urządzenie nie może powodować żadnych zakłóceń oraz (2) musi zachować odporność na wpływ zakłóceń, w tym zakłóceń, które mogą powodować wadliwe działanie.
- To urządzenie jest zgodne z normami FCC i Industry Canada dotyczącymi limitów narażenia na promieniowanie określonych dla niekontrolowanego środowiska. To urządzenie powinno być zainstalowane i obsługiwane w odległości co najmniej 20 cm między elementem promieniującym a ciałem użytkownika.



Firma Bose Corporation niniejszym deklaruje, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i zaleceniami określonymi w dyrektywie 1999/5/WE oraz innych obowiązujących dyrektywach UE. Pełna treść Deklaracji zgodności jest dostępna w witrynie [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance).



Ten symbol oznacza, że produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadkami z gospodarstwa domowego. Produkt należy dostarczyć do odpowiedniego miejsca zbiórki w celu recyklingu. Prawidłowa utylizacja i recykling ułatwiają ochronę zasobów naturalnych, ludzkiego zdrowia i środowiska naturalnego. Aby uzyskać więcej informacji na temat utylizacji i recyklingu tego produktu, skontaktuj się z samorządem lokalnym, z zakładem utylizacji odpadów albo ze sklepem, w którym produkt został nabyty.

## Nazwy i zawartość toksycznych lub szkodliwych substancji albo pierwiastków

Nazwa	Toksyczne lub szkodliwe substancje albo pierwiastki					
	Ołów (Pb)	Rtęć (Hg)	Kadm (Cd)	Sześciowartościowy chrom (Cr(VI))	Polibromowany bifenyl (PBB)	Polibromowany difenyloeter (PBDE)
Połichlorowane bifenyle (PCB)	X	O	O	O	O	O
Części metalowe	X	O	O	O	O	O
Części z tworzyw szt.	O	O	O	O	O	O
Głośniki	X	O	O	O	O	O
Kable	X	O	O	O	O	O

Tą tabelę przygotowano zgodnie z wymaganiami SJ/T 11364.

O: Wskazuje, że dana substancja toksyczna lub szkodliwa, która jest zawarta we wszystkich homogenicznych materiałach dla tej części, nie przekracza limitu określonego w normie GB/T 26572.

X: Wskazuje, że dana substancja toksyczna lub szkodliwa, która jest zawarta w co najmniej jednym z homogenicznych materiałów użytych dla tej części, przekracza limit określony w normie GB/T 26572.

# Informacje prawne

## Prosimy wpisać i zachować następujące informacje:

Numery seryjne i modelu znajdują się na spodzie systemu.

Numer seryjny: \_\_\_\_\_

Numer modelu: \_\_\_\_\_

Data zakupu: \_\_\_\_\_

Zalecamy przechowywanie paragonu sprzedaży wraz z instrukcją obsługi.

App Store jest znakiem usługi firmy Apple Inc.

Amazon, Kindle i Fire są znakami towarowymi firmy Amazon.com, Inc. lub jej spółek zależnych.

Android i Google Play są znakami towarowymi firmy Google, Inc.

Słowo *Bluetooth*® i logo są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc., wykorzystanymi przez firmę Bose Corporation na mocy licencji.



iHeartRadio jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy iHeartMedia, Inc.

iTunes jest znakiem towarowym firmy Apple Inc. zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.

HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface oraz logo HDMI są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing LLC w USA i innych krajach.

Ten produkt wykorzystuje oprogramowanie Spotify podlegające licencjom innych firm, które są dostępne w tym miejscu: [www.spotify.com/connect/third-party-license](http://www.spotify.com/connect/third-party-license)

Spotify jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Spotify AB.

SoundTouch i projekt bezprzewodowej nuty są znakami towarowymi firmy Bose Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Wi-Fi jest zastrzeżonym znakiem towarowym stowarzyszenia Wi-Fi Alliance®.

Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

©2015 Bose Corporation. Żadnej części tej publikacji nie wolno powielać, modyfikować, rozpowszechniać ani wykorzystywać w inny sposób bez uprzedniego uzyskania pisemnego zezwolenia.

## Wprowadzenie

SoundTouch™ .....	7
Funkcje systemu .....	7

## SoundTouch™

Dostęp do funkcji SoundTouch™ .....	8
Wybór źródła SoundTouch™ .....	8
Korzystanie z ekranu źródła SoundTouch™ .....	9
Dostępne czynności.....	9
Opis ustawień wstępnych .....	10
Co należy wiedzieć .....	10
Odtwarzanie ustawienia wstępnego .....	10
Konfigurowanie ustawienia wstępnego.....	10
Wyszukiwanie ostatnio odtwarzanej zawartości .....	11

## Bluetooth®

Dostęp do źródła Bluetooth® .....	12
Wybór źródła Bluetooth® .....	12
Korzystanie z ekranu źródła Bluetooth® .....	13
Czyszczenie listy parowania Bluetooth® systemu .....	13

## Sterowanie systemem przy użyciu aplikacji

Używanie aplikacji SoundTouch™ .....	14
Uzyskiwanie pomocy .....	14
Obsługa systemu przy użyciu innego smartfona, tabletu lub komputera .....	14

## Funkcje zaawansowane

Przycisk sterujący.....	15
Wskaźnik Wi-Fi® .....	15
Wyłączanie funkcji Wi-Fi® .....	15
Ponowne włączanie funkcji Wi-Fi® .....	15
Resetowanie modułu.....	16

# **Spis treści**

---

## **Konserwacja**

Rozwiązywanie problemów .....	17
Dodawanie sieci Wi-Fi® .....	18
Czyszczenie .....	18
Dział Obsługi Klientów.....	18
Ograniczona gwarancja .....	18
Dane techniczne .....	18

## **Załącznik A: Konfiguracja systemu SoundTouch™**

Konfiguracja przy użyciu aplikacji SoundTouch™ .....	19
Aktywowanie trybu konfiguracji na module .....	19
Dodawanie systemu do istniejącego konta SoundTouch™ .....	19
Pobierz i zainstaluj aplikację SoundTouch™ .....	19
Podłącz system do domowej sieci Wi-Fi® .....	19

## **Załącznik B: Montaż modułu komunikacji bezprzewodowej**

Aby zamontować moduł .....	20
Możliwości montażu .....	20
Aby zamontować moduł .....	20

## SoundTouch™

---

System muzyczny SoundTouch™ odtwarza strumieniowo wyraźny dźwięk przestrzenny bezprzewodowo za pośrednictwem sieci Wi-Fi. Dzięki systemowi SoundTouch™ można słuchać internetowych stacji radiowych oraz korzystać z usług i bibliotek muzycznych.

Jeśli dysponujesz w domu siecią Wi-Fi® i systemem rozrywki, który może obsłużyć SoundTouch™, możesz słuchać ulubionej muzyki w dowolnym pokoju.Więcej informacji dotyczących konfiguracji można znaleźć w instrukcji obsługi systemu.

**Uwaga:** W przypadku zakupienia modułu komunikacji bezprzewodowej jako osobnego akcesorium, należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w przewodniku szybkiego startu.

### Funkcje systemu

- Umożliwia strumieniowe przesyłanie muzyki z systemu rozrywki Bose bezprzewodowo przy użyciu aplikacji SoundTouch™.
- Bezprzewodowy dostęp do radia internetowego, usług i bibliotek muzycznych.
- Dodaje źródło SoundTouch™, co umożliwia przeglądanie i sterowanie ustawieniami wstępными, ostatnio odtwarzanymi elementami i obecnie odtwarzaną zawartością w odbiorniku TV.
- Dzięki bezpłatnej aplikacji SoundTouch™ można słuchać internetowych stacji radiowych oraz korzystać z usług i bibliotek muzycznych przy użyciu komputera, smartfona lub tabletu.
- Można spersonalizować sześć ustawień wstępnych, aby odtwarzać muzykę przy użyciu pojedynczego przycisku na pilocie zdalnego sterowania.
- Bezprzewodowa konfiguracja przy użyciu smartfona lub tabletu.
- Działanie w ramach istniejącej sieci Wi-Fi.
- Strumieniowe przesyłanie muzyki z urządzeń Bluetooth®.
- W dowolnym momencie można dodać kolejne systemy umożliwiające odtwarzanie dźwięku w wielu pomieszczeniach.
- Szeroki wybór systemów audio firmy Bose® pozwala na wybór odpowiedniego rozwiązania dla każdego pomieszczenia.

## Dostęp do funkcji SoundTouch™

Dostęp do funkcji SoundTouch™ można uzyskać za pośrednictwem menu ŹRÓDŁO systemu multimedialnego lub aplikacji SoundTouch™.

- Źródło SoundTouch™: Podzbiór funkcji SoundTouch™ umożliwiający ponowne odtwarzanie ostatnio odtwarzanych elementów i personalizację ustawień wstępnych.
- Aplikacja SoundTouch™: Zapewnia pełną kontrolę nad funkcjami SoundTouch™ oraz umożliwia zarządzanie ustawieniami systemu, przeglądanie internetowych stacji radiowych, konfigurowanie i zmienianie ustawień wstępnych, strumieniowe przesyłanie muzyki do systemu, przeglądanie odtwarzanych elementów i wiele więcej.

## Wybór źródła SoundTouch™

Korzystając ze źródła SoundTouch™, można kontrolować ustawienia wstępne, ostatnio odtwarzane elementy i obecnie odtwarzaną zawartość przy użyciu pilota zdalnego sterowania systemu.

1. Włącz zasilanie systemu.
2. Naciśnij przycisk **SOURCE** na pilocie zdalnego sterowania.



**Porada:** Można także nacisnąć przycisk SOURCE (Źródło) na jednostce sterującej.


3. Wybierz opcję **SoundTouch™**.

## Korzystanie z ekranu źródła SoundTouch™

Korzystając z pilota zdalnego sterowania, można uzyskać dostęp do podzbioru funkcji SoundTouch™ z ekranu źródła.

### Dostępne czynności

- Personalizowanie i odtwarzanie ustawień wstępnych (strona 10).
- Ponowne odtwarzanie ostatnio odtwarzanych elementów (strona 11).
- Wyświetlanie dostępnych informacji dotyczących wykonawcy na panelu TERAZ ODTWARZANE.
- Sterowanie odtwarzaniem (rozpoczynanie, wstrzymywanie lub zatrzymywanie odtwarzania, przechodzenie do następnej ścieżki itd.)
- Wyświetlanie źródła muzyki dla zawartości na panelu TERAZ ODTWARZANE.



Aby uzyskać informacje umożliwiające lepsze sterowanie systemem SoundTouch™, zobacz „Używanie aplikacji SoundTouch™” na stronie 14.

## Opis ustawień wstępnych

---

Można spersonalizować sześć ustawień wstępnych dla ulubionych usług muzycznych, stacji, list odtwarzania, wykonawców, albumów lub utworów w bibliotece muzycznej. Można uzyskać dostęp do muzyki w dowolnej chwili przy użyciu aplikacji SoundTouch™ w komputerze, smartfonie lub tablecie albo źródła SoundTouch™ w systemie multimedialnym.

### Co należy wiedzieć

- Ustawienia wstępne można konfigurować przy użyciu aplikacji i systemu multimedialnego.
- Jeżeli wstępnie ustawionym źródłem jest biblioteka muzyczna iTunes lub Windows Media Player, należy upewnić się, że komputer, na którym znajduje się biblioteka, jest włączony i połączony z tą samą siecią, z którą jest połączony system SoundTouch™.

## Odtwarzanie ustawienia wstępnego

---

Po spersonalizowaniu ustawień wstępnych wybierz ustawienie przy użyciu pilota zdalnego sterowania lub aplikacji, aby rozpocząć odtwarzanie.

**Uwaga:** Jeśli nie słyszać muzyki, patrz sekcja „Konfigurowanie ustawienia wstępnego”.

## Konfigurowanie ustawienia wstępnego

---

1. Rozpocznij strumieniowe przesyłanie muzyki do systemu multimedialnego przy użyciu aplikacji lub źródła SoundTouch™.
2. Podczas odtwarzania muzyki naciśnij i przytrzymaj (przez około 2 sekundy) przycisk ustawienia wstępnego na pilocie zdalnego sterowania.

**Uwaga:** Aby uzyskać informacje dotyczące konfigurowania i zmiany ustawień wstępnych przy użyciu aplikacji SoundTouch™, skorzystaj z Pomocy aplikacji.

# Wyszukiwanie ostatnio odtwarzanej zawartości

Lista Ostatnie zawiera 50 ostatnio odtwarzanych elementów SoundTouch™.

1. Wybierz pozycję **Do ostatnio odtwarzanych**.



Zostanie wyświetlony panel OSTATNIO ODTWARZANE.



2. Wybierz element.

### **Dostęp do źródła Bluetooth®**

Dostęp do źródła *Bluetooth* można uzyskać za pomocą menu **ŽRÓDŁO** systemu rozrywki lub aplikacji SoundTouch™.

#### **Wybór źródła Bluetooth®**

Źródło *Bluetooth* umożliwia sparowanie urządzenia *Bluetooth* i sterowanie nim za pomocą pilota zdalnego sterowania systemu.

1. Włącz zasilanie systemu.
2. Naciśnij przycisk **SOURCE** na pilocie zdalnego sterowania.



**Porada:** Można także nacisnąć przycisk SOURCE (Źródło) na konsoli sterowania.


3. Wybierz źródło **Bluetooth®**.

## Korzystanie z ekranu źródła Bluetooth®

Korzystając z pilota zdalnego sterowania, można uzyskać dostęp do podzbioru funkcji Bluetooth z ekranu źródła.

### Dostępne czynności

- Parowanie i łączenie z urządzeniami Bluetooth.
- Wyświetlanie dostępnych informacji dotyczących wykonawcy na panelu TERAZ ODTWARZANE.
- Wyświetlanie połączonych urządzeń.
- Sterowanie odtwarzaniem (rozpoczynanie, wstrzymywanie lub zatrzymywanie odtwarzania, przechodzenie do następnej ścieżki itd.)
- Wyczyść listę parowania.



## Czyszczenie listy parowania Bluetooth® systemu

Po sparowaniu urządzenia Bluetooth z systemem połączenie jest zapisywane na liście parowania systemu. Jeśli nie można połączyć się z urządzeniem, może być konieczne wyczyszczenie listy parowania. Po wyczyszczeniu listy należy ponownie sparować wcześniej sparowane urządzenia.

1. Naciśnij przycisk  na pilocie.
2. Wybierz .

Na ekranie pojawi się komunikat potwierdzający, że *Lista parowania została wyczyszczona*.

System jest gotowy do sparowania urządzenia.

# Sterowanie systemem przy użyciu aplikacji

## **Używanie aplikacji SoundTouch™**

Aplikacja SoundTouch™ to aplikacja umożliwiająca sterowanie systemem SoundTouch™ przy użyciu smartfona, tabletu lub komputera. Aplikacja używana na urządzeniu przenośnym działa jak wielofunkcyjny pilot zdalnego sterowania systemu SoundTouch™.

Aplikacja umożliwia zarządzanie ustawieniami systemu SoundTouch™, dodawanie usług muzycznych, przeglądanie lokalnych i globalnych stacji radiowych, konfigurowanie i zmienianie ustawień wstępnych, odtwarzanie strumieniowe muzyki w systemie, wyświetlanie odtwarzanych systemów i wiele więcej.

Po skonfigurowaniu systemu w sieci przy użyciu aplikacji SoundTouch™ można eksplorować muzykę odtwarzaną strumieniowo i personalizować ustawienia wstępne.

### **Uzyskiwanie pomocy**

#### [SoundTouch.com](#)

Zapewnia dostęp do centrum pomocy technicznej dla właściciela, które obejmuje instrukcje obsługi, artykuły, porady, samouczki, bibliotekę wideo i społeczność użytkowników, w której można publikować pytania i odpowiedzi.

1. Otwórz przeglądarkę.
2. W polu adresu wpisz SoundTouch.com.

### **Pomoc aplikacji**

Zapewnia artykuły pomocy dotyczące korzystania z aplikacji SoundTouch™.

1. Na urządzeniu wybierz  , aby otworzyć aplikację.
2. W panelu EKSPLORUJ wybierz opcję **POMOC**.


### **Obsługa systemu przy użyciu innego smartfona, tabletu lub komputera**

Po skonfigurowaniu systemu SoundTouch™ w domowej sieci Wi-Fi® można sterować systemem przy użyciu dowolnego smartfona, tabletu lub komputera w tej samej sieci.

1. Podłącz urządzenie do tej samej sieci co system.
2. Na urządzeniu pobierz i zainstaluj aplikację SoundTouch™:
  - Użytkownicy systemu iOS: do pobrania w sklepie App Store
  - Użytkownicy systemu Android™: do pobrania w sklepie Google Play™
  - Użytkownicy urządzeń Amazon Kindle Fire: do pobrania w sklepie Amazon Appstore for Android
  - Jeśli korzystasz z komputera, uruchom przeglądarkę internetową i przejdź do: [SoundTouch.com/app](#)

### Przycisk sterujący

Moduł łączności bezprzewodowej SoundTouch™ umożliwia dostęp do funkcji zaawansowanych po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku sterowania.



### Wskaźnik Wi-Fi®

Wskaźnik Wi-Fi na tylnym panelu modułu informuje o stanie sieci Wi-Fi.

Opis wskaźnika	Stan systemu
Miga (biały)	Trwa łączenie z siecią Wi-Fi
Świeci (biały)	System jest włączony i połączony z siecią Wi-Fi
Świeci (bursztynowy)	System jest w trybie konfiguracji
Miga powoli (pomarańczowy)	Odlaczono od sieci Wi-Fi
Miga szybko (pomarańczowy)	Błąd oprogramowania układowego — zadzwoń do Działu Obsługi Klientów firmy Bose
Wyłączony	Obsługa sieci Wi-Fi jest wyłączona lub system jest połączony z siecią Ethernet

### Wyłączanie funkcji Wi-Fi®

Wyłączenie funkcji Wi-Fi powoduje również wyłączenie funkcji Bluetooth®.

1. Włącz zasilanie systemu multimedialnego.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk sterowania przez 8–10 sekund.
3. Kiedy wskaźnik Wi-Fi zgaśnie, zwolnij przycisk Control.

### Ponowne włączanie funkcji Wi-Fi®

Ponowne włączanie funkcji Wi-Fi powoduje również ponowne włączanie funkcji Bluetooth®.

1. Włącz zasilanie systemu multimedialnego.
2. Naciśnij przycisk sterowania adaptera.

## Funkcje zaawansowane

---

### Resetowanie modułu

---

Resetowanie do ustawień fabrycznych powoduje usunięcie wszystkich ustawień źródła i sieci z systemu oraz przywrócenie oryginalnych ustawień fabrycznych.

**Uwaga:** Ta funkcja resetowania powoduje wymazanie ustawień wstępnych systemu SoundTouch™ i zapisanych poświadczeń sieciowych.

1. Włącz zasilanie systemu multimedialnego.
2. Odłącz kabel Bose® link.
3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk sterowania podczas ponownego podłączania kabla.
4. Uruchom aplikację SoundTouch™ na komputerze i dodaj system do sieci.

## Rozwiązywanie problemów

Problem	Zalecane czynności
Nie można ukończyć konfiguracji sieci lub nie można wykryć modułu komunikacji bezprzewodowej.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Podłącz moduł komunikacji bezprzewodowej SoundTouch™ do złącza Bose link konsoli sterowania.</li> <li>Podłącz kabel USB do modułu komunikacji bezprzewodowej oraz do konsoli sterowania. Aby system działał prawidłowo, ten kabel musi pozostać podłączony.</li> <li>Podłącz system do gniazda elektrycznego.</li> <li>Wybierz poprawną nazwę sieci i wprowadź hasło.</li> <li>Połącz urządzenie i system SoundTouch™ z tą samą siecią Wi-Fi®.</li> <li>Umieść moduł komunikacji bezprzewodowej w zasięgu routera.</li> <li>Włącz obsługę sieci Wi-Fi w urządzeniu (urządzenie przenośne lub komputer) używanym do konfigurowania.</li> <li>Zamknij inne otwarte aplikacje.</li> <li>Jeżeli używasz komputera do konfigurowania, sprawdź ustawienia zapory, aby upewnić się, że aplikacja SoundTouch™ i serwer SoundTouch™ Music Server są programami dozwolonymi.</li> <li>Sprawdź połączenie z Internetem, wczytując witrynę <a href="http://www.SoundTouch.com">www.SoundTouch.com</a>.</li> <li>Uruchom ponownie urządzenie przenośne lub komputer oraz router.</li> <li>Uruchom ponownie system SoundTouch™ (patrz pomoc systemu w aplikacji).</li> <li>Odinstaluj aplikację, zresetuj system i rozpoczęj ponownie proces konfiguracji.</li> <li>Jeśli sieć jest ukryta, włącz ukrycie sieci, aby zakończyć konfigurację.</li> </ul>
Nie można połączyć do sieci.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jeśli nastąpiła zmiana sieci lub by połączyć system z inną siecią, skorzystaj z Pomocy aplikacji.</li> <li>Połącz z siecią przy użyciu kabla Ethernet.</li> </ul>
Pozycja SoundTouch™ ani Bluetooth® nie pojawia się w menu źródła	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aktualizacja konsoli sterowania. Należy zapoznać się z instrukcją obsługi systemu rozrywki.</li> <li>Sprawdź, czy kabel Bose® link i kabel USB jest prawidłowo podłączony do modułu komunikacji bezprzewodowej oraz do konsoli sterowania. Aby system działał prawidłowo, te kable muszą pozostać podłączone.</li> <li>Przeprowadź konfigurację systemu SoundTouch™ Patrz strona 19.</li> </ul>
Nie można odtwarzać dźwięku Bluetooth®	<p>W systemie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sparuj urządzenie korzystając z ekranu ŹRÓDŁO funkcji Bluetooth (strona 13).</li> <li>Spróbuj sparować inne urządzenie.</li> <li>Należy zapoznać się z rozdziałem „Brak dźwięku” instrukcji obsługi systemu.</li> <li>Skonfiguruj najpierw system SoundTouch™, a następnie wykonaj wszystkie aktualizacje systemu.</li> <li>Wyczyszczyć listę parowania systemu (strona 13).</li> </ul> <p>Na urządzeniu przenośnym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Włącz i włącz ponownie funkcję Bluetooth.</li> <li>Usuń system z menu Bluetooth. Sparuj ponownie.</li> <li>Zapoznaj się z dokumentacją urządzenia Bluetooth.</li> </ul>

## Konserwacja

---

### Dodawanie sieci Wi-Fi®

---

Jeżeli informacje dotyczące sieci uległy zmianie lub konieczne jest połączenie systemu z inną siecią, należy dodać nowe informacje dotyczące sieci w oknie Konfiguracja sieci w menu UNIFY® systemu multimedialnego.

1. Włącz zasilanie systemu multimedialnego.
2. Naciśnij przycisk **Setup** (Konfiguracja) na jednostce sterującej.  
Zostanie wyświetcone menu UNIFY.
3. Wybierz pozycję **Konfiguracja sieci**.
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlonymi na ekranie, aby zmienić sieć.

## Czyszczenie

---

Aby oczyścić obudowę modułu komunikacji bezprzewodowej SoundTouch™, należy przetrzeć ją miękką, suchą ścieżeczką.

- Nie wolno używać rozpuszczalników, środków chemicznych lub aerozoli.
- Nie wolno dopuścić, aby do otworów w obudowie dostały się płyny lub przedmioty.

## Dział Obsługi Klientów

---

Aby uzyskać dodatkową pomoc związaną z korzystaniem z systemu:

- Odwiedź stronę SoundTouch.com.
- Skontaktuj się z Działem Obsługi Klientów firmy Bose®. Należy skorzystać z listy adresów umieszczonej w opakowaniu.

## Ograniczona gwarancja

---

Moduł komunikacji bezprzewodowej SoundTouch™ jest objęty ograniczoną gwarancją. Szczegółowe informacje dotyczące ograniczonej gwarancji są dostępne w Ważnych zaleceniach dotyczących bezpieczeństwa dostarczonych razem z systemem. W Ważnych zaleceniach dotyczących bezpieczeństwa można również znaleźć informacje dotyczące sposobu rejestracji. Rezygnacja z rejestracji nie ma wpływu na uprawnienia wynikające z ograniczonej gwarancji.

Dołączane do tego produktu informacje na temat gwarancji nie dotyczą Australii i Nowej Zelandii. Szczegółowe informacje dotyczące gwarancji w Australii i Nowej Zelandii można znaleźć pod adresem [www.Bose.com.au/warranty](http://www.Bose.com.au/warranty) lub [www.Bose.co.nz/warranty](http://www.Bose.co.nz/warranty).

## Dane techniczne

---

**Wymiary:** 5,1 cm (wys.) x 6,4 cm (szer.) x 23,8 cm (głęb.)

**Waga:** 0,34 kg

## Załącznik A: Konfiguracja systemu SoundTouch™

# Konfiguracja przy użyciu aplikacji SoundTouch™

Jeśli nie można ukończyć konfiguracji sieci przy użyciu systemu UNIFY® lub jeśli nie przeprowadzono konfiguracji przy użyciu aplikacji SoundTouch™, należy pobrać i zainstalować aplikację sterującą SoundTouch™ firmy Bose® na smartfonie, tablecie lub komputerze podłączonym do tej sieci. Aplikacja przeprowadzi Cię przez proces podłączania systemu do sieci.

### Aktywowanie trybu konfiguracji na module

1. Naciśnij i przytrzymaj przez 1-8 sekund przycisk Control z tytułu modułu komunikacji bezprzewodowej SoundTouch™.
2. Kiedy pomarańczowy wskaźnik Wi-Fi® zacznie migać, zwolnij przycisk Control. Wskaźnik Wi-Fi powinien świecić na pomarańczowo.

### Dodawanie systemu do istniejącego konta SoundTouch™

Jeśli skonfigurowano już aplikację SoundTouch™ dla innego systemu, nie trzeba ponownie pobierać aplikacji SoundTouch™.

1. Na smartfonie lub tablecie wybierz ikonę SoundTouch™, aby uruchomić aplikację.
2. Wybierz kolejno opcje **EKSPLORUJ > USTAWIENIA > Systemy > DODAJ SYSTEM**, aby dodać kolejny system.

Aplikacja prowadzi użytkownika przez proces konfiguracji.

### Pobierz i zainstaluj aplikację SoundTouch™

Pobierz na smartfonie, tablecie lub komputerze aplikację sterującą SoundTouch™.



Bose® SoundTouch™  
controller app

- Użytkownicy systemu iOS: do pobrania w sklepie App Store
- Użytkownicy systemu Android™: do pobrania w sklepie Google Play™
- Użytkownicy urządzeń Amazon Kindle Fire: do pobrania w sklepie Amazon Appstore for Android
- Jeśli korzystasz z komputera, uruchom przeglądarkę internetową i przejdź do: [SoundTouch.com/app](http://SoundTouch.com/app)

### Podłącz system do domowej sieci Wi-Fi®

Po zainstalowaniu aplikacji dodaj system do sieci:

1. Na smartfonie, tablecie lub komputerze wybierz ikonę , aby uruchomić aplikację.  
Aplikacja przeprowadzi Cię przez proces podłączania systemu do sieci Wi-Fi.
2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlonymi w aplikacji, aby zakończyć konfigurację, włącznie z utworzeniem konta SoundTouch™ oraz dodaniem biblioteki muzycznej i usług muzycznych.

## Załącznik B: Montaż modułu komunikacji bezprzewodowej

### Aby zamontować moduł

Moduł można zamontować na ścianie (elementy montażowe są dostępne osobno). Jeśli elementy montażowe zostaną dostarczone wraz z instrukcjami, które będą inne niż te instrukcje, należy postępować zgodnie z instrukcjami dołączonymi do elementów montażowych.

W tej tabeli opisano parametry elementów montażowych.

Pozycja	Drewno	Płytaścienna
<b>Grubość ściany</b>	19 mm lub grubsza	9,5 mm lub grubsza
<b>Wiertło</b>	3 mm	4,5 mm
<b>Śruby z łbem stożkowym ściętym (2)</b>	32 mm	32 mm
<b>Plastikowe kołki rozporowe (2)</b>	Nie używany	25 mm


### Możliwości montażu

Dostępne są dwie metody montażu modułu:

- Pionowo, panelem złączy skierowanym w lewo
- Poziomo, panelem złączy skierowanym do góry

### Aby zamontować moduł

1. Wywierć dwa otwory odsunięte o 159 mm środek do środka.



2. Włożyć plastikowe kołki rozporowe (w przypadku montażu na płycieściennnej).
  3. Wkręć śruby z łbem stożkowym ściętym.
- Uwaga:** Łby śrub powinny wystawać na 6,35 mm nad powierzchnię ściany.
4. Umieść moduł na śrubach.



# Instruções de segurança importantes

Reserve um tempo para ler com atenção este guia e siga as Instruções de segurança importantes.

 O símbolo de raio com ponta de flecha dentro de um triângulo equilátero alerta o usuário para a presença de tensão não isolada e perigosa no compartimento do sistema cuja magnitude é suficiente para constituir risco de choque elétrico.

 O ponto de exclamação dentro de um triângulo equilátero, marcado no sistema, tem a finalidade de alertar o usuário para a presença de instruções importantes de operação e manutenção neste manual do proprietário.



## CUIDADOS:

- Não faça qualquer modificação no sistema ou nos acessórios.
- Alterações não autorizadas podem comprometer a segurança, a conformidade com as normas e o desempenho do sistema.



## ADVERTÊNCIAS:

- Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha o produto à chuva ou umidade.
- Não exponha este equipamento a goteiras ou respingos, nem coloque objetos de conteúdo líquido, como vasos, sobre ou próximo ao equipamento. Assim como qualquer produto eletrônico, tenha cuidado para não derramar líquido em qualquer componente do produto. A exposição a líquidos pode provocar falhas e/ou perigo de incêndio.
- Não coloque fontes de chama aberta, como velas acesas, sobre ou próximo do equipamento.

1. Leia estas instruções.
2. Guarde estas instruções.
3. Obedeça a todos os avisos.
4. Siga todas as instruções.
5. Não use este equipamento perto da água.
6. Limpe apenas com um pano seco.
7. Não obstrua as aberturas de ventilação. Instale de acordo com as instruções do fabricante.
8. Não o instale próximo a fontes de calor, como radiadores, registros de calor, fogões ou outros equipamentos (incluindo amplificadores) que produzam calor.
9. Use apenas acessórios especificados pelo fabricante.
10. Deixe todo e qualquer reparo a cargo de profissionais qualificados. A assistência é necessária quando o equipamento tiver sido danificado de qualquer forma, como se o cabo ou plugue da fonte de alimentação tiver sido danificado, se líquidos ou objetos tiverem caído para dentro do equipamento, ou o aparelho tiver sido exposto à chuva ou umidade, não funcionar normalmente, ou tiver caído.

## OBSERVAÇÕES:

- O rótulo do produto encontra-se na parte inferior do produto.
- O produto deve ser usado em ambientes fechados. Ele não foi projetado nem testado para uso em ambientes externos, em veículos de recreação ou em barcos.

## Informações importantes sobre conformidade

**Observação:** Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para dispositivos digitais da classe B, de acordo com a Parte 15 das normas da FCC.

Esses limites são determinados para garantir uma proteção razoável contra interferências prejudiciais em instalações residenciais. Este equipamento gera, usa e pode emitir energia de rádiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, poderá causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. Porém, não há garantias de que não haverá interferência em determinada instalação. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção dos sinais de rádio ou televisão, o que poderá ser determinado desligando e religando este equipamento, recomendamos que o usuário tente corrigir a interferência recorrendo a uma ou mais das seguintes medidas:

- Mude a orientação ou posição da antena receptora.
- Aumente a distância entre o equipamento e o receptor.
- Conecte o equipamento a uma tomada de um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.
- Consulte o revendedor ou um técnico especialista em rádio/TV para obter ajuda.

# Instruções de segurança importantes

## ALERTA DA FCC

Alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela Bose Corporation poderão anular a autoridade do usuário para usar este equipamento.

## Nos EUA e Canadá

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 do regulamento da FCC. O funcionamento está sujeito a estas duas condições:

- (1) Este equipamento não pode causar interferência prejudicial, e (2) este equipamento deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar funcionamento indesejado.

Este aparelho de classe B está em conformidade com ICES-003 / CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B).

Este dispositivo está de acordo com os limites de exposição de radiação de RF que a FCC e a Industry Canada estabeleceram para a população geral.

- Este dispositivo não deve estar no mesmo local ou funcionando em conjunto com outras antenas ou transmissores.
- Este dispositivo encontra-se em conformidade com os padrões RSS isentos de licença da Industry Canada. O funcionamento está sujeito a estas duas condições: (1) Este equipamento não pode causar interferência, e (2) este equipamento deve aceitar qualquer interferência, incluindo interferência que possa causar funcionamento indesejado.
- Este equipamento está de acordo com os limites de exposição de radiação que a FCC e a Industry Canada estabeleceram para um ambiente não controlado. Este equipamento deve ser instalado e operado com uma distância mínima de 20 cm entre o transmissor e o seu corpo.



A Bose Corporation declara pela presente que este produto está de acordo com os requisitos essenciais, bem como outras provisões relevantes, da Diretiva 1999/5/EC e todos os outros requisitos de diretivas aplicáveis da União Europeia. A declaração de conformidade completa está disponível no site [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance).



Este símbolo indica que o produto não deve ser descartado com o lixo doméstico e deve ser entregue em um local de coleta apropriado para reciclagem. O descarte adequado e a reciclagem ajudam a proteger os recursos naturais, a saúde humana e o meio ambiente. Para obter mais informações sobre o descarte e a reciclagem deste produto, entre em contato com a prefeitura, o serviço de descarte, o serviço de coleta de lixo do local ou a loja onde você comprou este produto.

Nomes e Conteúdos de Substâncias ou elementos tóxicos ou perigosos						
	Substâncias e elementos tóxicos ou perigosos					
Nome da peça	Chumbo (Pb)	Mercúrio (Hg)	Cádmio (Cd)	Hexavalente (Cr(VI))	Bifenilos polibromados (PBB)	Éter difenílico polibromado (PBDE)
Placas de circuitos integrados	X	O	O	O	O	O
Peças metálicas	X	O	O	O	O	O
Peças de plástico	O	O	O	O	O	O
Alto-falantes	X	O	O	O	O	O
Cabos	X	O	O	O	O	O

Esta tabela foi elaborada de acordo com as disposições da norma SJ/T 11364.

O: Indica que esta substância tóxica ou perigosa contida em todos os materiais homogêneos desta peça está abaixo do limite em GB/T 26572.

X: Indica que esta substância tóxica ou perigosa contida em pelo menos um dos materiais homogêneos utilizados nesta peça está acima do limite em GB/T 26572.

# Informações regulamentares

## **Preencha e guarde para referência futura:**

Os números de série e de modelo encontram-se embaixo do sistema.

Número de série: \_\_\_\_\_

Número do modelo: \_\_\_\_\_

Data da compra: \_\_\_\_\_

Sugerimos que guarde a sua fatura com este manual do proprietário.

App Store é uma marca de serviço da Apple Inc.

Amazon, Kindle e Fire são marcas comerciais da Amazon.com, Inc. ou de suas afiliadas.

Android e Google Play são marcas comerciais da Google, Inc.

A marca nominativa e os logotipos *Bluetooth*® são marcas comerciais registradas pertencentes à Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização de tais marcas pela Bose Corporation é feita sob licença.



iHeartRadio é uma marca registrada da iHeartMedia, Inc.

iTunes é uma marca comercial da Apple Inc., registrada nos EUA e em outros países.

Os termos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface e o logotipo HDMI são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da HDMI Licensing LLC nos Estados Unidos e em outros países.

Este produto inclui o software Spotify, que está sujeito às licenças de terceiros encontradas aqui: [www.spotify.com/connect/third-party-license](http://www.spotify.com/connect/third-party-license).

Spotify é uma marca registrada da Spotify AB.

SoundTouch e o design de nota Wi-Fi são marcas registradas da Bose Corporation nos EUA e em outros países.

Wi-Fi é uma marca registrada da Wi-Fi Alliance®.

Windows é uma marca comercial registrada da Microsoft Corporation nos EUA e em outros países.

©2015 Bose Corporation. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida, modificada, distribuída ou utilizada de qualquer outra forma sem a prévia autorização por escrito.

## Introdução

SoundTouch™ .....	7
Benefícios do sistema .....	7

## SoundTouch™

Acessando o SoundTouch™ .....	8
Seleção da fonte SoundTouch™ .....	8
Usando a tela da fonte SoundTouch™ .....	9
O que você pode fazer .....	9
Como funcionam as predefinições .....	10
O que você precisa saber .....	10
Reproduzindo uma predefinição .....	10
Configuração de uma predefinição .....	10
Localização do conteúdo reproduzido recentemente .....	11

## Bluetooth®

Acessando o Bluetooth® .....	12
Selecionando a fonte Bluetooth® .....	12
Usando a tela da fonte Bluetooth® .....	13
Apagando a lista de emparelhamento de Bluetooth® do sistema ...	13

## Controlando o sistema usando o aplicativo

Usando o aplicativo SoundTouch™ .....	14
Como obter ajuda .....	14
Controlando o sistema por outro smartphone, tablet ou computador .....	14

## Recursos avançados

Botão Control .....	15
Indicador Wi-Fi® .....	15
Desativando o recurso Wi-Fi® .....	15
Reativando o recurso Wi-Fi® .....	15
Reiniciando o adaptador .....	16

# Índice

---

## Cuidados e manutenção

Solução de problemas .....	17
Adicionando uma rede Wi-Fi® .....	18
Limpeza .....	18
Serviço de atendimento ao cliente .....	18
Garantia limitada .....	18
Informações técnicas.....	18

## Apêndice A: Configuração do SoundTouch™

Configuração usando o aplicativo SoundTouch™ .....	19
Ative o modo de configuração no adaptador .....	19
Adicione o sistema a uma conta SoundTouch™ existente .....	19
Baixe e instale o aplicativo SoundTouch™ .....	19
Conecte o sistema à sua rede Wi-Fi® doméstica .....	19

## Apêndice B: Montagem do adaptador sem fio

Montando o adaptador .....	20
Opções de montagem.....	20
Para montar o adaptador.....	20

## SoundTouch™

Seu sistema de música sem fio SoundTouch™ fornece áudio claro e abrangente transmitido sem fio por sua rede Wi-Fi doméstica. Com o SoundTouch™, é possível transmitir rádio de Internet, serviços de música e a sua biblioteca de música.

Se houver uma rede Wi-Fi® instalada em sua casa e um sistema de entretenimento compatível com o SoundTouch™, você está pronto para curtir suas músicas favoritas em qualquer ambiente da casa. Obtenha as instruções de configuração no manual do proprietário do sistema.

**Observação:** Se você comprou o adaptador como um acessório, consulte o guia de início rápido para obter instruções de instalação.

### Benefícios do sistema

- Permite que seu sistema de entretenimento Bose faça o streaming sem fio de músicas usando o SoundTouch™.
- Desfrute do acesso a estações de rádio na Internet, serviços de música e sua biblioteca de música.
- Adiciona a fonte SoundTouch™, que permite ver e controlar predefinições, conteúdo recente e em reprodução na TV.
- O aplicativo SoundTouch™ permite explorar rádio na Internet, serviços de música (quando disponíveis) e a biblioteca de música de seu computador, smartphone ou tablet.
- Personalize até seis predefinições para reproduzir suas músicas com apenas um toque em seu controle remoto.
- Configuração sem fio a partir do seu smartphone ou tablet.
- Funciona com sua rede Wi-Fi doméstica atual.
- Transmite música a partir de dispositivos habilitados para Bluetooth®.
- Basta adicionar novos sistemas a qualquer momento para ouvir música em vários ambientes da casa.
- Uma vasta seleção de sistemas de áudio da Bose® permite-lhe escolher a solução certa para qualquer ambiente.

# SoundTouch™

## Acessando o SoundTouch™

Você pode acessar o SoundTouch™ usando o menu SOURCE de seu sistema de entretenimento ou o aplicativo SoundTouch™.

- **Fonte SoundTouch™:** Oferece um subconjunto de recursos do SoundTouch™ que permitem reproduzir conteúdo recente e personalizar predefinições.
- **Aplicativo SoundTouch™:** Oferece controle total do SoundTouch™, permitindo gerenciar as configurações de seu sistema, explorar rádio na Internet, configurar e alterar predefinições, fazer streaming música para o sistema, ver o que está sendo reproduzido e muito mais.

## Seleção da fonte SoundTouch™

A fonte SoundTouch™ permite controlar predefinições, conteúdo recente e em reprodução usando o controle remoto do sistema.

1. Ligue o sistema.
2. Pressione o botão **SOURCE** do controle remoto.



**Dica:** Você também pode pressionar o botão SOURCE no console de controle.


3. Selecione **SoundTouch™**.

## Usando a tela da fonte SoundTouch™

Usando o controle remoto, você pode acessar um subconjunto de recursos do SoundTouch™ na tela da fonte.

### O que você pode fazer

- Personalizar e reproduzir predefinições (página 10).
- Reproduzir conteúdo recente (página 11).
- Ver as informações disponíveis do artista no painel REPRODUZINDO AGORA.
- Controlar a reprodução (reproduzir, pausar, parar, pular para a próxima faixa etc.).
- Ver a fonte de música do conteúdo no painel REPRODUZINDO AGORA.



Para ter um controle maior de seu sistema SoundTouch™, consulte “Usando o aplicativo SoundTouch™” na página 14.

## Como funcionam as predefinições

---

Você pode personalizar seis predefinições para seus serviços favoritos de streaming de música, estações, listas de reprodução, artistas, álbuns ou músicas de sua biblioteca de música. Você pode acessar suas músicas a qualquer momento usando o aplicativo SoundTouch™ em seu computador, smartphone, tablet, ou a fonte SoundTouch™ em seu sistema de entretenimento.

### O que você precisa saber

- Você pode configurar as predefinições no aplicativo e em seu sistema de entretenimento.
- Se a fonte da predefinição for sua biblioteca de música do iTunes ou do Windows Media Player, verifique se o computador que armazena sua biblioteca de música está ligado e conectado à mesma rede do sistema SoundTouch™.

## Reproduzindo uma predefinição

---

Depois de personalizar suas predefinições, selecione uma predefinição usando o controle remoto ou o aplicativo para reproduzi-la.

**Observação:** Se nenhuma música tocar, consulte “Configuração de uma predefinição”.

## Configuração de uma predefinição

---

1. Faça o streaming de músicas para seu sistema de entretenimento usando o aplicativo ou a fonte SoundTouch™.
2. Enquanto a música estiver em reprodução, pressione um número de predefinição no controle remoto por aproximadamente 2 segundos.

**Observação:** Para obter informações sobre como usar o aplicativo SoundTouch™ para configurar e alterar suas predefinições, consulte a ajuda do aplicativo.

# Localização do conteúdo reproduzido recentemente

A lista Recentes exibe os 50 itens reproduzidos mais recentemente no SoundTouch™.

## 1. Selecione Ir para Recentes.

Ir para Recentes



O painel RECENTES será exibido.

Conteúdo reproduzido recentemente



## 2. Selecione um item.

## **Bluetooth®**

### **Acessando o Bluetooth®**

Você pode acessar o *Bluetooth* usando o menu SOURCE de seu sistema de entretenimento ou o aplicativo SoundTouch™.

#### **Selecionando a fonte Bluetooth®**

A fonte *Bluetooth* permite emparelhar e controlar seus dispositivos habilitados para *Bluetooth* usando o controle remoto do sistema.

1. Ligue o sistema.
2. Pressione o botão **SOURCE** do controle remoto.

O menu SOURCE será exibido.



**Dica:** Você também pode pressionar o botão SOURCE no console de controle.


3. Selecione **Bluetooth®**.

## Usando a tela da fonte Bluetooth®

Usando o controle remoto, você pode acessar um subconjunto de recursos Bluetooth na tela da fonte.

### O que você pode fazer

- Emparelhar e conectar seus dispositivos habilitados para Bluetooth.
- Ver as informações disponíveis do artista no painel REPRODUZINDO AGORA.
- Ver os dispositivos conectados.
- Controlar a reprodução (reproduzir, pausar, parar, pular para a próxima faixa etc.).
- Apagar a lista de emparelhamento.



## Apagando a lista de emparelhamento de Bluetooth® do sistema

Ao emparelhar um dispositivo habilitado para Bluetooth com seu sistema, a conexão é armazenada na lista de emparelhamento do sistema. Talvez seja preciso apagar a lista de emparelhamento se você não conseguir conectar um dispositivo. Uma vez apagada a lista, você deverá emparelhar os dispositivos emparelhados anteriormente outra vez.

1. Pressione o botão do controle remoto.
2. Selecionar .

Uma mensagem similar a *Lista de emparelhamento apagada* aparecerá na tela.

O sistema está pronto para emparelhar um dispositivo.

# Controlando o sistema usando o aplicativo

## **Usando o aplicativo SoundTouch™**

O aplicativo SoundTouch™ é um software que permite configurar e controlar o SoundTouch™ a partir de seu smartphone, tablet ou computador. Usando o aplicativo, seu dispositivo inteligente atua como um controle remoto avançado de seu sistema SoundTouch™.

O aplicativo permite-lhe gerenciar as configurações do SoundTouch™, adicionar serviços de música, buscar estações de rádio locais e globais na Internet, configurar e alterar predefinições, fazer streaming de música para o sistema, ver o que está sendo reproduzido e muito mais.

Depois de configurar o sistema na rede usando o aplicativo SoundTouch™, você estará pronto para explorar a transmissão de música e personalizar suas predefinições.

### **Como obter ajuda**

#### **SoundTouch.com**

Fornece acesso ao centro de atendimento ao proprietário, que inclui: manuais do proprietário, artigos, dicas, tutoriais, uma videoteca e a comunidade de proprietários onde você postar perguntas e respostas.

1. Abra um navegador.
2. No campo de endereço, digite SoundTouch.com.

#### **Ajuda do aplicativo**

Fornece artigos de ajuda para usar o SoundTouch™.

1. No seu dispositivo, selecione  para abrir o aplicativo.
2. No painel EXPLORAR, selecione **AJUDA**.

## **Controlando o sistema por outro smartphone, tablet ou computador**


Depois de instalar o sistema SoundTouch™ em sua rede Wi-Fi® doméstica, você pode controlar o sistema por qualquer smartphone, tablet ou computador na mesma rede.

1. Conecte o dispositivo à mesma rede do sistema.
2. No dispositivo, baixe e instale o aplicativo SoundTouch™:
  - Usuários do iOS: baixe da App Store.
  - Usuários do Android™: baixe da Google Play™ Store.
  - Usuários do Amazon Kindle Fire: baixe da Amazon Appstore para Android.
  - Se você estiver usando um computador, abra o navegador e acesse:  
**SoundTouch.com/app**

### Botão Control

---

O adaptador sem fio SoundTouch™ oferece uma funcionalidade avançada ao pressionar o botão Control por alguns segundos.



### Indicador Wi-Fi®

---

O indicador Wi-Fi na parte de trás do adaptador indica o status do Wi-Fi.

Indicador de atividade	Estado do sistema
Piscando em branco	Conectando à rede Wi-Fi
Branco fixo	O sistema está ligado e conectado à rede Wi-Fi
Âmbar fixo	Sistema no modo de configuração
Piscando lentamente em âmbar	Desconectado da rede Wi-Fi
Piscando rapidamente em âmbar	Erro de firmware – ligue para a assistência da Bose
Apagado	Conexão à rede Wi-Fi desativada ou sistema conectado via Ethernet

### Desativando o recurso Wi-Fi®

---

Desativar o Wi-Fi também desativa o recurso Bluetooth®.

1. Ligue o sistema de entretenimento.
2. Pressione o botão Control do adaptador por 8-10 segundos.
3. Quando o indicador Wi-Fi se apagar, solte o botão Control.

### Reativando o recurso Wi-Fi®

---

Reativar o Wi-Fi também reativa o recurso Bluetooth®.

1. Ligue o sistema de entretenimento.
2. Pressione o botão Control do adaptador.

## Recursos avançados

### **Reiniciando o adaptador**

Restaurar as configurações de fábrica apaga todas as configurações de fontes e rede do sistema.

**Observação:** Essa função de restauração apaga as predefinições do SoundTouch™ e as credenciais de rede salvas.

1. Ligue o sistema de entretenimento.
2. Desconecte o cabo Bose® link.
3. Pressione o botão Control por alguns segundos enquanto reconecta o cabo.
4. Inicie o aplicativo SoundTouch™ em seu computador e adicione o sistema à rede.

## Solução de problemas

Problema	O que fazer
Não é possível concluir a configuração de rede ou não é possível detectar o adaptador	<ul style="list-style-type: none"> <li>Conecte o adaptador sem fio SoundTouch™ ao conector Bose link no console de controle.</li> <li>Conecte o cabo USB ao adaptador sem fio e ao console de controle. Esse cabo deve permanecer conectado para que o sistema funcione adequadamente.</li> <li>Conecte o sistema à tomada CA (de rede elétrica).</li> <li>Selecione o nome da rede correta e digite a senha.</li> <li>Conecte o dispositivo e o sistema SoundTouch™ à mesma rede Wi-Fi®.</li> <li>Coloque o adaptador sem fio dentro do alcance do roteador.</li> <li>Ative o Wi-Fi no dispositivo (celular ou computador) que você está usando para instalação.</li> <li>Feche outros aplicativos abertos.</li> <li>Se estiver usando um computador para a instalação, verifique as configurações do firewall para garantir que o aplicativo SoundTouch™ e o SoundTouch™ Music Server sejam programas permitidos.</li> <li>Teste sua conexão com a Internet carregando <a href="http://www.SoundTouch.com">www.SoundTouch.com</a>.</li> <li>Reinicie o dispositivo móvel ou computador e o roteador.</li> <li>Reinicie o sistema SoundTouch™ (consulte o sistema de ajuda no aplicativo).</li> <li>Desinstale o aplicativo, restaure as configurações padrão do sistema e reinicie a instalação.</li> <li>Revele sua rede se ela estiver oculta para concluir a configuração.</li> </ul>
Não é possível conectar à rede	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se sua rede tiver mudado ou para conectar o sistema a outra rede, consulte o sistema de ajuda do aplicativo.</li> <li>Conecte à rede usando um cabo Ethernet.</li> </ul>
SoundTouch™ ou Bluetooth® não aparece no menu de fontes	<ul style="list-style-type: none"> <li>Atualize o console de controle. Consulte o guia de operação do sistema de entretenimento.</li> <li>Verifique se o cabo Bose® link e o cabo USB estão totalmente conectados ao adaptador sem fio e ao console de controle. Esses cabos devem permanecer conectados para que o sistema funcione adequadamente.</li> <li>Conclua a configuração do SoundTouch™. Consulte a página 19.</li> </ul>
Não é possível reproduzir áudio por Bluetooth®	<p>Em seu sistema:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Emparelhe um dispositivo usando a tela da FONTE Bluetooth (página 13).</li> <li>Tente emparelhar um dispositivo diferente.</li> <li>Consulte “Sem áudio” no guia de operação do sistema.</li> <li>Configure o SoundTouch™ primeiro e execute todas as atualizações do sistema.</li> <li>Apague a lista de emparelhamento do sistema (página 13).</li> </ul> <p>Em seu dispositivo móvel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Desative e reactive o recurso Bluetooth.</li> <li>Remova o sistema do menu Bluetooth. Emparelhe novamente.</li> <li>Consulte a documentação do dispositivo habilitado para Bluetooth.</li> </ul>

## Cuidados e manutenção

---

### Adicionando uma rede Wi-Fi®

---

Se as informações de sua rede mudarem, ou para conectar seu sistema a outra rede, você deverá adicionar as novas informações da rede em Network Setup (configuração de rede) no menu UNIFY® do sistema de entretenimento.

1. Ligue o sistema de entretenimento.
2. Pressione o botão **Setup** no painel de botões do console de controle.  
O menu UNIFY será exibido.
3. Selecione **Network setup** (configuração de rede).
4. Siga as instruções apresentadas na tela para alterar a rede.

## Limpeza

---

Para limpar o adaptador sem fio SoundTouch™, limpe a parte externa com um pano macio e seco.

- Não utilize solventes, produtos químicos ou sprays.
- Não deixe que líquidos ou objetos caiam nas aberturas do produto.

## Serviço de atendimento ao cliente

---

Para obter ajuda adicional sobre o uso do sistema:

- Visite SoundTouch.com.
- Entre em contato com o serviço de atendimento ao cliente da Bose®. Consulte a folha de contatos na embalagem.

## Garantia limitada

---

O adaptador sem fio SoundTouch™ é coberto por uma garantia limitada.

Os detalhes da garantia limitada são fornecidos na folha Instruções de segurança importantes, incluída na embalagem. Consulte a folha Instruções de segurança importantes para obter instruções sobre como se registrar. Se não o fizer, isso não irá afetar seus direitos na garantia limitada.

As informações de garantia fornecidas com este produto não se aplicam na Austrália e na Nova Zelândia. Consulte nosso site em [www.Bose.com.au/warranty](http://www.Bose.com.au/warranty) ou [www.Bose.co.nz/warranty](http://www.Bose.co.nz/warranty) para obter detalhes sobre a garantia na Austrália e na Nova Zelândia.

## Informações técnicas

---

**Tamanho:** 5,1 cm A x 6,4 cm L x 23,8 cm P

**Peso:** 0,34 kg

## **Apêndice A: Configuração do SoundTouch™**

### **Configuração usando o aplicativo SoundTouch™**

Se você não conseguir concluir a configuração de rede pelo UNIFY® nem pelo aplicativo SoundTouch™, baixe e instale o aplicativo controlador Bose® SoundTouch™ em um smartphone, tablet ou computador que esteja conectado à sua rede. O aplicativo explica como conectar o sistema à rede.

#### **Ative o modo de configuração no adaptador**

1. Na parte de trás do adaptador sem fio SoundTouch™, pressione o botão Control por 1-8 segundos.
2. Quando o indicador âmbar do Wi-Fi® piscar, solte o botão Control. O indicador Wi-Fi deve estar âmbar e estável.

#### **Adicione o sistema a uma conta SoundTouch™ existente**

Se você já configurou o SoundTouch™ para outro sistema, não é necessário baixar novamente o aplicativo SoundTouch™.

1. No seu smartphone ou tablet, selecione o ícone do SoundTouch™  para iniciar o aplicativo.
2. Selecione **EXPLORAR > CONFIGURAÇÕES > Sistemas > ADICIONAR SISTEMA** para adicionar outro sistema.

O aplicativo orientará você durante a configuração.

#### **Baixe e instale o aplicativo SoundTouch™**

No seu smartphone, tablet ou computador, baixe o **aplicativo controlador SoundTouch™**.



**Bose® SoundTouch™ controller app**

- Usuários do iOS: baixe da App Store.
- Usuários do Android™: baixe da Google Play™ Store.
- Usuários do Amazon Kindle Fire: baixe da Amazon Appstore para Android.
- Se você estiver usando um computador, abra o navegador e acesse:  
**SoundTouch.com/app**

#### **Conecte o sistema à sua rede Wi-Fi® doméstica**

Depois de instalar o aplicativo, adicione o sistema à rede:

1. No seu smartphone, tablet ou computador, selecione  para iniciar o aplicativo.  
O aplicativo explica como conectar o sistema à rede Wi-Fi.
2. Siga as instruções no aplicativo para concluir a instalação, incluindo a criação de uma conta SoundTouch™, adição de uma biblioteca de música e serviços de música.

## Apêndice B: Montagem do adaptador sem fio

### Montando o adaptador

Você pode montar o adaptador na parede (ferragens não fornecidas). Se as ferragens de montagem vierem com instruções diferentes destas instruções, siga as instruções fornecidas pelas ferragens.

Esta tabela descreve as especificações das ferragens de montagem.

Item	Madeira	Placa de parede
<b>Espessura da parede</b>	19 mm ou mais espessa	9,5 mm ou mais espessa
<b>Broca</b>	3 mm	4,5 mm
<b>Parafusos de madeira de cabeça chata (2)</b>	#8 x 1 32 mm	#8 x 1 32 mm
<b>Buchas de plástico (2)</b>	Não usados	#6-8x de 25 mm


### Opções de montagem

Há duas maneiras de montar o adaptador:

- Verticalmente; painel de conectores virado para a esquerda.
- Horizontalmente; painel de conectores virado para cima.

### Para montar o adaptador

1. Perfure dois buracos de 159 mm centro a centro.



2. Insira as buchas de plástico (se for montar na placa de parede).

3. Instale parafusos de madeira de cabeça chata.

**Observação:** Deixe as cabeças dos parafusos a 6,35 mm acima da superfície da parede.

4. Posicione o adaptador nos parafusos.



# Viktiga säkerhetsanvisningar

Läs noga igenom den här bruksanvisningen och följ säkerhetsanvisningarna.

 Blixtsymbolen med pilhuvudet i en liksidig triangel uppmärksammar dig på att det i systemet finns oisolerad farlig spänning, som kan vara tillräckligt stark för att orsaka elektriska stötar.

 Utropstecknet inuti en liksidig triangel, på systemet, är avsett att upplysa dig om att det finns viktiga anvisningar om skötsel och underhåll av systemet i denna handbok.

## TÄNK PÅ:

- Ändra inte systemet eller tillbehören på något sätt.
- Otilåtna ändringar kan äventyra säkerheten, efterlevandet av bestämmelser samt systemets prestanda.

## VARNINGAR:

- För att minska risken för brand och elektriska stötar ska du undvika att utsätta produkten för regn eller fukt.
- Utsätt inte systemet för väta och placera inga föremål som exempelvis vaser fyllda med vatten på systemet eller i dess närhet. Precis som med andra elektroniska produkter ska du vara försiktig så att du inte spiller vätska i någon del av produkten. Fel och/eller eldsvåda kan uppstå om vätska spills på produkten.
- Tända ljus eller andra föremål med öppna lågor får inte placeras på eller i näheten av produkten.

1. Läs de här anvisningarna.
2. Behåll anvisningarna.
3. Ge akt på alla varningar.
4. Följ alla anvisningar.
5. Använd inte produkten i näheten av vatten.
6. Rengör endast med en torr trasa.
7. Blockera inte ventilationsöppningarna. Installera produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
8. Installera inte produkten nära någon värmekälla som exempelvis radiatorer, värmespjäll och spisar eller någon annan apparat (inklusive förstärkare) som avger värme.
9. Använd bara den utrustning/de tillbehör som rekommenderas till tillverkaren.
10. Låt utbildad personal utföra all service. Underhåll krävs när apparaten skadats på något sätt, t.ex. om elkabel eller kontakt har skadats, vätska har spillts i apparaten eller främmande föremål har hamnat i den, om apparaten har utsatts för regn eller fukt, om apparaten inte fungerar felritt eller har tappats.

## TÄNK PÅ FÖLJANDE:

- På undersidan finns en etikett med information om produkten.
- Produkten får bara användas inomhus. Den har inte konstruerats eller testats för utomhus bruk eller för användning på båtar eller i husvagnar/bilar.

## Viktig information om efterlevnad

**Obs!** Den här utrustningen har testats och befunnits överensstämma med gränsvärdena för digitala enheter enligt klass B, i enlighet med del 15 i FCC:s bestämmelser. Gränsvärdena är avsedda att ge rimligt skydd mot skadliga störningar vid installation i bostäder. Den här utrustningen genererar, använder och kan avge radiofrekvensenergi, och om utrustningen inte installeras och används i enlighet med anvisningarna kan den orsaka skadliga störningar i samband med radiokommunikation. Det ges dock ingen garanti för att det inte kan förekomma skadliga störningar i en viss installation. Om den här utrustningen stör mottagningen i en radio- eller TV-apparat (vilket kan upptäckas genom att utrustningen stängs av och sätts på) rekommenderar vi att du försöker motverka störningen genom att vidta en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett eluttag i en annan strömkrets än den som mottagaren är ansluten till.
- Vänd dig till din återförsäljare eller en erfaren radio-/TV-reparatör för att få hjälp.

# Viktiga säkerhetsanvisningar

## FCC-VARNING

Om utrustningen ändras eller modifieras på något sätt, som inte uttryckligen har godkänts av Bose Corporation, kan medföra att användarens rätt att använda produkten upphävs.

## I USA och Kanada

Den här enheten överensstämmer med del 15 i FCC:s bestämmelser. Följande två villkor ställs för användningen:

(1) Enheten får inte orsaka skadliga störningar och (2) enheten måste tåla alla former av störningar som den tar emot, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift av enheten.

Denna klass B-produkt uppfyller villkoren enligt ICES-003 / CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B).

Denna enhet uppfyller FCC- och Industry Canada-bestämmelserna angående gränsvärden för radiofrekvensexponering för produkter för generella användningsområden.

- Enheten får inte kopplas samman med annan produkt eller användas tillsammans med annan antenn eller sändare.
- Den här enheten uppfyller villkoren enligt RSS-standarden i Industry Canada-licensundantaget. Följande två villkor ställs för användningen: (1) Enheten får inte orsaka störningar och (2) enheten måste tåla alla former av störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift av enheten.
- Den här utrustningen uppfyller de gränsvärden som är uppställda för strålningsexponering enligt FCC och Industry Canada. Den här utrustningen ska inte installeras och användas på ett avstånd mindre än 20 cm mellan radiatorn och din kropp.



Härmed förklarar Bose Corporation att denna produkt i alla väsentliga avseenden uppfyller de krav och föreskrifter som uppstälts enligt direktivet 1999/5/EG och andra tillämpliga EG-direktiv. En komplett försäkran om överensstämelse finns på [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance).



Den här symbolen betyder att produkten inte ska kastas med hushållssoporna utan återvinnas i enlighet med lokala bestämmelser. Rätt deponering och återvinning hjälper till att skydda våra naturresurser, vår hälsa och miljö. Mer information om deponering och återvinning av produkten får du om du kontaktar lokala myndigheter, deponeringscentraler eller affären där du köpte produkten.

Namn och innehåll på giftiga eller farliga ämnen eller delar						
	Giftiga eller farliga ämnen och delar					
Namn	Bly (Pb)	Kvicksilver (Hg)	Kadmium (Cd)	Sexvärt krom (Cr(VI))	Polyklorerad bifenyl (PBB)	Polyklorerad diphenyl ether (PBDE)
PCB:er	X	O	O	O	O	O
Metall	X	O	O	O	O	O
Plast	O	O	O	O	O	O
Högtalare	X	O	O	O	O	O
Kablar	X	O	O	O	O	O

Den här tabellen är uppställd i enlighet med bestämmelserna i SJ/T 11364.

O: Anger att detta giftiga eller farliga ämne som ingår i alla homogena material i den här artikeln ligger under gränsvärdena uppställda i GB/T 26572.

X: Anger att detta giftiga eller farliga ämne som ingår i minst ett av de homogena materialen i den här artikeln ligger över gränsvärdena uppställda i GB/T 26572

# Förordningar

---

## Fyll i uppgifterna och håll reda på var du förvarar dem:

Serie- och modellnummer finns på undersidan av systemet.

Serienummer: \_\_\_\_\_

Modellnummer: \_\_\_\_\_

Inköpssdatum: \_\_\_\_\_

Vi föreslår att du sparar inköpskvittot tillsammans med den här bruksanvisningen.

App Store är ett tjänstmärke som tillhör Apple Inc.

Amazon, Kindle och Fire är varumärken som tillhör Amazon.com, Inc. eller dess dotterbolag.

Android och Google Play är varumärken som tillhör Google, Inc.

Ordet *Bluetooth*® och logotypen är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och Bose Corporation använder dem under licensansvar.



iHeartRadio är ett registrerat varumärke som tillhör iHeartMedia, Inc.

iTunes är ett varumärke som tillhör Apple Inc, registrerat i USA och i andra länder.

Begreppen HDMI och HDMI High-Definition Multimedia Interface samt HDMI Logo är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing, LLC i USA och andra länder.

Den här produkten har stöd för programvaran Spotify, som omfattas av tredjepartslicenser som du hittar här: [www.spotify.com/connect/third-party-license](http://www.spotify.com/connect/third-party-license)

Spotify är ett registrerat varumärke som tillhör Spotify AB.

SoundDock och den trådlösa notens design är varumärken som tillhör Bose Corporation i USA och andra länder.

Wi-Fi är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance®.

Windows är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder.

©2015 Bose Corporation. Ingen del av detta dokument får återges, modifieras, distribueras eller användas på något annat sätt utan föregående skriftlig tillåtelse.

**Inledning**

SoundTouch™ .....	7
Systemfördelar .....	7

**SoundTouch™**

Använda SoundTouch™-systemet .....	8
Välja SoundTouch™-källenheten .....	8
Använda skärmen på källenheten för SoundTouch™ .....	9
Vad du kan göra .....	9
Så här fungerar förval .....	10
Bra att veta .....	10
Spela upp ett förval .....	10
Ställa in ett förval .....	10
Hitta det senast spelade innehållet.....	11

**Bluetooth®**

Använda Bluetooth® .....	12
Använda Bluetooth®-källenheten.....	12
Använda skärmen på källenheten för Bluetooth® .....	13
Rensa systemets synkroniseringslista för Bluetooth® .....	13

**Kontrollera systemet med appen**

Använda SoundTouch™-appen .....	14
Hämta hjälp.....	14
Kontrollera systemet från annan smarttelefon, surfplatta eller dator .....	14

**Avancerade funktioner**

Kontrollknappen.....	15
Indikator för trådlöst Wi-Fi®-nätverk.....	15
Inaktivera det trådlösa Wi-Fi®-nätverket .....	15
Återaktivera det trådlösa Wi-Fi®-nätverket .....	15
Återställa adapttern .....	16

# Innehåll

---

## Skötsel och underhåll

Felsökning.....	17
Lägga till ett trådlöst nätverk .....	18
Rengöring.....	18
Kundtjänst.....	18
Begränsad garanti .....	18
Teknisk information.....	18

## Bilaga A: Ställa in SoundTouch™

Använda SoundTouch™-appen .....	19
Aktivera adaptern .....	19
Lägga till systemet i ett befintligt SoundTouch™-konto.....	19
Ladda ned och installera SoundTouch™-appen.....	19
Ansluta systemet till det trådlösa nätverket hemma.....	19

## Bilaga B: Väggmontering av den trådlösa adapttern

Montera adapttern.....	20
Monteringsalternativ.....	20
Montera adapttern .....	20

## SoundTouch™

---

Musiksystemet SoundTouch™ ger dig ett klart strömmande ljud som fyller upp hemmet via det trådlösa nätverket. Med SoundTouch™ kan du strömma webbradio, musiktjänster och ditt musikarkiv.

Om du har ett trådlöst Wi-Fi®-nätverk och ett SoundTouch™-system i hemmet kan du njuta av din favoritmusik i alla rum. I bruksanvisningen som medföljer systemet finns installationsanvisningar.

**Obs!** Om du köpt en adapter ska du läsa snabbguiden för att få installationsanvisningar.

## Systemfördelar

- Med hjälp av ditt SoundTouch™-system kan du spela upp musik trådlöst i Bose-underhållningssystemet.
- Lyssna på webbradio, musiktjänster och ditt musikarkiv via den trådlösa anslutningen.
- Med SoundTouch™ kan du direkt på TV:n visa och kontrollera dina förval, det senast spelade och vad som spelas för närvarande.
- Med den kostnadsfria SoundTouch™-appen kan du utforska webbradiostationer, musiktjänster och musikarkivet från datorn, smarttelefonen eller surfplattan.
- Anpassa upp till sex förval så att du med bara en knapptryckning på fjärrkontrollen kan lyssna på den musik som du känner för.
- Trådlös anslutning till en smarttelefon eller surfplatta.
- Fungerar i ditt befintliga hemmanätverk.
- Strömma musik från Bluetooth®-aktiverade enheter.
- Enkelt att lägga till fler system när som helst för att kunna lyssna i fler rum.
- Ett stort utbud av ljudsystem från Bose® gör att du kan välja rätt lösning för alla rum.

# SoundTouch™

## Använda SoundTouch™ -systemet

Du öppnar SoundTouch™ via menyn KÄLLA på underhållningssystemet eller via SoundTouch™-appen.

- SoundTouch™-källenheten: Här finns ett antal SoundTouch™-funktioner som du kan välja för att spela upp det du spelade senast och för att anpassa förval.
- SoundTouch™-appen: Med appen får du full kontroll över SoundTouch™. Du kan bland annat administrera systeminställningar, utforska webbradiostationer, strömma musik till systemet och visa vad som spelas för närvarande.

## Välja SoundTouch™ -källenheten

Via SoundTouch™-källenheten och systemets fjärrkontroll kan du kontrollera dina förval, det senast spelade och vad som spelas för närvarande.

1. Sätt på systemet.
2. Tryck på knappen **SOURCE** på fjärrkontrollen.  
Källmenyn öppnas.



**Tips!** Du kan även trycka på SOURCE-knappen på kontrollkonsolen.


3. Välj **SoundTouch™**.

# Använda skärmen på källenheter för SoundTouch™

Via fjärrkontrollen får du tillgång till ett antal SoundTouch™-funktioner på källenhetsens skärm.

## Vad du kan göra

- Anpassa och spela upp förval (sidan 10).
- Spela upp det senast uppspelade (sidan 11).
- Visa tillgänglig information om artister på panelen SPELAS NU.
- Kontrollera uppspelning (spela upp, pausa, stoppa, hoppa till nästa spår, osv.)
- Visa musikkällan för innehållet på panelen SPELAS NU.



Om du vill veta mer om hur du kontrollerar SoundTouch™-systemet ska du läsa "Använda SoundTouch™-appen" på sidan 14.

## Så här fungerar förval

---

Du kan anpassa sex förval för strömmande musiktjänster, stationer, spellistor, artister, album och låtar från musikarkivet. Du kan när som helst komma åt din musik via SoundTouch™-appen på datorn, smarttelefonen, surfplattan eller via SoundTouch™-källenheten i underhållningssystemet.

### Bra att veta

- Du kan ställa in förval från appen eller underhållningssystemet.
- Om förvalskällan är ett musikarkiv i iTunes- eller Windows Media Player måste datorn där du har musikbiblioteket vara påslagen och ansluten till samma nätverk som SoundTouch™-systemet.

## Spela upp ett förval

---

När du anpassat dina förval väljer du ett av dem med fjärrkontrollen eller appen för att använda dig av det.

**Obs!** Om du inte hör musik ska läsa "Ställa in ett förval".

### Ställa in ett förval

---

1. Strömma musik till underhållningssystemet med hjälp av appen eller SoundTouch™-källenheten.
2. Tryck och håll ned ett förvalsnummer på fjärrkontrollen i cirka två sekunder medan musiken spelas.

**Obs!** Information om hur du använder SoundTouch™-appen för att ställa in och ändra dina förval finns i hjälpen för appen.

## Hitta det senast spelade innehållet

Listan med de senast spelade visar de 50 senast spelade låtarna i SoundTouch™.

- Välj **Gå till senaste**.

Gå till  
Senaste



Panelen SENASTE öppnas.

Senast  
spelat  
innehåll



- Välj ett av alternativen.

## Använda Bluetooth®

Du öppnar *Bluetooth* med hjälp av menyn KÄLLA på underhållningssystemet eller via SoundTouch™-appen.

### Använda *Bluetooth*-källenheten

Med *Bluetooth*-källenheten kan du synkronisera och kontrollera dina *Bluetooth*-aktiverade enheter med hjälp av systemets fjärrkontroll.

1. Sätt på systemet.
2. Tryck på knappen **SOURCE** på fjärrkontrollen.

Källmenyn öppnas.



**Tips!** Du kan även trycka på SOURCE-knappen på kontrollkonsolen.


3. Välj **Bluetooth®**

## Använda skärmen på källenheten för Bluetooth®

Via fjärrkontrollen får du tillgång till ett antal *Bluetooth*-funktioner via källenhetsens skärm.

### Vad du kan göra

- Synkronisera och ansluta *Bluetooth*-aktiverade enheter.
- Visa tillgänglig information om artister på panelen SPELAS NU.
- Visa anslutna enheter.
- Kontrollera uppspelning (spela upp, pausa, stoppa, hoppa till nästa spår, osv.)
- Rensa synkroniseringslistan.



## Rensa systemets synkroniseringslista för Bluetooth®

När du synkroniseras en *Bluetooth*-aktiverad enhet till systemet, sparas anslutningen i systemets synkroniseringslista. Du kanske måste rensa synkroniseringslistan om det inte går att ansluta en enhet. När du rensat listan måste du göra om synkroniseringen för tidigare synkroniserade enheter.

1. Tryck på knappen  på fjärrkontrollen.
2. Välj .

Ett meddelande om att *synkroniseringslistan harrensats* visas på skärmen.

Systemet är nu klart för att synkroniseras med en enhet.

# Kontrollera systemet med appen

---

## Använda SoundTouch™ -appen

---

SoundTouch™-appen använder du för att ställa in och kontrollera SoundTouch™ från datorn, smarttelefonen eller surfplattan. Appen fungerar som en smart fjärrkontroll för SoundTouch™-systemet.

Med appen är det möjligt att göra SoundTouch™-inställningar, lägga till musiktjänster, utforska lokala och globala webbradiostationer, ställa in och ändra förval, direktuppspela (strömma) musik till systemet, visa vad som spelas samt mycket mera.

När du ställt in systemet i nätverket med SoundTouch™-appen kan du spela upp strömmande musik och anpassa förvalen.

### Hämta hjälp



Ger åtkomst till ett supportcenter där du kan hitta: bruksanvisningar, artiklar, tips, självstudier, ett videobibliotek och ett ägarforum där du kan ställa frågor och få svar.

1. Öppna en webbläsare.
2. I adressfältet skriver du SoundTouch.com

### Hjälpen i appen

Innehåller hjälptexter för hur du använder SoundTouch™.

1. Välj ikonen på din enhet för att starta appen.
2. Välj **HJÄLP** på panelen **UTFORSKA**.

## Kontrollera systemet från annan smarttelefon, surfplatta eller dator


När du installerat SoundTouch™-systemet i det trådlösa Wi-Fi® nätverket kan du kontrollera systemet från en valfri smarttelefon, surfplatta eller dator i samma nätverk.

1. Anslut enheten till samma nätverk som systemet.
2. På enheten laddar du ned och installerar SoundTouch™-appen:
  - iOS-användare: Ladda ned från App Store
  - Android™-användare: Ladda ned från Google Play™ Store
  - Amazon Kindle Fire-användare: Ladda ned Amazon Appstore för Android
  - Om du använder en dator ska du öppna webbläsaren och gå till:

**SoundTouch.com/app**

## Kontrollknappen

Den trådlösa SoundTouch™-adaptersnapp ger dig tillgång till avancerad tryckfunktionalitet via kontrollknappen.



## Indikator för trådlöst Wi-Fi®-nätverk

Indikatorn på baksidan av systemet visar det trådlösa nätverkets status.

Indikator, aktivitet	Systemläge
Blinkar med vitt sken	Ansluter till det trådlösa nätverket
Fast vitt sken	Systemet är påslaget och anslutet till det trådlösa nätverket
Fast gult sken	Systemet installeras
Blinkar långsamt med gult sken	Frånkopplad från det trådlösa nätverket
Blinkar snabbt med gult sken	Fel i den interna programvaran – ring Bose kundtjänst
Släckt	Det trådlösa nätverket är inaktiverat eller systemet är anslutet till Ethernet

## Inaktivera det trådlösa Wi-Fi®-nätverket

Om du inaktiverar den trådlösa Wi-Fi-funktionen inaktiveras även *Bluetooth*®-funktionen.

1. Sätt på underhållningssystemet.
2. Tryck ned kontrollknappen på adaptern i 8 till 10 sekunder.
3. När indikatorn för det trådlösa nätverket släcks släpper du upp kontrollknappen.

## Återaktivera det trådlösa Wi-Fi®-nätverket

Om du återaktiverar den trådlösa Wi-Fi-funktionen återaktiveras även *Bluetooth*®-funktionen.

1. Sätt på underhållningssystemet.
2. Tryck på adapterns kontrollknapp.

### Återställa adapttern

---

Vid en fabriksåterställning rensas alla källenhets- och nätverksinställningar från systemet och de ursprungliga inställningarna kommer åter att gälla.

**Obs!** Med den här återställningen raderas dina SoundTouch™-förval och sparade inloggningssuppgifter för nätverket.

1. Sätt på underhållningssystemet.
2. Dra ut Bose® link-kabeln.
3. Håll kontrollknappen nedtryckt när du sätter tillbaka kabeln.
4. Starta SoundTouch™-appen på datorn och lägg till systemet i nätverket.

## Felsökning

Problem	Åtgärd
Det går inte att slutföra nätverksinställningarna eller det går inte att upptäcka adaptern	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anslut den trådlösa SoundTouch™-adaptern till Bose link-kontakten på kontrollkonsolen.</li> <li>Anslut USB-kabeln till den trådlösa adaptern och kontrollkonsolen. Den här kabeln ska vara isatt för att systemet ska fungera tillfredsställande.</li> <li>Anslut systemet till ett eluttag.</li> <li>Välj rätt nätverksnamn och lösenord.</li> <li>Anslut enheten och SoundTouch™-systemet till samma trådlösa Wi-Fi®-nätverk.</li> <li>Placera den trådlösa adaptern inom routerns räckvidd.</li> <li>Aktivera Wi-Fi på den enhet (mobil eller dator) som du använder för installationen.</li> <li>Stäng andra öppna program.</li> <li>Om du använder en dator för installationen ska du kontrollera brandväggsinställningarna för att säkerställa att SoundTouch™-appen och SoundTouch™ Music Server är tillåtna program.</li> <li>Testa internetanslutningen genom att öppna <a href="http://www.SoundTouch.com">www.SoundTouch.com</a></li> <li>Starta om den mobila enheten eller datorn och routern.</li> <li>Starta om SoundTouch™-systemet (i hjälpen för appen beskrivs hur du gör).</li> <li>Avinstallera appen, återställ systemet och starta om installationsprocessen.</li> <li>Visa nätverket om det är dolt för att kunna slutföra installationen.</li> </ul>
Det går inte att ansluta till nätverket	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se hjälpsystemet i appen om nätverket har förändrats eller om du vill ansluta till ett annat nätverk.</li> <li>Använd en Ethernet-kabel för att ansluta till nätverket.</li> </ul>
SoundTouch™ eller Bluetooth® visas inte på kållmenyn	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uppdatera kontrollkonsolen. Se bruksanvisningen för underhållningssystemet.</li> <li>Kontrollera att Bose® link-kabeln och USB-kabeln är isatta i den trådlösa adaptern och kontrollkonsolen. Dessa kablar ska vara isatta för att systemet ska fungera tillfredsställande.</li> <li>Slutför SoundTouch™-installationen. Se sidan 19.</li> </ul>
Det går inte att spela upp Bluetooth®-ljud	<p>I ditt system:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Synkronisera en enhet med hjälp av skärmen för Bluetooth-källenheten (sidan 13).</li> <li>Prova att synkronisera en annan enhet.</li> <li>Se "Inget ljud" i systemets bruksanvisning.</li> <li>Gör först inställningar för SoundTouch™ och utför alla systemuppdateringar.</li> <li>Rensa systemets synkroniseringarslista (sidan 13).</li> </ul> <p>På den mobila enheten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Inaktivera och återaktivera Bluetooth-funktionen.</li> <li>Ta bort systemet från Bluetooth-menyn. Gör om synkroniseringen.</li> <li>Mer information finns i den aktiverade Bluetooth-enhetens dokumentation.</li> </ul>

## Skötsel och underhåll

---

### Lägga till ett trådlöst nätverk

---

Om nätverksinformationen har ändrats eller om du vill ansluta till ett annat nätverk måste du lägga till den nya nätverksinformationen i Nätverksinställningar på UNIFY®-menyn i underhållningssystemet.

1. Sätt på underhållningssystemet.
2. Tryck på knappen **Setup** på kontrollkonsolens knapppanel. UNIFY-menyn öppnas.
3. Välj **Nätverksinställningar**.
4. Följ anvisningarna på skärmen för hur du ändrar nätverket.

### Rengöring

---

Du rengör SoundTouch™-systemet genom att torka av utsidan med en mjuk och torr trasa.

- Använd inte lösningsmedel, kemikalier eller sprejer.
- Låt ingen vätska eller några föremål komma in i några öppningar.

### Kundtjänst

---

Om du behöver veta mer om hur du använder systemet ska du:

- Gå till [SoundTouch.com](http://SoundTouch.com)
- Kontakta Bose® kundtjänst. Se adresslistan som finns i kartongen.

### Begränsad garanti

---

Din trådlösa SoundTouch™-adapter omfattas av en begränsad garanti. Mer information om den begränsade garantin finns i Viktiga säkerhetsanvisningar i förpackningen. I Viktiga säkerhetsanvisningar finns information om hur du registrerar dig. Dina garantirättigheter påverkas inte om du inte gör det.

Den garantiinformation som medföljer den här produkten gäller inte i Australien och Nya Zeeland. På webbplatsen [www.Bose.com.au/warranty](http://www.Bose.com.au/warranty) och [www.Bose.co.nz/warranty](http://www.Bose.co.nz/warranty) finns information om vilka garantier som gäller för Australien och Nya Zeeland.

### Teknisk information

---

**Storlek:** 5,1 cm H x 6,4 cm B x 23,8 cm D

**Vikt:** 0,34 kg

## Använda SoundTouch™ -appen

Om du inte kan slutföra nätverksinställningarna med UNIFY® eller om du inte slutfört installationen med SoundTouch™-appen, måste du ladda ned och installera kontrollappen för Bose® SoundTouch™ till en smarttelefon, surfplatta eller dator som är ansluten till nätverket. I appen får du hjälp med att göra de inställningar som krävs för att ansluta systemet till nätverket.

### Aktivera adaptern

1. På baksidan av den trådlösa SoundTouch™-adaptern trycker du ned kontrollknappen en till åtta sekunder.
2. När den gula indikatorn för trådlöst Wi-Fi®-nätverk börjar blinka släpper du upp kontrollknappen. Indikatorn för trådlöst nätverk ska nu lysa med fast gult sken.

### Lägga till systemet i ett befintligt SoundTouch™-konto

Om du redan ställt in SoundTouch™ för ett annat system behöver du inte ladda ned SoundTouch™-appen en gång till.

1. Välj ikonen SoundTouch™  på din smarttelefon eller surfplatta för att starta appen.
2. Välj **UTFORSKA > INSTÄLLNINGAR > System > LÄGG TILL SYSTEM** för att lägga till ett nytt system.

Appen vägleder dig igenom föllopet.

### Ladda ned och installera SoundTouch™-appen

Ladda ned **SoundTouch™-kontrollappen** till smarttelefonen, datorn eller surfplattan.



**Bose® SoundTouch™ controller app**

- iOS-användare: Ladda ned från App Store
- Android™-användare: Ladda ned från Google Play™ Store
- Amazon Kindle Fire-användare: Ladda ned Amazon Appstore för Android
- Om du använder en dator ska du öppna webbläsaren och gå till:  
**SoundTouch.com/app**

### Ansluta systemet till det trådlösa nätverket hemma

När du har installerat appen ska du lägga till systemet i nätverket:

1. Välj ikonen  på smarttelefonen, surfplattan eller datorn för att starta appen. I appen får du hjälp med att göra de inställningar som krävs för att ansluta systemet till det trådlösa nätverket.
2. Följ anvisningarna i appen för hur du slutför inställningarna, inklusive hur du skapar ett SoundTouch™-konto samt hur du lägger till musikkatalog och musiktjänster.

## Bilaga B: Väggmontering av den trådlösa adaptern

### Montera adapttern

Du kan montera adapttern på väggen (tillbehör för detta medföljer ej).

Om instruktionerna som medföljer tillbehöret inte är desamma som dessa, ska du följa instruktionerna för tillbehöret.

I tabellen nedan finns monteringsanvisningar.

Ämne	Trä	Väggplatta
<b>Väggens tjocklek</b>	19 mm eller tjockare	9,5 mm eller tjockare
<b>Borr</b>	3 mm	4,5 mm
<b>Skravar med huvud med rundad kant (2)</b>	32 mm	32 mm
<b>Plugg (2)</b>	Används ej	25 mm


### Monteringsalternativ

Det finns två sätt att montera adapttern:

- Lodrätt; med anslutningspanelen åt vänster
- Vågrätt; med anslutningspanelen vänd uppåt

### Montera adapttern

1. Borra två hål med ett centrumavstånd på 159 mm.



2. Använd plugg om du monterar på väggplatta.
3. Skruva in koniska skruvar.  
**Obs!** Skruva inte ända ned utan stanna cirka 6 mm från väggen.
4. Placera adapttern på skruvarna.



# คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

โปรดอ่านคู่มือนี้โดยละเอียดและปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญ

 สัญลักษณ์ของกราฟิกสายไฟในกรอบสามเหลี่ยมหัวท่า เป็นการเตือนผู้ใช้สิ่งอันตรายจากกระแสไฟฟ้าในบริเวณที่ไม่มี ฉนวนหุ้มภายในเครื่อง ซึ่งอาจมีแรงดันสูงพอที่จะทำให้เสียชีวิตจากการ触碰ไฟฟ้าข้อใด

 เครื่องหมายห้ามภายในกรอบสามเหลี่ยมหัวท่าที่ติดอยู่บนเครื่อง เป็นการเตือนผู้ใช้ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำในการใช้งาน และการดูแลรักษาที่สำคัญในคู่มือผู้ใช้นี้

## ข้อควรระวัง:

- โปรดอย่าดัดแปลงผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์ใดๆ
- การดัดแปลงแก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางต่อความปลอดภัย ความสอดคล้องตามระเบียบข้อบังคับ และประสิทธิภาพของระบบ

## คำเตือน:

- เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อก อย่าให้ผลิตภัณฑ์ถูกไฟเผาความชื้น
- อย่างวางเครื่องที่ไม่รับอนุญาตหรือกระเด็น และไม่ควรวางภาระบนรุ่งเหลา เช่น แจกเก็น ไว้บนหรือใกล้กับเครื่อง เช่นเดียวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ โปรดระวังความร้อนของเหลา เช่น แจกเก็น ไว้บนหรือใกล้กับเครื่อง ในส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ หากสัมผัสกับเหลา อาจทำให้การใช้งานเสื่อมเหลา และ/หรือ เกิดอันตรายจากไฟฟ้าได้
- อย่างล้างสิ่งที่สกปรกใหม่ๆ เช่น เทียนไนท์จุดไฟ ไว้บนหรือใกล้กับผลิตภัณฑ์

- โปรดอ่านคำแนะนำเหล่านี้
- จดจำคำแนะนำเหล่านี้ไว้
- ใส่ใจในคำเตือนทั้งหมด
- ปฏิบัติตามคำแนะนำทั้งหมด
- อย่าใช้อุปกรณ์ใดใกล้กับน้ำ
- ทำความสะอาดด้วยผ้าแห้งเท่านั้น
- อย่าเกิดความชื้นของระบบอากาศ ติดตั้งตามคำแนะนำของผู้ผลิต
- อย่าดึงไกลกับแหล่งไฟที่ก่อให้เกิดความร้อนใดๆ เช่น หลอดน้ำ เครื่องปั่นไฟ เดา หรืออุปกรณ์อื่นๆ (รวมถึงเครื่องขยายเสียง)
- ใช้แต่อุปกรณ์ที่อยู่ในคู่มือ
- นาฬิกาดิจิทัลที่ชาร์จแบตเตอรี่จากช่องชาร์จภายนอกเท่านั้น การเข้ารับน้ำยาบินช่องชาร์จเป็นสิ่งจำเป็นเมื่ออุปกรณ์เกิดความเสียหายไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง เช่น สายไฟหรือปลั๊กเสียหาย ของเหลวหรือสารเคมีที่ติดตัวอยู่บนอุปกรณ์ อุปกรณ์ถูกไฟไหม้วันชั้น ไม่ทำงานตามปกติ หรืออุปกรณ์แตกหัก

## หมายเหตุ:

- ป้ายกำกับผลิตภัณฑ์จะติดอยู่ข้างใต้ผลิตภัณฑ์
- ผลิตภัณฑ์นี้จะต้องใช้ภายในอาคารเท่านั้น ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้รับการออกแบบหรือทดสอบสำหรับใช้งานภายนอกอาคาร ในยานพาหนะ หรือบนเนื้อ

## ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

หมายเหตุ: อุปกรณ์มีแผนกรากดสอนและพ่วงต่อตรงตามข้อจำกัดสำหรับอุปกรณ์จิจิ托ล คลาส B ตามส่วน 15 ของระเบียบ FCC

ขอสงวนสิทธิ์ให้การป้องกันที่เหมาะสมจากการรบกวนที่เป็นอันตรายในการติดตั้งในที่พักอาศัย อุปกรณ์นี้ ก่อให้เกิด ใช้ และสามารถเผยแพร่องค์ความตื่นที่อยู่ และหากติดตั้งและใช้งานไม่ตรงตามคำแนะนำ อาจเป็นสาเหตุให้เกิด การรบกวนที่เป็นอันตรายต่อการสื่อสารทางวิทยุ อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกันว่าการรบกวนจะไม่เกิดขึ้นในการติดตั้งแบบใดแบบหนึ่ง หากอุปกรณ์นี้ก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายต่อการรับสัญญาณวิทยุหรือโทรศัพท์ ซึ่งสามารถ พิจารณาได้จากการลองปิดและเปิดอุปกรณ์ ขอแนะนำให้ผู้ใช้ลองแทะช่องการรบกวนดังกล่าว ด้วยวิธีการต่อไปนี้

- เปลี่ยนทิศทางหรือตำแหน่งของเสาอากาศ
- เพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์และเครื่องรับสัญญาณ
- เสียบปลั๊กอุปกรณ์นี้กับเต้ารับไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้สายร่วมกับเครื่องรับสัญญาณ
- ติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากผู้ดูแลห้องสำนักงานหรือช่างเทคนิคด้านวิทยุ/โทรศัพท์ที่มีประสบการณ์

# คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

## คำเตือนของ FCC

การแก้ไขหรือตัดแปลงอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยตรงจาก Bose Corporation อาจทำให้ผู้ใช้มีสิทธิ์ใช้งานอุปกรณ์นี้อีกต่อไป

## ในสหราชอาณาจักร และแคนาดา

อุปกรณ์นี้สอดคล้องตามส่วน 15 ของระเบียบ FCC การทำงานของอุปกรณ์ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข 2 ประการ ดังนี้ (1) อุปกรณ์นี้ต้องไม่ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตราย และ (2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับสัญญาณรบกวนทุกชนิดที่ได้รับ รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจทำให้เกิดการทำงานที่ไม่พึงประสงค์

อุปกรณ์คลาส B นี้สอดคล้องตามข้อกำหนด ICES-003 / CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B) ของแคนาดา

อุปกรณ์นี้สอดคล้องตามข้อจำกัดความเสียงต่ออันตรายจากสิ่ง FCC และ Canada RF ตามที่ประกาศไว้สำหรับประชาชนทั่วไป

- ต้องไม่วางอุปกรณ์นี้ไว้บนหัวที่ทำงานร่วมกับเสาอากาศหรือเครื่องส่งสิ่งที่ไม่พึงประสงค์
- อุปกรณ์นี้สอดคล้องตามมาตรฐาน Industry Canada license-exempt RSS การทำงานของอุปกรณ์ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข 2 ประการ ดังนี้ (1) อุปกรณ์นี้ต้องไม่ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวน และ (2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับสัญญาณรบกวนทุกชนิด รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจทำให้เกิดการทำงานที่ไม่พึงประสงค์
- อุปกรณ์นี้สอดคล้องตามข้อจำกัดความเสียงต่ออันตรายจากสิ่ง FCC และอุตสาหกรรมแคนาดา ตามที่ประกาศไว้สำหรับสภาพแวดล้อมที่ไม่มีการควบคุม ควรติดตั้งและใช้งานอุปกรณ์นี้ในระยะห่างอย่างน้อย 20 ซม. ระหว่างเครื่องกำเนิดรังสีและร่างกายของคุณ



Bose Corporation ขอประกาศในที่นี้ว่าผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องตามข้อกำหนดที่จำเป็นและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเว่นๆ ของข้อกำหนด Directive 1999/5/EC และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเว่นๆ ของข้อกำหนด EU ประกาศฉบับสมบูรณ์เกี่ยวกับความปลอดภัย สามารถอ่านได้ที่ [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)



สัญลักษณ์นี้หมายความว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์นี้เมื่อไม่ใช่ขยะตามบ้านทั่วไป และควรจัดการทั้งให้กับสถานจัดเก็บขยะที่เหมาะสมเพื่อการนำไปรีไซเคิล การจัดการทั้งและการรีไซเคิลอย่างเหมาะสมช่วยป้องกันภัยธรรมชาติ สุขภาพของมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทิ้งและการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์นี้ ให้ติดต่อเทศบาลในท้องถิ่นของคุณ บริการกำจัดขยะ หรือร้านที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์นี้

ข้อแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ						
	สารและองค์ประกอบที่เป็นพิษหรือเป็นอันตราย					
ชื่อชั้นส่วน	ตะกั่ว (Pb)	ปรอท (Hg)	แคดเมียม (Cd)	โครเมียม 6 (CR(VI))	โพลีไบเมตเดคต์ ไบเพนิล (PBB)	โพลีไบเมตเดคต์ ไดเพนิลเอเดค (PBDE)
PCBs	X	O	O	O	O	O
ชั้นส่วนโลหะ	X	O	O	O	O	O
ชั้นส่วนพลาสติก	O	O	O	O	O	O
ลิ้นป้อง	X	O	O	O	O	O
สาย	X	O	O	O	O	O

ควรวางไม่ติดตั้งเครื่องความเร็วบนปุ่มของ SJ/T 11364

O: หมายความว่าสารพิษหรือสารอันตรายนี้ที่อยู่ในวัสดุทั้งหมดที่เป็นเนื้อเดียวกันสำหรับชั้นส่วนนั้นมีปริมาณต่ำกว่าข้อกำหนดขึ้นอยู่กับต้องของ GB/T 26572

X: หมายความว่าสารพิษหรือสารอันตรายนี้ที่อยู่ในวัสดุที่เป็นเนื้อเดียวกันอย่างน้อยหนึ่งชั้นที่ใช้สำหรับชั้นส่วนนั้นมีปริมาณสูงกว่าข้อกำหนดขึ้นอยู่กับต้องของ GB/T 26572

# ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเบียนข้อบังคับ

โปรดกรอกข้อมูลและเก็บไว้เป็นบันทึกของคุณ:

หมายเลขซีรีส์เรียลและหมายเลขรุ่นจะอยู่ที่ด้านล่างของระบบ

หมายเลขซีรีส์เรียล:

หมายเลขรุ่น:

วันที่ซื้อ:

ขอแนะนำให้คุณเก็บใบเสร็จรับเงินไว้กับคุณเมื่อผู้ใช้นี้

App Store เป็นเครื่องหมายบริการของ Apple Inc.

Amazon, Kindle และ Fire เป็นเครื่องหมายการค้าของ Amazon.com, Inc. หรือบริษัทในเครือ

Android และ Google Play เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google Inc.

ข้อความแสดงชื่อและโลโก้ Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. และการใช้เครื่องหมายเหล่านี้โดย Bose Corporation อยู่ภายใต้การอนุญาต



iHeartRadio เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ iHeartMedia, Inc.

iTunes เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในสหราชอาณาจักรและประเทศอื่นๆ

คำว่า HDMI และ HDMI High-Definition Multimedia Interface และโลโก้ HDMI เป็นเครื่องหมายการค้าที่ริบอฟ์เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ HDMI Licensing, LLC ในสหราชอาณาจักรและประเทศอื่นๆ

ผลิตภัณฑ์มีซอฟต์แวร์ Spotify รวมอยู่ ซึ่งเป็นไปตามลิขิตรการใช้งานของบริษัทอื่น ที่สามารถอ่านได้จากที่นี่:

[www.spotify.com/connect/third-party-license](http://www.spotify.com/connect/third-party-license)

Spotify เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Spotify AB

SoundTouch และงานออกแบบด้วยไฟระบบไร้สาย เป็นเครื่องหมายการค้าของ Bose Corporation ในสหราชอาณาจักรและประเทศอื่นๆ

Wi-Fi เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance®

Windows เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Microsoft Corporation ในสหราชอาณาจักรและประเทศอื่นๆ

©2015 Bose Corporation ห้ามทำซ้ำ แก้ไข เผยแพร่ ส่วนหนึ่งส่วนใดของเอกสารนี้ หรือนำไปใช้งานใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต  
เป็นลายลักษณ์อักษร

**บทนำ**

SoundTouch™ .....	7
ประโยชน์ของระบบ .....	7

**SoundTouch™**

การเข้าใช้งาน SoundTouch™ .....	8
การเลือกแหล่งสัญญาณ SoundTouch™ .....	8
การใช้หน้าจอแหล่งสัญญาณ SoundTouch™ .....	9
สิ่งที่คุณทำได้ .....	9
ค่าตั้งล่วงหน้าทำงานอย่างไร .....	10
สิ่งที่คุณต้องทราบ .....	10
การเล่นค่าตั้งล่วงหน้า .....	10
การกำหนดค่าตั้งล่วงหน้า .....	10
การค้นหาเนื้อหาที่เล่นล่าสุด .....	11

**Bluetooth®**

การเข้าใช้งาน Bluetooth® .....	12
การเลือกแหล่งสัญญาณ Bluetooth® .....	12
การใช้หน้าจอแหล่งสัญญาณ Bluetooth® .....	13
การล้างรายการจับคู่ Bluetooth® ของระบบ .....	13

**การควบคุมระบบโดยใช้อุปกรณ์เดชั่น**

การใช้อุปกรณ์เดชั่น SoundTouch™ .....	14
การรับความช่วยเหลือ .....	14
การควบคุมระบบจากสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์อื่น .....	14

# สารบัญ

---

## คุณสมบัติชั้นสูง

ปุ่มควบคุม .....	15
ไฟสัญญาณ Wi-Fi® .....	15
การปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi® .....	15
การเปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi® ใหม่ .....	15
การรีเซ็ตอะแดปเตอร์ .....	16

## การดูแลรักษา

การแก้ปัญหา .....	17
การเพิ่มเครือข่าย Wi-Fi® .....	18
การทำความสะอาด .....	18
ฝ่ายบริการลูกค้า .....	18
การรับประกันแบบจำกัด .....	18
ข้อมูลทางด้านเทคนิค .....	18

## ภาคผนวก A: การตั้งค่า SoundTouch™

การตั้งค่าโดยใช้ออพลิเคชัน SoundTouch™ .....	19
เรียกใช้งานโหมดการตั้งค่าบ้านอะแดปเตอร์ .....	19
เพิ่มระบบไปที่บัญชี SoundTouch™ ที่มีอยู่ .....	19
ดาวน์โหลดและติดตั้งออพลิเคชัน SoundTouch™ .....	19
เชื่อมต่อระบบกับเครือข่าย Wi-Fi® ในบ้านของคุณ .....	19

## ภาคผนวก B: การติดตั้งอะแดปเตอร์ไร้สาย

การติดตั้งอะแดปเตอร์ .....	20
ตัวเลือกการติดตั้ง .....	20
การติดตั้งอะแดปเตอร์ .....	20

## SoundTouch™

ระบบเพลงไร้สาย SoundTouch™ ของคุณช่วยให้คุณเพลินกับเสียงที่แจ่มชัด เต็มพื้นที่ ของการสตรีมสัญญาณเสียงไร้สายผ่านทางเครือข่าย Wi-Fi ในบ้านของคุณ ด้วย SoundTouch™ คุณสามารถสตรีมวิทยุอินเทอร์เน็ต บริการเพลง และไฟบาร์เพลย์ของคุณ

หากคุณมีเครือข่าย Wi-Fi® ที่บ้าน และระบบความบันยันทิ่ง SoundTouch™ คุณก็พร้อมที่จะ เพลิดเพลินกับเพลงโปรดของคุณได้จากทุกห้องที่คุณต้องการ ดูคู่มือผู้ใช้งานระบบของคุณสำหรับ คำแนะนำในการตั้งค่า

**หมายเหตุ:** หากคุณซื้ออะแดปเตอร์เป็นอุปกรณ์เสริม โปรดดูคู่มือการเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว สำหรับคำแนะนำในการติดตั้ง

### ประโยชน์ของระบบ

- ช่วยให้ระบบความบันยันเทิง Bose ของคุณสามารถสตรีมเพลงแบบไร้สายโดยใช้ SoundTouch™
- เพลิดเพลินกับการเข้าถึงวิทยุอินเทอร์เน็ต บริการเพลง และไฟบาร์เพลย์ของคุณในแบบไร้สาย
- เพิ่มแหล่งสัญญาณ SoundTouch™ เพื่อให้คุณสามารถดูและควบคุมค่าตั้งล่วงหน้า รายการล่าสุด และเนื้อหาที่กำลังเล่นบนทีวีของคุณ
- แอพพลิเคชัน SoundTouch™ ฟรีช่วยให้คุณค้นหาวิทยุอินเทอร์เน็ต บริการเพลง และไฟบาร์เพลย์ ของคุณจากคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตของคุณ
- ตั้งค่าล่วงหน้าหากค่าเพื่อช่วยให้คุณฟังเพลงได้ด้วยการกดรีโมทคอนโทรลของคุณเพียงครั้งเดียว
- ตั้งค่าแบบไร้สายโดยใช้สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต
- ทำงานกับเครือข่าย Wi-Fi ในบ้านที่มีอยู่แล้วของคุณ
- สตีมเพลงจากอุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน Bluetooth®
- เพิ่มระบบเพิ่มเติมได้ง่ายๆ ทุกเมื่อเพื่อประสบการณ์การรับฟังได้จากหลายห้อง
- ระบบเสียงจาก Bose® ที่มีให้เลือกหลากหลายช่วยให้คุณสามารถเลือกโซลูชันที่เหมาะสม สำหรับทุกห้อง

## การเข้าใช้งาน SoundTouch™

คุณสามารถเข้าถึง SoundTouch™ ผ่านเมนู แหล่งสัญญาณ บนระบบความบันเทิงของคุณหรือผ่านแอปพลิเคชัน SoundTouch™

- แหล่งสัญญาณ SoundTouch™: นำเสนอชุดย่อยของคุณสมบัติต่างๆ ของ SoundTouch™ ที่ทำให้คุณสามารถเล่นรายการล่าสุดและปรับแต่งค่าตั้งล่วงหน้าได้
- แอปพลิเคชัน SoundTouch™: นำเสนอการควบคุมเต็มรูปแบบของ SoundTouch™ ที่ทำให้คุณสามารถจัดการการตั้งค่าระบบของคุณ ค้นหาวิทยุอินเทอร์เน็ต ตั้งและเปลี่ยนการตั้งค่าล่วงหน้า -stream เพลงมาในระบบ คุณลิสต์ที่กำลังเล่นอยู่ และอื่นๆ อีกมาก

## การเลือกแหล่งสัญญาณ SoundTouch™

แหล่งสัญญาณ SoundTouch™ ทำให้คุณสามารถควบคุมค่าตั้งล่วงหน้า รายการล่าสุดและเนื้อหาที่กำลังเล่นโดยใช้โมดูลโทรลของระบบของคุณ

- เปิดระบบของคุณ
- กดปุ่ม **SOURCE** บนรีโมท  
เมนูแหล่งสัญญาณจะปรากฏขึ้น



เคล็ดลับ: นอกจากนี้คุณยังสามารถกดปุ่ม SOURCE บนชุดควบคุมของคุณได้อีกด้วย

- เลือก **SoundTouch™**

## การใช้หน้าจอแหล่งสัญญาณ SoundTouch™

คุณสามารถเข้าถึงชุดย่อยของคุณสมบัติ SoundTouch™ จากหน้าจอแหล่งสัญญาณโดยใช้รีโมทคอนโทรล

### สิ่งที่คุณทำได้

- ปรับแต่งและเล่นค่าตั้งส่วนหน้า (หน้า 10)
- เล่นรายการล่าสุด (หน้า 11)
- ดูข้อมูลศิลปินที่มีในแพนกอลังเล่น
- ควบคุมการเล่น (เล่น หยุดเล่น ข้าวคราว หยุด ข้ามไปยังเพลงถัดไป ฯลฯ)
- ดูแหล่งสัญญาณเพลงของเนื้อหาบนแพนกอลังเล่น



เพื่อการควบคุม SoundTouch™ ของคุณให้ดียิ่งขึ้น โปรดดู “การใช้แอพพลิเคชัน SoundTouch™” ที่หน้า 14

## ค่าตั้งล่วงหน้าทำงานอย่างไร

คุณสามารถปรับแต่งค่าตั้งล่วงหน้าหากค่าให้เป็นบริการการสตรีมเพลงโปรด สถานี รายการเลื่อน ศิลปิน อัลบั้ม หรือเพลงจากไลบรารีเพลงของคุณ คุณสามารถเข้าถึงเพลงของคุณได้ทุกเวลาโดยใช้แอพพลิเคชัน SoundTouch™ บนคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือแหล่งสัญญาณ SoundTouch™ บนระบบความบันเทิงของคุณ

### สิ่งที่คุณต้องทราบ

- คุณสามารถกำหนดค่าตั้งล่วงหน้าจากแอพพลิเคชันและระบบความบันเทิงของคุณ
- หากแหล่งสัญญาณที่ตั้งค่าล่วงหน้าคือไลบรารีเพลงใน iTunes หรือ Windows Media Player ของคุณ โปรดแนใจว่าเปิดคอมพิวเตอร์ที่จัดเก็บไลบรารีเพลงของคุณแล้วและเชื่อมต่อ กับเครือข่ายเดียวกันกับระบบ SoundTouch™

## การเล่นค่าตั้งล่วงหน้า

เมื่อคุณปรับแต่งค่าตั้งล่วงหน้าของคุณ เลือกค่าตั้งล่วงหน้าโดยใช้รีโมทคอนโทรลหรือแอพพลิเคชัน เพื่อเล่น

หมายเหตุ: หากเพลงไม่เล่น โปรดดู “การกำหนดค่าตั้งล่วงหน้า”

## การกำหนดค่าตั้งล่วงหน้า

- สตรีมเพลงไปยังระบบความบันเทิงของคุณโดยใช้แอพพลิเคชันหรือแหล่งสัญญาณ SoundTouch™
- ขณะที่เพลงเล่นอยู่ กดค้างไว้ที่หมายเลขอัตตั้งล่วงหน้าโดยใช้รีโมทคอนโทรล (ประมาณ 2 วินาที)  
หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้แอพพลิเคชัน SoundTouch™ เพื่อตั้งและเปลี่ยน การตั้งค่าล่วงหน้า โปรดดูวิธีใช้ในแอพพลิเคชัน

## การค้นหาเนื้อหาที่เล่นล่าสุด

รายการล่าสุดจะแสดงรายการ SoundTouch™ ที่เล่นล่าสุด 50 รายการของคุณ

### 1. เลือก ไปที่รายการล่าสุด

ไปที่  
รายการ  
ล่าสุด



ແงะรายการล่าสุดจะปรากฏขึ้น

เนื้อหา  
ที่เล่นล่าสุด



### 2. เลือกรายการ

# **Bluetooth®**

## การเข้าใช้งาน **Bluetooth®**

คุณสามารถเข้าใช้งาน **Bluetooth** ผ่านเมนูแหล่งสัญญาณบนระบบความบันเทิงของคุณ หรือผ่านแอพพลิเคชั่น SoundTouch™

### การเลือกแหล่งสัญญาณ **Bluetooth®**

แหล่งสัญญาณ **Bluetooth** ช่วยให้คุณสามารถจับคู่และควบคุมอุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน **Bluetooth** โดยใช้รีโมทคอนโทรลของระบบของคุณ

1. เปิดระบบของคุณ
2. กดปุ่ม **SOURCE** บนรีโมท  
เมนูแหล่งสัญญาณจะปรากฏขึ้น



เคล็ดลับ: นอกเหนือไปจากนี้คุณยังสามารถกดปุ่ม **SOURCE** บนชุดควบคุมของคุณได้อีกด้วย

3. เลือก **Bluetooth®**

## การใช้หน้าจอแหล่งสัญญาณ Bluetooth®

การใช้รีโมทคอนโทรลจะทำให้คุณสามารถเข้าใช้งานชุดย่อยของคุณสมบัติของ Bluetooth จากหน้าจอแหล่งสัญญาณ

### สิ่งที่คุณทำได้

- จับคู่และเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่เปิดทำงาน Bluetooth
- ดูข้อมูลคิลปินที่มีในแฟ้มกำลังเล่น
- ดูอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
- ควบคุมการเล่น (เล่น หยุดเล่นชั่วคราว หยุด ข้ามไปยังเพลงถัดไป ฯลฯ)
- ล้างรายการจับคู่



### การล้างรายการจับคู่ Bluetooth® ของระบบ

เมื่อคุณจับคู่อุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน Bluetooth กับระบบของคุณ การเชื่อมต่อจะถูกจัดเก็บในรายการการจับคู่ของระบบ คุณอาจจำเป็นต้องล้างรายการจับคู่ หากคุณไม่สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้ เมื่อคุณล้างรายการแล้ว คุณจำเป็นต้องจับคู่อุปกรณ์ที่เคยจับคู่ไว้ก่อนหน้านี้อีกครั้ง

- กดปุ่ม บนรีโมท
- เลือก

ข้อความที่คล้ายกับข้อความ ล้างรายการจับคู่แล้ว จะปรากฏบนหน้าจอ  
ระบบพร้อมสำหรับจับคู่กับอุปกรณ์

# การควบคุมระบบโดยใช้แอพพลิเคชัน

## การใช้แอพพลิเคชัน SoundTouch™

แอพพลิเคชัน SoundTouch™ คือแอพพลิเคชันซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าและควบคุมระบบ SoundTouch™ จากสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ของคุณ ด้วยการใช้แอพพลิเคชันนี้ คุณจะสามารถจัดการการตั้งค่าระบบ SoundTouch™ เพิ่มบริการเพลง สำรวจสถานีวิทยุทางอินเทอร์เน็ตในประเทศและทั่วโลก ตั้งและเปลี่ยนค่าตั้งล่างหน้า สร้างเพลิงมายังระบบ ดูสิ่งที่กำลังเล่นอยู่ และอื่นๆ อีกมาก

หลังจากคุณตั้งค่าระบบบนเครื่องของคุณโดยใช้แอพพลิเคชัน SoundTouch™ คุณพร้อมแล้ว ที่จะสำรวจการตั้งค่าระบบบนเครื่องของคุณโดยใช้แอพพลิเคชัน SoundTouch™ คุณพร้อมแล้ว

### การรับความช่วยเหลือ

#### ② SoundTouch.com

เป็นช่องทางเข้าถึงศูนย์บริการสนับสนุนเจ้าของเครื่อง ซึ่งรวมถึง คู่มือผู้ใช้ บทความ กلامเม็ด บทแนะนำ คลังวิดีโอ และชุมชนเจ้าของเครื่อง ซึ่งคุณสามารถโพสต์คำถามและคำตอบได้

1. เปิดเบราว์เซอร์
2. ในช่องที่อยู่ พิมพ์ SoundTouch.com

### วิธีใช้ในแอพพลิเคชัน

แสดงบทความช่วยเหลือสำหรับการใช้ SoundTouch™

1. บนอุปกรณ์ของคุณ เลือก  เพื่อเปิดแอพพลิเคชัน
2. จากแผง สำรวจค้นหา เลือก วิธีใช้

### การควบคุมระบบจากสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์อื่น

เมื่อคุณตั้งค่าระบบ SoundTouch™ บนเครื่องข่าย Wi-Fi® ในบ้านแล้ว คุณจะสามารถควบคุมระบบจากสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องบนเครือข่ายเดียวกันได้


1. เชื่อมต่ออุปกรณ์กับเครือข่ายเดียวกันกับระบบของคุณ
2. บนอุปกรณ์ ดาวน์โหลดและติดตั้งแอพพลิเคชัน SoundTouch™:

- ผู้ใช้ iOS: ดาวน์โหลดจาก App Store
- ผู้ใช้ Android™: ดาวน์โหลดบน Google Play™ store
- ผู้ใช้ Amazon Kindle Fire: ดาวน์โหลดจาก Amazon Appstore for Android
- หากคุณใช้คอมพิวเตอร์ เปิดเบราว์เซอร์และไปที่:

**SoundTouch.com/app**

## ปุ่มควบคุม

อะแดปเตอร์รีซีฟเวอร์ SoundTouch™ มีฟังก์ชันการใช้งานขั้นสูงโดยสามารถใช้งานได้โดยการกดปุ่มควบคุมดังนี้



## ไฟสัญญาณ Wi-Fi®

ไฟสัญญาณ Wi-Fi ที่ด้านหลังของอะแดปเตอร์จะระบุสถานะของ Wi-Fi

การทำงานของไฟสัญญาณ	สถานะระบบ
สีขาวสว่าง	กำลังเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi
สีขาวสว่างนิ่ง	ระบบเปิดอยู่และเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi แล้ว
สีอ่อนสีขาว	ระบบอยู่ในโหมดการตั้งค่า
สีอ่อนสีขาวเข้ม	ตัดการเชื่อมต่อจากเครือข่าย Wi-Fi
สีอ่อนสีขาวเรือง	ข้อผิดพลาดเพิร์ฟ์แมร์ - ติดต่อศูนย์บริการ Bose
ปิด	เครือข่าย Wi-Fi ปิดใช้งานหรือระบบเชื่อมต่อกับอีเทอร์เน็ต

## การปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi®

นอกจากนี้ การปิดใช้งาน Wi-Fi ยังเป็นการปิดใช้งานคุณสมบัติ Bluetooth® อีกด้วย

1. เปิดระบบความบันเทิงของคุณ
2. กดปุ่มควบคุมของอะแดปเตอร์ร้างไว้ (8-10 วินาที)
3. เมื่อไฟสัญญาณ Wi-Fi ดับ ให้ปล่อยปุ่มควบคุม

## การเปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi® ใหม่

นอกจากนี้ การเปิดใช้งาน Wi-Fi ใหม่ยังเป็นการเปิดใช้งานคุณสมบัติ Bluetooth® อีกด้วย

1. เปิดระบบความบันเทิงของคุณ
2. กดปุ่มควบคุมของอะแดปเตอร์

## คุณสมบัติชั้นสูง

### การรีเซ็ตอะแดปเตอร์

การรีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงานจะล้างการตั้งค่าแหล่งสัญญาณและเครือข่ายทั้งหมดออกจากระบบ และกลับสู่การตั้งค่าดั้งเดิมจากโรงงาน

หมายเหตุ: ฟังก์ชันรีเซ็ตนี้จะลบค่าตั้งล่วงหน้าใน SoundTouch™ และข้อมูลรับรองเครือข่าย ที่บันทึกไว้ของคุณ

1. เปิดระบบความบันเทิงของคุณ
2. ถอดสายเคเบิล Bose® link
3. กดปุ่มควบคุมค้างไว้ขณะเชื่อมต่อสายเคเบิลอีกครั้ง
4. เรียกใช้งานแอพพลิเคชัน SoundTouch™ บนคอมพิวเตอร์ และเพิ่มระบบลงในเครือข่ายของคุณ

## การแก้ปัญหา

ปัญหา	สิ่งที่ต้องทำ
ไม่สามารถตั้งค่าเครื่อข่ายให้เสร็จสิ้นหรือไม่สามารถตั้งหน้าจอแตปเตอร์	<ul style="list-style-type: none"> <li>เสียบอะแดปเตอร์ไร้สาย SoundTouch™ เข้ากับช่องเสียบ Bose link บนชุดควบคุม</li> <li>เชื่อมต่อสายคีย์ลิส USB กับอะแดปเตอร์ไร้สายและชุดควบคุม จำเป็นต้องเชื่อมต่อสายคีย์ลิสนี้ไว้เพื่อให้ระบบทำงานอย่างเหมาะสม</li> <li>เชื่อมต่อระบบกับแหล่งไฟ AC (สายเมน)</li> <li>เลือกชื่อเครื่อข่ายที่ถูกต้องและป้อนรหัสผ่าน</li> <li>เชื่อมต่ออุปกรณ์และระบบ SoundTouch™ กับเครื่อข่าย Wi-Fi® เดียวทัน</li> <li>วางแผนเดปเตอร์ไร้สายภายในช่วงการรับส่งของเราเตอร์</li> <li>เปิดใช้งาน Wi-Fi บนอุปกรณ์ (อุปกรณ์เคลื่อนที่หรือคอมพิวเตอร์) ที่คุณใช้เพื่อทำการตั้งค่า</li> <li>ปิดแอพพลิเคชันอื่นที่เปิดอยู่ทั้งหมด</li> <li>หากใช้คอมพิวเตอร์สำหรับการตั้งค่า โปรดตรวจสอบการตั้งค่าไฟร์วอลล์เพื่อยืนยันว่าแอพพลิเคชัน SoundTouch™ และเซิร์ฟเวอร์เพลง SoundTouch™ เป็นโปรแกรมที่ได้รับอนุญาต</li> <li>ทดสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณโดยการโหลดเว็บ <a href="http://www.SoundTouch.com">www.SoundTouch.com</a></li> <li>รีสตาร์ทอุปกรณ์เคลื่อนที่ หรือคอมพิวเตอร์ และเราเตอร์ของคุณ</li> <li>รีบูตระบบ SoundTouch™ ของคุณ (คุระบบทิร์ชิฟในแอพพลิเคชัน)</li> <li>ถอนการติดตั้งแอพพลิเคชัน รีบูตระบบ และรีสตาร์ฟการตั้งค่า</li> <li>ยกเลิกการซ่อนเครื่อข่ายหากซ่อนอยู่เพื่อให้การตั้งค่าแล้วเสร็จ</li> </ul>
ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่อข่าย	<ul style="list-style-type: none"> <li>หากเครื่อข่ายของคุณเปลี่ยนแปลง หรือต้องการเชื่อมต่อระบบของคุณกับเครื่อข่ายอื่น โปรดดูระบบวิธีใช้ในแอพพลิเคชัน</li> <li>เชื่อมต่อกับเครื่อข่ายโดยใช้สายอีเทอร์เน็ต</li> </ul>
SoundTouch™ หรือ Bluetooth® ไม่ปรากฏในเมนูแหล่งสัญญาณ	<ul style="list-style-type: none"> <li>อัพเดตชุดควบคุม โปรดดูคู่มือการใช้งานระบบความบันเทิงของคุณ</li> <li>ตรวจสอบว่าสายคีย์ลิส Bose® link และสายคีย์ลิส USB เชื่อมต่อกับอะแดปเตอร์ไร้สายและชุดควบคุมแน่นหนา จำเป็นต้องเชื่อมต่อสายคีย์ลิสเหล่านี้ไว้เพื่อให้ระบบทำงานอย่างเหมาะสม</li> <li>ดำเนินการตั้งค่า SoundTouch™ ให้เสร็จสิ้น โปรดดูหน้า 19</li> </ul>
ไม่สามารถเล่นเสียงจาก Bluetooth®	<p>บนระบบของคุณ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>จับคู่อุปกรณ์โดยใช้หน้าจอแหล่งสัญญาณ Bluetooth (หน้า 13)</li> <li>ลองจับคู่กับอุปกรณ์อื่น</li> <li>ดู “ไม่มีเสียง” ในคู่มือการใช้งานระบบของคุณ</li> <li>ตั้งค่า SoundTouch™ ก่อน และดำเนินการอัพเดตระบบทั้งหมด</li> <li>ล้างรายการการจับคู่ของระบบ (หน้า 13)</li> </ul> <p>บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ปิดใช้งานแล้วเปิดใช้งานคุณสมบัติ Bluetooth วิบัติ</li> <li>ลบชื่อระบบออกจากเมนู Bluetooth จับคู่อีกครั้ง</li> <li>โปรดดูเอกสารประกอบการใช้งานของอุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน Bluetooth ของคุณ</li> </ul>

## การดูแลรักษา

### การเพิ่มเครือข่าย Wi-Fi®

หากต้องการเพิ่มเครือข่ายของคุณเปลี่ยนแปลงไป หรือหากต้องการเชื่อมต่อระบบของคุณกับเครือข่ายอื่น คุณต้องเพิ่มข้อมูลเครือข่ายใหม่ภายใต้การตั้งค่าเครือข่ายในเมนู UNIFY® บนระบบความบันเทิงของคุณ

1. เปิดระบบความบันเทิงของคุณ
2. กดปุ่ม **Setup** บนแผงปุ่มกดของชุดควบคุม เมนู UNIFY จะปรากฏขึ้น
3. เลือก การตั้งค่าเครือข่าย
4. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเปลี่ยนเครือข่ายของคุณ

## การทำความสะอาด

ในการทำความสะอาดจะเดินทาง SoundTouch™ ให้เช็ดทำความสะอาดด้านนอกของผลิตภัณฑ์ด้วยผ้าแห้ง นุ่ม

- อย่าใช้สารละลาย สารเคมี หรือสเปรย์
- อย่าให้ของเหลวหรือวัตถุตกลงไปในช่องเปิดใดๆ

## ฝ่ายบริการลูกค้า

สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมในการใช้ระบบ:

- เยี่ยมชม [SoundTouch.com](http://SoundTouch.com)
- โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Bose® โปรดดูรายชื่อติดต่อในกล่อง

## การรับประกันแบบจำกัด

จะเดินทาง SoundTouch™ ของคุณได้รับความคุ้มครองจากการรับประกันแบบจำกัด รายละเอียดของการรับประกันแบบจำกัดระบุไว้ในเอกสารคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญที่อยู่ในกล่องบรรจุนี้ โปรดดูเอกสารคำแนะนำนี้เพื่อความปลอดภัยที่สำคัญสำหรับคำแนะนำในการลงทะเบียน แม้จะไม่ดำเนินการตั้งกล่าวก็จะไม่มีผลต่อการรับประกันแบบจำกัดของคุณ

ข้อมูลการรับประกันที่ให้มาระบบกับผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีผลบังคับใช้ในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ดูรายละเอียดการรับประกันในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์จากเว็บไซต์ของเราที่ [www.Bose.com.au/warranty](http://www.Bose.com.au/warranty) หรือ [www.Bose.co.nz/warranty](http://www.Bose.co.nz/warranty)

## ข้อมูลทางด้านเทคนิค

ขนาด: สูง 5.1 ซม. x กว้าง 6.4 ซม. x ลึก 23.8 ซม.

น้ำหนัก: 0.34 กก.

## ภาคผนวก A: การตั้งค่า SoundTouch™

### การตั้งค่าโดยใช้อุปกรณ์ SoundTouch™

หากคุณไม่สามารถตั้งค่าเครือข่ายให้เสร็จสิ้นด้วย UNIFY® หรือหากคุณไม่ได้ตั้งค่าเครือข่ายให้เสร็จสิ้นด้วยแอพพลิเคชัน SoundTouch™ คุณต้องดาวน์โหลดและติดตั้งแอพพลิเคชันชุดควบคุม Bose® SoundTouch™ ลงในสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ที่เขื่อมต่อ กับเครือข่ายของคุณ และแอพพลิเคชันจะช่วยแนะนำคุณตลอดขั้นตอนการเชื่อมต่อระบบกับเครือข่ายของคุณ

#### เรียกใช้งานโหมดการตั้งค่าบนหน้าจอเดปเทอร์

- ที่ด้านหลังของอะเดปเตอร์ไร้สาย SoundTouch™ กดปุ่มควบคุมค้างไว้ 1-8 วินาที
- เมื่อไฟสัญญาณ Wi-Fi® สีเขียวจะพริบ ให้ปล่อยปุ่มควบคุม ณ ตอนนี้ไฟสัญญาณ Wi-Fi ควรเป็นสีเขียวสว่างนิ่ง

#### เพิ่มระบบไปที่บัญชี SoundTouch™ ที่มือถือ

หากคุณตั้งค่า SoundTouch™ สำหรับระบบอื่นแล้ว คุณจะไม่ต้องดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน SoundTouch™ อีก

- บนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตของคุณ เลือกไอคอน SoundTouch™  เพื่อเรียกใช้งานแอพพลิเคชัน
- เลือก สำรับคันหา > การตั้งค่า > ระบบ > เพิ่มระบบ เพื่อเพิ่มระบบอื่น แอพพลิเคชันจะแนะนำคุณตลอดการตั้งค่า

#### ดาวน์โหลดและติดตั้งแอพพลิเคชัน SoundTouch™

บนสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ของคุณ ดาวน์โหลดแอพพลิเคชันชุดควบคุม SoundTouch™



- ผู้ใช้ iOS: ดาวน์โหลดจาก App Store
- ผู้ใช้ Android™: ดาวน์โหลดบน Google Play™ store
- ผู้ใช้ Amazon Kindle Fire: ดาวน์โหลดจาก Amazon Appstore for Android
- หากคุณใช้คอมพิวเตอร์ เปิดเบราว์เซอร์และไปที่: [SoundTouch.com/app](http://SoundTouch.com/app)

#### เชื่อมต่อระบบกับเครือข่าย Wi-Fi® ในบ้านของคุณ

หลังจากคุณติดตั้งแอพพลิเคชันแล้ว ให้เพิ่มระบบในเครือข่ายของคุณ

- บนสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ของคุณ เลือก  เพื่อเรียกใช้งานแอพพลิเคชัน แอพพลิเคชันจะช่วยแนะนำคุณตลอดขั้นตอนการเชื่อมต่อระบบกับเครือข่ายของคุณ
- ทำตามคำแนะนำในแอพพลิเคชันเพื่อดำเนินขั้นตอนตั้งค่าให้เสร็จสิ้น รวมถึงการสร้างบัญชี SoundTouch™ การเพิ่มไลบรารีเพลงและบริการเพลง

## ภาคผนวก B: การติดตั้งอะแดปเตอร์ไร้สาย

### การติดตั้งอะแดปเตอร์

คุณสามารถติดตั้งอะแดปเตอร์บนผนัง (อุปกรณ์ติดตั้งไม่ได้ให้มาด้วย) หากจำเป็นในการใช้อุปกรณ์ติดตั้งอะแดปเตอร์ต่างจากคำแนะนำนี้ ให้ทำการใช้งานของอุปกรณ์ติดตั้งตามที่ระบุในข้อมูลจำเพาะของอุปกรณ์ติดตั้ง

รายการ	ไม้	แผ่นบอร์ดปิดผนัง
ความหนาของผนัง	19 มม. หรือหนากว่า	9.5 มม. หรือหนากว่า
เจาะรู	3 มม.	4.5 มม.
สกรูหัวแฉกสำหรับงานไม้ (2)	#8 x 32 มม.	#8 x 32 มม.
พุกพลาสติก (2)	ไม่มีการใช้	#6 - 8 x 25 มม.


### ตัวเลือกการติดตั้ง

วิธีติดตั้งอะแดปเตอร์มีสองวิธี ดังนี้

- แนวตั้ง 釘ลามหรับเชื่อมต่อหันไปทางซ้าย
- แนวนอน 釘ลามหรับเชื่อมต่อหงายขึ้น

### การติดตั้งอะแดปเตอร์

#### 1. เจาะรูสองรูให้คุณยึดกลางห่างกัน 159 มม.



#### 2. เสียบพุกพลาสติกลงไปในรู (หากติดตั้งกับแผ่นบอร์ดปิดผนัง)

#### 3. ติดสกรูหัวแฉกสำหรับงานไม้

หมายเหตุ: ปล่อยให้หัวสกรูยื่นออกจากผนัง 6.35 มม.

#### 4. สวมอะแดปเตอร์เข้ากับสกรู



# 중요 안전 지침

시간을 내어 이 안내서를 주의 깊게 읽고 중요 안전 지침을 따르십시오.

 정삼각형 안의 화살표 번개 모양의 표시는 시스템에 감전을 일으킬 만큼 대량의 비절연 위험 전압이 흐르고 있다는 경고입니다.

 시스템 상에 표시된 대로, 정삼각형 안의 느낌표는 본 사용자 안내서에 중요한 조작 및 유지보수 지침이 들어있음을 의미합니다.

## 주의:

- 시스템 또는 액세서리를 변경하지 마십시오.
- 허가 없이 변경하면 안전, 규정 준수 및 시스템 성능에 문제가 발생할 수 있습니다.

## 경고:

- 화재나 감전의 위험을 줄이려면 본 제품이 비나 물에 젖지 않게 하십시오.
- 기기에 물을 떨어뜨리거나 튕기지 마십시오. 기기 위에 또는 기기 근처에 물병 등, 물이 담긴 물건을 옮겨 놓지 마십시오. 다른 전자 제품을 사용할 때와 마찬가지로 제품에 액체를 흘리지 않도록 주의하십시오. 액체에 노출되면 고장이나 화재 위험이 발생할 수 있습니다.
- 촛불과 같은 무방비 상태의 불꽃을 제품 위나 근처에 두지 마십시오.

1. 본 지침을 읽으십시오.
2. 본 지침을 준수하십시오.
3. 모든 경고에 유의하십시오.
4. 모든 지침을 따르십시오.
5. 본 장비를 물 가까이에서 사용하지 마십시오.
6. 마른 형광으로만 닦으십시오.
7. 환기구가 막히지 않도록 하십시오. 제조업체의 지침에 따라 설치하십시오.
8. 방열기나 난방기, 전기 난로 또는 열을 발생시키는 기타 기기(앰프 포함) 근처에 설치하지 마십시오.
9. 제조업체에서 지정한 부품이나 액세서리만 사용하십시오.
10. 자격 있는 기사에게만 서비스를 의뢰하십시오. 전원 코드 또는 플러그가 손상되었을 때, 액체가 흘러 들어갔을 때, 물체가 떨어져 기기 안에 들어갔을 때, 기기가 비나 물에 젖었을 때, 정상적으로 작동하지 않을 때, 또는 기기를 떨어뜨렸을 때 등, 어느 경우라도 기기가 손상되었을 때는 서비스를 받으셔야 합니다.

## 참고:

- 제품 라벨은 제품 밑면에 위치해 있습니다.
- 이 제품은 실내에서만 사용해야 합니다. 이 제품은 레저용 차량이나 선박 등의 야외에서 사용하도록 설계되거나 테스트되지 않았습니다.

## 중요 준수 정보

**참고:** 이 장치는 시험 결과 FCC 규정 15부에 근거한 B급 디지털 장치에 대한 제한을 준수합니다. 이러한 제한은 거주 지역에 설치할 때 발생하는 유해한 방해 전파를 적절한 수준에서 방지할 목적으로 만들었습니다. 이 장치는 무선 주파수 에너지를 생성하고 사용하고 방출할 수 있습니다. 지침에 따라 올바르게 설치 및 사용하지 않은 경우에는 무선 통신에 대한 유해한 방해 전파를 일으킬 수도 있습니다. 그러나 특정 설치에서 방해 전파가 발생하지 않는다고 보장할 수는 없습니다. 이 장치를 켜거나 끌 때 라디오 또는 텔레비전 수신에 유해한 방해 전파를 발생시키는 경우 다음 방법 중 하나로 방해 전파를 제거할 수 있습니다.

- 수신 안테나의 방향 또는 위치를 조정합니다.
- 장치와 수신기 사이의 공간을 늘립니다.
- 장비를 수신기가 연결된 것과 다른 회로의 전기 소켓에 연결합니다.
- 판매업체 또는 숙련된 라디오/TV 기술자에게 도움을 요청합니다.

# 중요 안전 지침

## FCC 경고

Bose Corporation에서 명시적으로 승인하지 않은 변경 또는 수정은 이 장비를 작동할 수 있는 사용자의 권한을 무효화할 수 있습니다.

## 미국 및 캐나다

이 장치는 FCC 규정 15부를 준수합니다. 다음 두 상태에서 작동되어야 합니다. (1) 이 장치는 유해한 방해 전파를 일으키지 않으며 (2) 장치의 오작동을 일으킬 수 있는 방해 전파를 포함하여 수신되는 모든 방해 전파를 수용해야 합니다.

이 B 등급 디지털 기기는 캐나다 ICES-003 / CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B)를 준수합니다.

이 장치는 일반 대중을 위해 규정된 FCC 및 산업 캐나다 RF 방사 물질 노출 제한을 준수합니다.

- 이 장치에 다른 안테나 또는 송신기를 함께 설치하거나 작동해서는 안됩니다.
- 이 장치는 산업 캐나다 라이센스 면제 RSS 표준을 준수합니다. 다음 두 상태에서 작동되어야 합니다. (1) 이 장치는 유해한 방해 전파를 일으키지 않으며 (2) 장치의 오작동을 일으킬 수 있는 방해 전파를 포함하여 수신되는 모든 방해 전파를 수용해야 합니다.
- 이 장비는 통제되지 않은 환경에 대해 규정된 FCC 및 산업 캐나다 방사 물질 노출 제한을 준수합니다. 이 장비는 방출기와 신체 사이의 거리를 최소 20cm로 하여 설치 및 작동해야 합니다.



Bose Corporation은 이 제품이 자침서 1999/5/EC 및 기타 모든 적용 가능한 EU 지침의 필수 요구과 관련 조항을 준수하고 있음을 여기에서 선언합니다. 표준 부합 신고서 전문은 [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)을 참조하십시오.



이 표시는 제품을 가정용 쓰레기처럼 폐기해서는 안 되며 적합한 수거 시설에 보내 재생해야 함을 의미합니다. 올바른 폐기와 재생을 통해 천연 자원, 인류 건강 및 환경을 보호하는 데 일조할 수 있습니다. 이 제품의 폐기 및 재생에 대한 자세한 정보는 지방 자치체, 폐기물 수거 업체 또는 이 제품을 구입한 매장에 문의하십시오.

## 유해 물질의 명칭 및 농도

유해 물질						
부품 번호	납(Pb)	수은(Hg)	카드뮴(Cd)	6가 크롬(VI)	폴리브롬화 바이페닐(PBB)	폴리브롬화 디페닐에테르(PBDE)
폴리염화 바이페닐(PCB)	X	O	O	O	O	O
금속 부품	X	O	O	O	O	O
플라스틱 부품	O	O	O	O	O	O
스피커	X	O	O	O	O	O
케이블	X	O	O	O	O	O

본 테이블은 SJ/T 11364 조항에 따라 준비되었습니다.

O: 이 부품의 모든 동종 재질에 함유된 이 유해 물질이 GB/T 26572에서 규정한 제한 요구사항 미만임을 나타냅니다.

X: 이 부품에 사용된 동종 재질 중 최소한 하나에 함유된 이 유해 물질이 GB/T 26572에서 규정한 제한 요구사항을 초과함을 의미합니다.

# 규정 정보

## 기록용으로 작성하여 보관하십시오.

일련 번호와 모델 번호는 시스템 바닥에 있습니다.

일련 번호: \_\_\_\_\_

모델 번호: \_\_\_\_\_

구입일: \_\_\_\_\_

영수증을 사용자 안내서와 함께 보관하십시오.

App Store는 Apple Inc.의 서비스 표시입니다.

Amazon, Kindle 및 Fire는 Amazon.com, Inc. 또는 그 자회사의 상표입니다.

Android 및 Google Play는 Google, Inc.의 상표입니다.

Bluetooth® 단어 표시와 로고는 Bluetooth SIG, Inc.의 등록 상표이며 Bose Corporation은 사용권 계약에 따라 해당 표시를 사용합니다.



iHeartRadio는 iHeartMedia, Inc.의 등록 상표입니다.

iTunes는 미국 및 기타 국가에 등록된 Apple Inc.의 상표입니다.

용어 HDMI 및 HDMI High-Definition Multimedia Interface 및 HDMI 로고는 미국 및 기타 국가에서 HDMI Licensing LLC의 상표 또는 등록 상표입니다.

이 제품은 타사 라이센스의 적용을 받는 Spotify 소프트웨어를 사용하며 다음에서 확인할 수 있습니다.  
[www.spotify.com/connect/third-party-license](http://www.spotify.com/connect/third-party-license)

Spotify는 Spotify AB의 등록 상표입니다.

SoundTouch 및 무선 음표 디자인은 미국 및 기타 국가에서 Bose Corporation의 상표입니다.

Wi-Fi는 Wi-Fi Alliance®의 등록 상표입니다.

Windows는 미국과 기타 국가에서 Microsoft Corporation의 등록 상표입니다.

©2015 Bose Corporation. 사전 서면 승인 없이 본 설명서의 특정 부분을 복제, 변경, 배포 또는 사용할 수 없습니다.

## 소개

SoundTouch™	7
시스템 장점	7

## SoundTouch™

SoundTouch™ 액세스	8
SoundTouch™ 소스 선택	8
SoundTouch™ 소스 화면 사용	9
할 수 있는 작업	9
사전 설정 작동 방법	10
알아야 할 것	10
사전 설정 재생	10
사전 설정 설정	10
최근 재생한 콘텐츠 찾기	11

## Bluetooth®

Bluetooth® 액세스	12
Bluetooth® 소스 선택	12
Bluetooth® 소스 화면 사용	13
시스템의 Bluetooth® 쌍 결합 목록 소개	13

## 앱을 사용한 시스템 조작

SoundTouch™ 앱 사용	14
도움말 보기	14
다른 스마트폰, 태블릿 또는 컴퓨터에서 시스템 조작	14

## 고급 기능

콘트롤 버튼	15
Wi-Fi® 표시등	15
Wi-Fi® 기능 사용 중지	15
Wi-Fi® 기능 다시 사용	15
어댑터 재설정	16

# 목차

---

## 관리 및 유지보수

문제 해결 .....	17
Wi-Fi® 네트워크 추가 .....	18
청소 .....	18
고객 서비스 센터 .....	18
제한 보증 .....	18
기술 정보 .....	18

## 부록 A: SoundTouch™ 설치

SoundTouch™ 앱을 사용한 설정 .....	19
어댑터에서 설정 모드를 활성화하려면 .....	19
기존 SoundTouch™ 계정에 시스템 추가 .....	19
SoundTouch™ 앱 다운로드 및 설치 .....	19
가정용 Wi-Fi® 네트워크에 시스템 연결 .....	19

## 부록 B: 무선 어댑터 마운팅

어댑터 마운팅 .....	20
마운팅 옵션 .....	20
어댑터를 마운트하려면 .....	20

## SoundTouch™

SoundTouch™ 무선 뮤직 시스템은 가정용 Wi-Fi 네트워크를 통해 룸을 가득 채우는 명료한 사운드를 무선으로 스트리밍합니다. SoundTouch™를 사용하여 인터넷 라디오, 뮤직 서비스 및 뮤직 라이브러리를 스트리밍할 수 있습니다.

가정용 Wi-Fi®와 SoundTouch™ 사용 엔터테인먼트 시스템이 있다면 원하는 룸에서 좋아하는 음악을 즐길 준비가 되었습니다. 설치 지침은 시스템 사용자 안내서를 참조하십시오.

**참고:** 어댑터를 액세서리로 구입한 경우 빠른 시작 안내서에서 설치 지침을 참조하십시오.

### 시스템 장점

- SoundTouch™를 사용하여 Bose 엔터테인먼트 시스템에서 무선으로 음악을 스트리밍할 수 있습니다.
- 인터넷 라디오, 뮤직 서비스와 뮤직 라이브러리에 무선 액세스합니다.
- SoundTouch™ 소스를 추가하여 TV에 사전 설정, 최근 항목 및 지금 재생 중 콘텐츠를 표시하고 조작할 수 있습니다.
- 무료 SoundTouch™ 앱을 사용하면 컴퓨터, 스마트폰 또는 태블릿에서 인터넷 라디오, 뮤직 서비스 또는 사용자의 뮤직 라이브러리를 탐색할 수 있습니다.
- 사전 설정을 최대 6개 개인화하여 리모콘에서 원터치로 음악을 들을 수 있습니다.
- 스마트폰 또는 태블릿을 사용하여 무선으로 설치합니다.
- 기존의 가정용 Wi-Fi 네트워크를 사용합니다.
- Bluetooth® 사용 장치에서 음악을 스트리밍합니다.
- 다른 룸에도 시스템을 추가하면 여러 룸에서 음악을 청취할 수 있습니다.
- 폭넓은 다양한 Bose® 오디오 시스템 중에서 선택할 수 있기 때문에 어떤 방이라도 올바른 솔루션을 선택할 수 있습니다.

## SoundTouch™ 액세스

사용자 엔터테인먼트 시스템의 SOURCE 메뉴 또는 SoundTouch™ 앱을 통해 SoundTouch™에 액세스할 수 있습니다.

- **SoundTouch™ 소스:** 최근 항목을 재생하고 사전 설정을 개인화해주는 SoundTouch™ 기능의 하위 집합을 제공합니다.
- **SoundTouch™ 앱:** 시스템 설정 관리, 인터넷 라디오 탐색, 사전 설정 설정 및 변경, 시스템에 뮤직 스트리밍, 재생 중인 항목 표시 등, SoundTouch™의 모든 조작이 가능합니다.

## SoundTouch™ 소스 선택

SoundTouch™ 소스에서 시스템 리모콘을 사용하여 사전 설정, 최근 항목 및 지금 재생 중 콘텐츠를 조작할 수 있습니다.

1. 시스템 전원을 켭니다.
2. 리모콘의 **SOURCE** 버튼을 누릅니다.  
소스 메뉴가 나타납니다.



**정보:** 제어 콘솔에서 SOURCE 버튼을 눌러도 됩니다.

3. **SoundTouch™**를 선택합니다.

## SoundTouch™ 소스 화면 사용

리모콘을 사용하여 소스 화면에서 SoundTouch™ 기능의 하위 집합에 액세스할 수 있습니다.

### 할 수 있는 작업

- 사전 설정을 개인화 및 재생합니다(10페이지).
- 최근 항목을 재생합니다(11페이지).
- 지금 재생 중 패널에서 가용한 아티스트 정보를 봅니다.
- 재생을 조작합니다(재생, 일시 중지, 정지, 다음 트랙으로 건너뛰기 등).
- 지금 재생 중 패널에서 콘텐츠의 뮤직 소스를 봅니다.



SoundTouch™ 시스템을 보다 광범위하게 조작하는 방법은 14페이지의 “SoundTouch™ 앱 사용”을 참조하십시오.

## 사전 설정 작동 방법

---

뮤직 라이브러리에서 좋아하는 스트리밍 음악 채널, 방송국, 재생목록, 아티스트, 앨범 또는 노래로 사전 설정 6개를 개인화할 수 있습니다. 컴퓨터, 스마트폰, 태블릿에서 SoundTouch™ 앱을 사용하여 또는 사용자 엔터테인먼트 시스템의 SoundTouch™ 소스를 사용하여 언제든 음악에 액세스할 수 있습니다.

### 알아야 할 것

- 앱과 사용자 엔터테인먼트 시스템에서 사전 설정을 설정할 수 있습니다.
- 사전 설정 소스가 iTunes 또는 Windows Media Player 뮤직 라이브러리인 경우 뮤직 라이브러리를 저장한 컴퓨터가 켜져 있고 SoundTouch™ 시스템과 동일한 네트워크에 연결되어 있는지 확인하십시오.

## 사전 설정 재생

---

사전 설정을 개인화하고 나서 리모콘 또는 앱을 사용하여 사전 설정을 선택하고 재생합니다.

**참고:** 음악이 재생되지 않을 경우 “사전 설정 설정”을 참조하십시오.

## 사전 설정 설정

---

1. 앱 또는 SoundTouch™ 소스를 사용하여 음악을 사용자의 엔터테인먼트 시스템에 스트리밍합니다.
2. 음악이 재생되는 동안 리모콘으로 사전 설정 번호를 길게 누릅니다(약 2초).

**참고:** SoundTouch™ 앱을 사용한 사전 설정 설정과 변경에 대한 정보는 앱 도움말을 참조하십시오.

## 최근 재생한 콘텐츠 찾기

최근 항목 목록은 가장 최근 재생한 SoundTouch™ 항목 50개를 표시합니다.

### 1. 최근 항목으로 이동을 선택합니다.

최근  
항목으로  
이동



최근 항목 패널이 표시됩니다.

최근  
재생한  
콘텐츠



### 2. 항목을 선택합니다.

## **Bluetooth® 액세스**

사용자 엔터테인먼트 시스템의 SOURCE 메뉴 또는 SoundTouch™ 앱을 통해 Bluetooth에 액세스할 수 있습니다.

### **Bluetooth® 소스 선택**

Bluetooth 소스를 사용하면 시스템 리모콘을 사용하여 Bluetooth 사용 장치를 쌍결합하고 조작할 수 있습니다.

1. 시스템 전원을 켭니다.
2. 리모콘의 **SOURCE** 버튼을 누릅니다.



**정보:** 제어 콘솔에서 SOURCE 버튼을 눌러도 됩니다.


3. **Bluetooth®**를 선택합니다.

## Bluetooth® 소스 화면 사용

리모콘을 사용하여 소스 화면에서 Bluetooth 기능의 하위 집합에 액세스할 수 있습니다.

### 할 수 있는 작업

- Bluetooth 사용 장치와 쌍 결합 및 연결합니다.
- 지금 재생 중 패널에서 가용한 아티스트 정보를 봅니다.
- 연결된 장치를 봅니다.
- 재생을 조작합니다(재생, 일시 중지, 정지, 다음 트랙으로 건너뛰기 등).
- 쌍 결합 목록을 소거합니다.



## 시스템의 Bluetooth® 쌍 결합 목록 소거

Bluetooth 사용 장치를 시스템에 쌍 결합할 때 연결이 시스템의 쌍 결합 목록에 저장됩니다. 장치에 연결할 수 없을 경우 쌍 결합 목록을 소거해야 할 수 있습니다. 목록을 소거하면 이전에 쌍 결합된 장치들을 다시 쌍 결합해야 합니다.

1. 리모콘의 버튼을 누릅니다.

2. 를 선택합니다.

*Pairing List Cleared(쌍 결합 목록이 소거되었습니다)*와 유사한 메시지가 디스플레이에 나타납니다.

시스템이 장치와 쌍 결합 준비가 되었습니다.

# 앱을 사용한 시스템 조작

## SoundTouch™ 앱 사용

SoundTouch™ 앱은 스마트폰, 태블릿 또는 컴퓨터에서 SoundTouch™를 설치하고 조작할 수 있게 해주는 소프트웨어 응용 프로그램입니다. 앱을 사용하면 스마트 장치가 SoundTouch™ 시스템의 강력한 리모콘 역할을 합니다.

앱을 통해 SoundTouch™ 설정을 관리하고, 뮤직 서비스를 추가하고, 국내 및 국제 인터넷 라디오 방송국을 탐색하고, 사전 설정을 설정 또는 변경하고, 시스템에 음악을 스트리밍하고 재생 중인 곡을 보는 등, 많은 기능을 수행할 수 있습니다.

SoundTouch™ 앱을 사용하여 네트워크에서 시스템을 설치하고 나면 스트리밍 음악을 탐색하고 사전 설정을 개인화할 준비를 마친 것입니다.

### 도움말 보기

#### [SoundTouch.com](#)

사용자 지원 센터 액세스를 제공하여 사용자 설명서, 문서, 팁, 자습서, 비디오 라이브러리를 사용할 수 있으며 사용자 그룹을 지원하여 질문과 대답을 게시할 수 있습니다.

1. 브라우저를 엽니다.
2. 주소란에 SoundTouch.com을 입력합니다.

### 앱 도움말

SoundTouch™ 사용에 대한 도움말 문서를 제공합니다.

1. 장치에서 를 선택하여 앱을 엽니다.
2. 탐색 패널에서 **도움말**을 선택합니다.

### 다른 스마트폰, 태블릿 또는 컴퓨터에서 시스템 조작


가정용 Wi-Fi® 네트워크에 SoundTouch™ 시스템을 설치하고 나면 동일한 네트워크의 모든 스마트폰, 태블릿, 컴퓨터에서 시스템을 조작할 수 있습니다.

1. 장치를 시스템과 동일한 네트워크에 연결합니다.
2. 장치에서 SoundTouch™ 앱을 다운로드하고 설치합니다.
  - iOS 사용자: App Store에서 다운로드
  - Android™ 사용자: Google Play™ 스토어에서 다운로드
  - Amazon Kindle Fire 사용자: Amazon Appstore for Android에서 다운로드
  - 컴퓨터를 사용할 경우 브라우저를 열고 다음으로 이동합니다.

[SoundTouch.com/app](#)

## 콘트롤 버튼

SoundTouch™ 무선 어댑터는 콘트롤 버튼을 길게 눌러 고급 기능을 사용할 수 있습니다.



## Wi-Fi® 표시등

어댑터 뒷면에 있는 Wi-Fi 표시등은 Wi-Fi 상태를 나타냅니다.

표시등 동작	시스템 상태
흰색이 깜박이는 경우	Wi-Fi 네트워크에 연결 중
흰색등이 켜져 있는 경우	시스템이 켜져 있고 Wi-Fi 네트워크에 연결됨
켜진 주황색	시스템이 설치 모드에 있음
주황색이 천천히 깜박이는 경우	Wi-Fi 네트워크에서 분리됨
주황색이 빨리 깜박이는 경우	펌웨어 오류 - Bose 서비스 센터에 문의하십시오.
꺼진 상태	Wi-Fi 네트워킹이 사용 중지되거나 시스템이 이더넷에 연결됨

## Wi-Fi® 기능 사용 중지

Wi-Fi를 사용 해제하면 Bluetooth® 기능도 사용 해제됩니다.

1. 엔터테인먼트 시스템의 전원을 끕니다.
2. 어댑터의 콘트롤 버튼을 길게 누릅니다(8-10초).
3. Wi-Fi 표시등이 꺼지면 “콘트롤” 버튼을 놓습니다.

## Wi-Fi® 기능 다시 사용

Wi-Fi를 다시 사용 설정하면 Bluetooth® 기능도 다시 사용 설정됩니다.

1. 엔터테인먼트 시스템의 전원을 끕니다.
2. 어댑터의 콘트롤 버튼을 누릅니다.

## 고급 기능

---

### 어댑터 재설정

기본 설정을 재설정하면 시스템의 모든 소스 및 네트워크 설정을 초기화하고 원래 기본 설정 값으로 되돌립니다.

**참고:** 이 재설정 기능은 SoundTouch™ 사전 설정과 저장된 네트워크 자격 증명을 삭제합니다.

1. 엔터테인먼트 시스템의 전원을 끕니다.
2. Bose® link 케이블을 분리합니다.
3. 케이블을 다시 연결하는 동안 콘트롤 버튼을 길게 누릅니다.
4. 컴퓨터에서 SoundTouch™ 앱을 시작하고 시스템을 네트워크에 연결합니다.

## 문제 해결

문제	해결 방법
네트워크 설정을 완료할 수 없거나 어댑터를 탐지하지 못하는 경우	<ul style="list-style-type: none"> <li>SoundTouch™ 무선 어댑터를 제어 콘솔의 Bose link 커넥터에 꽂습니다.</li> <li>USB 케이블을 무선 어댑터와 제어 콘솔에 연결합니다. 시스템이 제대로 작동하려면 이 케이블이 연결되어 있어야 합니다.</li> <li>시스템을 AC(주전원) 전원에 연결합니다.</li> <li>올바른 네트워크 이름을 선택하고 암호를 입력합니다.</li> <li>장치와 SoundTouch™ 시스템을 동일한 Wi-Fi® 네트워크에 연결합니다.</li> <li>무선 어댑터를 라우터 신호 범위 내에 놓습니다.</li> <li>설치에 사용할 장치(모바일 또는 컴퓨터)에서 Wi-Fi를 사용 설정합니다.</li> <li>다른 열린 응용 프로그램을 닫습니다.</li> <li>설치에 컴퓨터를 사용할 경우 SoundTouch™ 앱과 SoundTouch™ 뮤직 서버에서 프로그램을 허용할 수 있도록 방화벽 설정을 확인합니다.</li> <li><a href="http://www.SoundTouch.com">www.SoundTouch.com</a>을 로드하여 인터넷 연결을 테스트합니다.</li> <li>모바일 장치 또는 컴퓨터 및 라우터를 다시 시작합니다.</li> <li>SoundTouch™ 시스템을 다시 부팅합니다(앱의 도움말 시스템 참조).</li> <li>앱을 삭제하고 시스템을 기본값으로 재설정한 후 설치를 다시 시작합니다.</li> <li>네트워크가 숨겨진 경우 숨김을 해제하고 설치를 완료합니다.</li> </ul>
네트워크에 연결하지 못하는 경우	<ul style="list-style-type: none"> <li>네트워크가 변경되거나 다른 네트워크에 시스템을 연결하려면 앱의 도움말 시스템을 참조하십시오.</li> <li>이더넷 케이블을 사용하여 네트워크에 연결합니다.</li> </ul>
SoundTouch™ 또는 Bluetooth®가 소스 메뉴에 나타나지 않는 경우	<ul style="list-style-type: none"> <li>제어 콘솔을 업데이트합니다. 엔터테인먼트 시스템의 조작 안내서를 참조하십시오.</li> <li>Bose® link 케이블과 USB 케이블이 무선 어댑터와 제어 콘솔에 완전히 연결되어 있는지 확인합니다. 시스템이 제대로 작동하려면 이 케이블이 연결되어 있어야 합니다.</li> <li>SoundTouch™ 설치를 완료합니다. 19페이지를 참조하십시오.</li> </ul>
Bluetooth® 오디오를 재생할 수 없을 경우	<p>시스템에서:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bluetooth SOURCE 화면(13페이지)을 사용하여 장치를 쌍 결합합니다.</li> <li>다른 장치의 쌍 결합을 시도해봅니다.</li> <li>시스템 조작 안내서의 “사운드가 없을 경우”를 참조하십시오.</li> <li>SoundTouch™를 먼저 설정한 후 모든 시스템 업데이트를 수행합니다.</li> <li>시스템 쌍 결합 목록을 소거합니다(13페이지).</li> </ul> <p>모바일 장치에서:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bluetooth 기능을 사용 해제했다가 다시 사용 설정합니다.</li> <li>Bluetooth 메뉴에서 시스템을 제거합니다. 다시 쌍 결합합니다.</li> <li>Bluetooth 사용 장치의 사용 설명서를 참조하십시오.</li> </ul>

## 관리 및 유지보수

---

### Wi-Fi® 네트워크 추가

---

네트워크 정보가 변경되었거나, 시스템을 다른 네트워크에 연결하려면 사용자 엔터테인먼트 시스템의 UNIFY® 메뉴의 네트워크 설치에서 네트워크 정보를 추가해야 합니다.

1. 엔터테인먼트 시스템의 전원을 켭니다.
2. 제어 콘솔 버튼 패널에서 **Setup** 버튼을 누릅니다.  
UNIFY 메뉴가 나타납니다.
3. **네트워크 설치**를 선택합니다.
4. 화면 지침을 따라 네트워크를 변경합니다.

## 청소

---

SoundTouch™ 무선 어댑터를 청소하려면 부드럽고 마른 천을 사용하여 제품 외부를 닦으십시오.

- 용제나 화학 약품 또는 스프레이를 사용하지 마십시오.
- 기기에 액체가 흘러 들어가거나 물체가 떨어져 들어가지 않도록 주의하십시오.

## 고객 서비스 센터

---

시스템 사용에 관한 추가 도움말:

- SoundTouch.com을 방문하십시오.
- Bose® 고객 서비스 센터에 문의하십시오. 포장 상자에 있는 연락처 목록을 참조하십시오.

## 제한 보증

---

SoundTouch™ 무선 어댑터는 제한 보증의 적용을 받습니다. 제한 보증의 자세한 내용은 제품 포장에 포함된 중요 안전 지침에 포함되어 있습니다. 등록 방법은 중요 안전 지침을 참조하십시오. 보내시지 않더라도 제한 보증에 대한 권리에는 영향이 없습니다.

이 제품에 제공된 보증 정보는 오스트레일리아와 뉴질랜드에는 적용되지 않습니다. 오스트레일리아와 뉴질랜드 보증에 대한 자세한 정보는 웹사이트 [www.Bose.com.au/warranty](http://www.Bose.com.au/warranty) 또는 [www.Bose.co.nz/warranty](http://www.Bose.co.nz/warranty)를 참조하십시오.

## 기술 정보

---

**크기:** 5.1cm H x 6.4cm W x 23.8cm D

**중량:** 0.34kg

### SoundTouch™ 앱을 사용한 설정

UNIFY®를 통해 네트워크 설정을 완료할 수 없을 경우 또는 SoundTouch™ 앱을 사용하여 설치를 완료하지 않은 경우 Bose® SoundTouch™ 콘트롤러 앱을 네트워크에 연결된 스마트폰, 태블릿 또는 컴퓨터에 다운로드하고 설치해야 합니다. 앱이 시스템의 네트워크 연결을 안내합니다.

#### 어댑터에서 설정 모드를 활성화하려면

1. SoundTouch™ 무선 어댑터 뒷면에서 “콘트롤” 버튼을 1-8초간 길게 누릅니다.
2. 주황색 Wi-Fi® 표시등이 깜박이면 “콘트롤” 버튼을 놓습니다. Wi-Fi 표시등이 켜진 주황색이어야 합니다.

#### 기존 SoundTouch™ 계정에 시스템 추가

다른 시스템에 이미 SoundTouch™를 설치한 경우 SoundTouch™ 앱을 다시 다운로드할 필요는 없습니다.

1. 스마트폰 또는 태블릿에서 SoundTouch™ 아이콘  를 선택하여 앱을 시작합니다.
2. **탐색 > 설정 > 시스템 > 시스템 추가**를 선택하여 다른 시스템을 추가합니다.  
앱이 설치를 안내합니다.

#### SoundTouch™ 앱 다운로드 및 설치

스마트폰, 태블릿 또는 컴퓨터에서 **SoundTouch™ 콘트롤러 앱**을 다운로드합니다.



- iOS 사용자: App Store에서 다운로드
- Android™ 사용자: Google Play™ 스토어에서 다운로드
- Amazon Kindle Fire 사용자: Amazon Appstore for Android에서 다운로드
- 컴퓨터를 사용할 경우 브라우저를 열고 다음으로 이동합니다.

[SoundTouch.com/app](http://SoundTouch.com/app)

#### 가정용 Wi-Fi® 네트워크에 시스템 연결

앱을 설치한 후 네트워크에 시스템을 추가합니다.

1. 스마트폰, 태블릿 또는 컴퓨터에서  를 선택하여 앱을 시작합니다.  
앱이 시스템의 Wi-Fi 연결 과정을 안내합니다.
2. 앱의 지침에 따라 SoundTouch™ 계정을 만들고, 뮤직 라이브러리 및 뮤직 서비스를 추가하는 등 설치를 완료합니다.

## 부록 B: 무선 어댑터 마운팅

### 어댑터 마운팅

벽에 어댑터를 장착할 수 있습니다(하드웨어는 제공되지 않음). 마운팅 하드웨어에 본 지침과 다른 지침이 제공될 경우 하드웨어에 제공된 지침을 따르십시오.

이 표는 마운팅 하드웨어 사양을 설명합니다.

품목	나무	석고보드
벽 두께	19mm 이상	9.5mm 이상
드릴 비트	3mm	4.5mm
납작 머리 목재용 나사(2)	#8 x 32mm	#8 x 32mm
플라스틱 벽용 앵커(2)	사용되지 않음	#6 - 8 x 25mm


### 마운팅 옵션

두 가지 방법으로 어댑터를 마운트할 수 있습니다.

- 수직: 커넥터 패널이 왼쪽을 향하게
- 수평: 커넥터 패널이 위를 향하게

### 어댑터를 마운트하려면

- 중심간 거리 159mm를 유지하여 2개의 구멍을 뚫습니다.



- 플라스틱 벽 앵커를 삽입합니다(석고보드에 마운팅한 경우).

- 냅비 머리 목재용 나사를 설치합니다.

**참고:** 나사 머리를 벽 표면 위로 6.35mm 남깁니다.

- 나사 위로 어댑터를 배치합니다.



# 重要安全性指示

请花时间认真阅读本指南并遵守重要安全性指示。



等边三角形内的箭头状闪电标志警示用户：系统外壳内存在未绝缘的危险电压，它可能足以构成电击危险。



系统上标示的等边三角形内的感叹号标志旨在警示用户，在本用户指南中有相应的重要操作和维修指示。



## 小心：

- 不要改装本系统或配件。
- 未经授权的改装可能会对系统的安全性、合规性和性能造成负面影响。



## 警告：

- 为减少着火或电击的危险，请勿使本产品受淋或受潮。
- 本产品不得受液体淋溅或喷洒，不得将装有液体的物体（如花瓶等）置于本产品上或本产品附近。如同任何电子产品，谨防将液体溅入本产品的任何部分。使其接触液体可能会造成故障和/或火灾。
- 请勿将明火火源（如点燃的蜡烛）置于本产品上或靠近本产品。

1. 请阅读这些指示。
2. 请保留这些指示。
3. 请注意所有警告。
4. 请遵守所有指示。
5. 请勿在水附近使用本设备。
6. 请只使用干布进行清洁。
7. 请勿堵塞任何通风口。请按照制造商的说明安装。
8. 请勿安装在任何热源旁，例如暖气片、热调节装置、火炉或可产生热量的其他设备（包括扩音器）。
9. 只能使用制造商指定的附件/配件。
10. 任何维修事宜均请向合格的人员咨询。如果本设备在任何方面受到损坏均需进行维修，例如电源线或插头受损、液体溅入或物体落入设备内、本设备受淋或受潮、不能正常工作或跌落。

## 注意：

- 本产品的标志位于产品底部。
- 必须在室内使用本产品。在室外、旅游汽车或船舶上使用本产品均不符合本产品的设计或测试初衷。

## 重要合规信息

**注意：**本设备已经过测试，符合 FCC 规则第 15 部分有关 B 类数字设备的各项限制。这些限制性规定旨在防范安装在住宅中的设备产生有害干扰。本设备产生、使用并可能辐射无线电频率能量，如果不按照指示安装和使用，则可能会对无线电通讯造成有害干扰。然而，按照指示安装也不能保证某些安装不会发生干扰。如果本设备确实对无线电或电视接收造成有害干扰（可通过关闭和打开本设备来确定），用户可尝试采取以下一种或多种措施来纠正干扰：

- 调整接收天线的方向或位置。
- 增大本设备和接收器的间距。
- 将本设备和接收器电源线插入不同线路上的插座中。
- 请咨询经销商或有经验的无线电/电视技术人员以获得帮助。

# 重要安全性指示

## FCC 警告

未经 Bose Corporation 明确批准，擅自更改或修改本设备会使用户运行本设备的权利失效。

## 在美国和加拿大

本设备符合 FCC 规则的第 15 部分。本设备的工作情况可能出现下列两种情形：

(1) 本设备不会造成有害干扰 (2) 本设备必须承受任何接收到的干扰，包括造成设备工作不正常的干扰。

此 B 类数字设备符合加拿大 ICES-003 / CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B) 规范。

本设备符合为公众阐明的 FCC 和加拿大工业 RF 辐射限制。

- 本设备不能与其他天线或发射器位于同一地点或与这些设备一起使用。
- 这些设备符合加拿大工业免许可证 RSS 标准。本设备的工作情况可能出现下列两种情形：(1) 本设备不会造成干扰。(2) 本设备必须承受任何干扰，包括造成设备工作不正常的干扰。
- 本设备符合非受控环境下的 FCC 和加拿大工业 RF 辐射限制。您在安装和操作本设备时，身体应距离辐射体至少 8 英寸 (20 厘米)。



Bose Corporation 在此声明，本产品严格遵守 1999/5/EC 指令和其他所有适用的欧盟指令要求中的基本要求和其他相关规定。符合声明全文载于 [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)



此标志表示本产品不得作为生活垃圾丢弃，必须送至相关回收部门循环利用。适当的处理和回收有助于保护自然资源、人类健康以及自然环境。想了解更多有关本产品和回收的信息，请与当地民政部门、处理服务部或购买本产品的商店联系。

有毒或有害物质或元素的名称及成分						
零件名称	有毒或有害物质和元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴化联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板	X	O	O	O	O	O
金属零件	X	O	O	O	O	O
塑料零件	O	O	O	O	O	O
扬声器	X	O	O	O	O	O
线缆	X	O	O	O	O	O

此表格符合 SJ/T 11364 标准。

O: 表示此零件中所有同类物质包含的有毒或有害物质低于 GB/T 26572 中的限定要求。

X: 表示此零件使用的同类物质中至少有一种包含的有毒或有害物质高于 GB/T 26572 中的限定要求

# 监管信息

请填写以下内容，留作记录：

可以在系统底部上找到序列号和型号。

序列号：\_\_\_\_\_

型号：\_\_\_\_\_

购买日期：\_\_\_\_\_

建议您将发票和本用户指南保存在一起。

App Store 是 Apple Inc. 的服务标志。

Amazon、Kindle 和 Fire 是 Amazon.com, Inc. 或其附属公司的商标。

Android 和 Google Play 是 Google Inc. 的商标。

蓝牙® 文字标记和徽标是由 Bluetooth SIG, Inc. 所拥有的注册商标，Bose Corporation 根据许可协定使用上述标记。



iHeartRadio 是 iHeartMedia, Inc. 的注册商标。

iTunes 是 Apple Inc. 在美国及其他国家/地区的注册商标。

HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface 和 HDMI 徽标是 HDMI Licensing, LLC 在美国及其他国家/地区的商标或注册商标。

本产品采用了 Spotify 软件，所需第三方许可见：[www.spotify.com/connect/third-party-license](http://www.spotify.com/connect/third-party-license)

Spotify 是 Spotify AB 公司的注册商标。

SoundTouch 和无线符号设计是 Bose Corporation 在美国和其他国家的注册商标。

Wi-Fi 是 Wi-Fi Alliance® 的注册商标。

Windows 是 Microsoft Corporation 在美国及其他国家/地区的注册商标。

©2015 Bose Corporation。未经事先书面许可，不得复制、修改、发行或以其他方式使用本资料的任何部分。

## 简介

SoundTouch™ .....	7
系统优点 .....	7

## SoundTouch™

访问 SoundTouch™ .....	8
选择 SoundTouch™ 音频源 .....	8
使用 SoundTouch™ 音频源屏幕 .....	9
可以进行的操作 .....	9
预设如何工作 .....	10
需要了解的组件 .....	10
播放预设 .....	10
设置预设 .....	10
查找最近播放的内容 .....	11

## 蓝牙®

访问蓝牙® .....	12
选择蓝牙® 音频源 .....	12
使用蓝牙® 音频源屏幕 .....	13
清空系统的蓝牙® 配对列表 .....	13

## 使用应用程序控制系统

使用 SoundTouch™ 应用程序 .....	14
获取帮助 .....	14
使用另一智能手机、平板电脑或电脑来控制系统 .....	14

## 先进功能

控制按钮 .....	15
Wi-Fi® 指示灯 .....	15
禁用 Wi-Fi® 功能 .....	15
重新启用 Wi-Fi® 功能 .....	15
重置适配器 .....	16

# 目录

---

## 维护与保养

故障诊断 .....	17
添加 Wi-Fi® 网络.....	18
清洁 .....	18
客户服务 .....	18
有限质保 .....	18
技术信息 .....	18

## 附录 A: 设置 SoundTouch™

使用 SoundTouch™ 应用程序进行设置 .....	19
激活适配器上的设置模式 .....	19
将系统添加至已有的 SoundTouch™ 账户 .....	19
下载并安装 SoundTouch™ 应用程序 .....	19
将系统连接至家庭 Wi-Fi® 网络.....	19

## 附录 B: 安装无线适配器

安装适配器 .....	20
安装选项 .....	20
安装适配器.....	20

## SoundTouch™

SoundTouch™ 无线音乐系统通过家庭 Wi-Fi 网络无线传输提供清晰、震撼的音响效果。使用 SoundTouch™，您可以传输 Internet 无线电台、音乐服务和音乐库。

如果您家中已有 Wi-Fi® 和一套 SoundTouch™ 娱乐系统，那您便可在任意房间畅享您所喜爱的音乐。请参阅音频系统的用户指南，了解设置说明。

**注意：**如果您购买了适配器配件，请参阅快速入门指南了解设置说明。

### 系统优点

- 使用 SoundTouch™ 使您的 Bose 娱乐系统可以无线传输音乐。
- 享受以无线方式访问 Internet 无线电台、音乐服务和音乐库。
- 添加 SoundTouch™ 音频源，使您可以通过电视查看和控制您的预设、最近播放和正在播放的内容。
- 免费的 SoundTouch™ 应用程序使您能够通过电脑、智能手机或平板电脑浏览 Internet 无线电台、音乐服务和音乐库。
- 可以个性化设置多达六个预设，使用遥控器只需一键即可传输您的音乐。
- 使用智能手机或平板电脑进行无线设置。
- 使用现有的家庭 Wi-Fi 网络。
- 从启用蓝牙® 的设备传输音乐。
- 可随时而便捷地增加其它系统以获得多房间收听体验。
- 多样化的 Bose® 音频系统可使您可为任何房间选择适合的解决方案。

## 访问 SoundTouch™

您可以通过娱乐系统中的“音频源”菜单或 SoundTouch™ 应用程序访问 SoundTouch™。

- SoundTouch™ 来源：提供 SoundTouch™ 的一部分功能，使您可以播放“最近播放”和个性化设置预设。
- SoundTouch™ 应用程序：提供 SoundTouch™ 的全部控制功能，您可以管理您的系统设置、浏览 Internet 无线电台、设置并更改预设、向系统传输音乐、查看正在播放的内容以及使用其他更多功能。

## 选择 SoundTouch™ 音频源

您可以通过系统遥控器使用 SoundTouch™ 音频源控制您的预设、最近播放和正在播放的内容。

1. 打开系统电源。
2. 按遥控器上的 **SOURCE** 按钮。  
显示“音频源”菜单。



**提示：**您也可以按控制台上的 SOURCE 按钮。

3. 选择 SoundTouch™。

# 使用 SoundTouch™ 音频源屏幕

使用遥控器，您可以通过音频源屏幕访问 SoundTouch™ 的一部分功能。

## 可以进行的操作

- 个性化设置预设和播放预设（第 10 页）。
- 播放“最近播放”（第 11 页）。
- 在“正在播放”面板查看可用的艺术家信息。
- 控制回放（播放、暂停、停止、跳至下一首等）。
- 在“正在播放”面板查看内容的音频源。



想要更好地控制您的 SoundTouch™ 系统，请参阅第 14 页上的“使用 SoundTouch™ 应用程序”。

## 预设如何工作

---

您可以按照音乐库中收藏的流音乐服务、电台、播放列表、艺术家、专辑或歌曲来个性化设置六个预设。您可以使用电脑、智能手机、平板电脑上的 SoundTouch™ 或娱乐系统中的 SoundTouch™ 音频源随时访问您的音乐。

### 需要了解的组件

- 您可以通过应用程序和娱乐系统设置预设。
- 如果预设音频源为您的 iTunes 或 Windows Media Player 音乐库，请确保存储音乐库的电脑处于打开状态并与 SoundTouch™ 系统连接至相同的网络。

## 播放预设

---

个性化设置完预设后，使用遥控器或应用程序选择一个预设进行播放。

**注意：**如果没有播放音乐，请参阅“设置预设”。

## 设置预设

---

1. 使用应用程序或 SoundTouch™ 音频源向您的娱乐系统传输音乐。
2. 正在播放音乐时，按住遥控器上的一个预设数字（约 2 秒钟）。

**注意：**有关使用 SoundTouch™ 应用程序进行设置和更改预设的信息，请参阅应用程序中的“帮助”。

## 查找最近播放的内容

最近播放列表最多显示最近播放的 50 个 SoundTouch™ 条目。

### 1. 选择转至最近播放。

转至  
最近播放



显示“最近播放”面板。

最近播放  
内容



### 2. 选择一个条目。

# 蓝牙®

## 访问蓝牙®

您可以通过娱乐系统中的“音频源”菜单或 SoundTouch™ 应用程序访问蓝牙。

### 选择蓝牙® 音频源

借助蓝牙音频源，您可以使用系统遥控器配对和控制已启用蓝牙的设备。

1. 打开系统电源。
2. 按遥控器上的 **SOURCE** 按钮。  
显示“音频源”菜单。



**提示：**您也可以按控制台上的 SOURCE 按钮。

3. 选择蓝牙®。

## 使用蓝牙® 音频源屏幕

使用遥控器，您可以通过音频源屏幕访问蓝牙的一部分功能。

### 可以进行的操作

- 配对并连接您的蓝牙设备。
- 在“正在播放”面板查看可用的艺术家信息。
- 查看连接的设备。
- 控制回放（播放、暂停、停止、跳至下一首等）。
- 清空配对列表。



## 清空系统的蓝牙® 配对列表

将启用蓝牙的设备与您的系统进行配对时，连接将保存在系统的配对列表中。如果您无法连接设备，可能需要清空配对列表。清空列表后，需要再次配对之前已配对的设备。

1. 按下遥控器上的  按钮。
2. 选择 。

将在屏幕上显示类似于配对列表已清空的消息。

系统已准备好与设备配对。

# 使用应用程序控制系统

## 使用 SoundTouch™ 应用程序

SoundTouch™ 软件应用程序通过智能手机、平板电脑和计算机设置和控制 SoundTouch™。使用此应用程序，您的智能设备就像是 SoundTouch™ 系统的一个功能强大的遥控器。

您可以通过此应用程序管理 SoundTouch™ 设置、添加音乐服务、浏览本地和全球 Internet 无线电台、设置和更改预设、将音乐传输至系统、查看正在播放的内容等更多功能。

使用 SoundTouch™ 应用程序完成网络系统安装后，就可以浏览流媒体音乐和个性化预设。

### 获取帮助

#### [SoundTouch.com](#)

您可以访问用户支持中心，其中包括用户手册、文章、提示、教程、视频库以及用户社区，您可以在其中贴出问题和回答。

1. 打开浏览器。
2. 在地址栏中，输入 SoundTouch.com

### 应用程序中的“帮助”

提供使用 SoundTouch™ 的帮助文档。

1. 在您的设备上，选择  打开应用程序。
2. 在“浏览”面板上，选择帮助。

## 使用另一智能手机、平板电脑或电脑来控制系统


在您的家庭 Wi-Fi® 网络中设置好 SoundTouch™ 系统之后，即可从同一网络的任意一台智能手机、平板电脑或电脑上控制此系统。

1. 将设备连接到与系统相同的网络上。
2. 在设备上下载并安装 SoundTouch™ 应用程序：
  - iOS 用户：从应用程序商店下载
  - Android™ 用户：从 Google Play™ 商店下载
  - Amazon Kindle Fire 用户：从 Amazon Appstore 下载供 Android 系统使用的应用程序
  - 如果使用电脑，打开浏览器并转到：

[SoundTouch.com/app](#)

## 控制按钮

按住 Control 按钮可访问 SoundTouch™ 无线适配器的高级功能。



## Wi-Fi® 指示灯

适配器背面的 Wi-Fi 指示灯指示 Wi-Fi 状态。

指示灯活动	系统状态
闪烁的白色光	连接到 Wi-Fi 网络
稳定的白色光	系统已打开并连接至 Wi-Fi 网络
稳定的琥珀色	系统处于设置模式
琥珀色灯缓慢闪烁	与 Wi-Fi 网络断开
琥珀色灯快速闪烁	固件错误 - 联系 Bose 客户服务处
关闭	Wi-Fi 网络禁用或系统已连接至以太网

## 禁用 Wi-Fi® 功能

禁用 Wi-Fi 还会禁用蓝牙® 功能。

1. 打开娱乐系统电源。
2. 按住适配器的 Control 按钮 8-10 秒。
3. 当 Wi-Fi 指示灯关闭时，松开 Control 按钮。

## 重新启用 Wi-Fi® 功能

重新启用 Wi-Fi 还会重新启用蓝牙® 功能。

1. 打开娱乐系统电源。
2. 按适配器的 Control 按钮。

## 先进功能

---

### 重置适配器

---

出厂复位会清除系统的所有音频源和网络设置，并将其恢复为最初的出厂设置。

**注意：**此重设功能会清除您的 SoundTouch™ 预设和已保存网络凭证。

1. 打开娱乐系统电源。
2. 断开 Bose® link 连接线。
3. 重新连接线时按住控制按钮。
4. 在电脑上启动 SoundTouch™ 应用程序并将系统添加至网络。

# 故障诊断

问题	措施
无法完成网络设置或无法检测到适配器	<ul style="list-style-type: none"> <li>将 SoundTouch™ 无线适配器插入控制台上 Bose link 连接器中。</li> <li>用 USB 线缆连接无线适配器和控制台。此连接线必须与系统保持连接才能正常工作。</li> <li>将系统连接至交流（市电）电源插座。</li> <li>选择正确的网络名称并输入密码。</li> <li>连接设备和 SoundTouch™ 系统到同一 Wi-Fi® 网络。</li> <li>将无线适配器放置在路由器范围内。</li> <li>开启所设置设备（手机或电脑）上的 Wi-Fi。</li> <li>关闭其他打开的应用程序。</li> <li>如果使用电脑进行设置，请检查防火墙设置以确保 SoundTouch™ 应用程序和 SoundTouch™ 音乐服务器是允许的程序。</li> <li>通过加载 <a href="http://www.SoundTouch.com">www.SoundTouch.com</a> 测试互联网连接。</li> <li>重启移动设备、或电脑和路由器。</li> <li>重启 SoundTouch™ 系统（请参阅应用程序中的“帮助”系统）。</li> <li>卸载应用程序，重置系统，并重新安装。</li> <li>取消隐藏网络（如果已隐藏）以完成设置。</li> </ul>
无法连接到网络	<ul style="list-style-type: none"> <li>如果您的网络已更改或要将系统连接至另一网络中，请参考应用程序中的“帮助”系统。</li> <li>使用以太网线缆连接网络。</li> </ul>
“音频源”菜单中没有 SoundTouch™ 或蓝牙®	<ul style="list-style-type: none"> <li>更新控制台。请参阅娱乐系统的操作指南。</li> <li>确保 Bose® link 连接线和 USB 线缆完全连接至无线适配器和控制台。这些线缆必须与系统保持连接才能正常工作。</li> <li>完成 SoundTouch™ 设置。请参阅第 19 页。</li> </ul>
无法播放蓝牙®音频	<p>在系统中：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>使用蓝牙“音频源”菜单配对设备（第 13 页）。</li> <li>尝试配对其他设备。</li> <li>请参阅系统操作指南中的“无声音”。</li> <li>先设置 SoundTouch™，然后执行所有系统更新。</li> <li>清空系统配对列表（第 13 页）。</li> </ul> <p>在您的移动设备上：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>禁用并重新启用蓝牙功能。</li> <li>在蓝牙菜单中删除系统。再次配对。</li> <li>请参考启用蓝牙的设备的文档。</li> </ul>

## 维护与保养

---

### 添加 Wi-Fi® 网络

---

如果您的网络信息发生变化，或者需要将您的系统连接到其它网络，那么必须在娱乐系统 UNIFY® 菜单的网络设置中添加新的网络信息。

1. 打开娱乐系统电源。
2. 按控制台按钮面板上的 **Setup** 按钮。  
出现 UNIFY 菜单。
3. 选择**网络设置**。
4. 按照屏幕上的说明更改您的网络。

## 清洁

---

清洁 SoundTouch™ 无线适配器时，请用柔软的干布擦拭外壳。

- 请勿使用溶剂、化学品或喷雾剂。
- 请勿使液体溅入或者物品落入任何开口中。

## 客户服务

---

有关使用系统的其他帮助：

- 请访问 [SoundTouch.com](http://SoundTouch.com)
- 请联系 Bose® 客户服务处。请参阅包装箱内的联系方式列表。

## 有限质保

---

SoundTouch™ 无线适配器享受有限质保。包装箱中重要安全性指示表中提供了有限质保的详细内容。有关如何注册的说明，请参阅重要安全性指示表。没有完成这一过程并不影响您的有限质保权利。

此产品的质保信息不适用于澳大利亚和新西兰。有关澳大利亚和新西兰的保修信息，请浏览 [www.Bose.com.au/warranty](http://www.Bose.com.au/warranty) 或 [www.Bose.co.nz/warranty](http://www.Bose.co.nz/warranty)。

## 技术信息

---

**尺寸：** 2" H x 2 1/2" W x 9 3/8" D (5.1 cm x 6.4 cm x 23.8 cm)

**重量：** .75 lb (.34 kg)

# 使用 SoundTouch™ 应用程序进行设置

如果您无法通过 UNIFY® 完成网络设置，或者您未完成 SoundTouch™ 应用程序设置，您必须在已连接到网络的智能手机、平板电脑或电脑上下载并安装 Bose® SoundTouch™ 控制器应用程序。此应用程序引导您将系统连接至网络。

## 激活适配器上的设置模式

1. 在 SoundTouch™ 无线适配器的背面，按住 Control 按钮 1-8 秒。
2. Wi-Fi® 指示灯闪烁琥珀色时，松开 Control 按钮。Wi-Fi 指示灯应为稳定的琥珀色。

## 将系统添加至已有的 SoundTouch™ 账户

如果已经为另一系统设置了 SoundTouch™，则无需再次下载 SoundTouch™ 应用程序。

1. 在智能手机或平板电脑上选择 SoundTouch™ 图标  启动应用程序。
2. 选择浏览 > 设置 > 系统 > 添加系统添加另一个系统。

应用程序将帮助您完成设置。

## 下载并安装 SoundTouch™ 应用程序

在您的智能手机、平板电脑或电脑上，下载 SoundTouch™ 控制器应用程序。



Bose® SoundTouch™  
controller app

- iOS 用户：从应用程序商店下载
- Android™ 用户：从 Google Play™ 商店下载
- Amazon Kindle Fire 用户：从 Amazon Appstore 下载供 Android 系统使用的应用程序
- 如果使用电脑，打开浏览器并转到：  
[SoundTouch.com/app](http://SoundTouch.com/app)

## 将系统连接至家庭 Wi-Fi® 网络

安装应用程序后，将系统添加至网络：

1. 在智能手机、平板电脑或电脑上，选择  来启动应用程序。  
该应用将帮助您将系统连接到 Wi-Fi 网络。
2. 按照应用程序中的说明来完成设置，包括创建 SoundTouch™ 账户、添加音乐库和音乐服务。

## 附录 B：安装无线适配器

### 安装适配器

可将适配器安装到墙上（不包括硬件）。如果您的安装硬件的配备的说明与这些说明不同，请遵循硬件提供的说明。

此表为安装硬件规格。

物品	木材	墙板
墙的厚度	$\frac{3}{4}$ 英寸（19 毫米）或更厚	$\frac{3}{8}$ 英寸（9.5 毫米）或更厚
钻头	$\frac{1}{8}$ 英寸（3 毫米）	$\frac{3}{16}$ 英寸（4.5 毫米）
平头木螺丝 (2)	#8 x $1\frac{1}{4}$ 英寸（32 毫米）	#8 x $1\frac{1}{4}$ 英寸（32 毫米）
塑料墙锚 (2)	未使用	#6 - 8 x 1 英寸（25 毫米）


### 安装选项

有两种安装适配器的方法：

- 垂直安装；连接板朝左
- 水平安装；连接板朝上

### 安装适配器

1. 钻两个孔，中心距为  $6\frac{1}{4}$  英寸（159 毫米）。



2. 插入塑料墙锚（如果在墙板上安装）。

3. 安装平头木螺丝。

**注意：**在螺丝头与墙面之间留出  $\frac{1}{4}$  英寸（6.35 毫米）的距离。

4. 将适配器定位到螺丝上。



# 重要安全性指示

請花時間認真閱讀本指南並遵守重要安全性指示。

 等邊三角形內的箭頭狀電閃標誌警示使用者：系統外殼內存在未絕緣的危險電壓，它可能足以構成電擊危險。

 系統上標示的等邊三角形內的感歎號標誌旨在警示使用者，本使用者指南中有相應的重要操作和維護說明。

## 小心：

- 請勿改裝本系統或配件。
- 未經授權的改裝可能會對安全性、合規性和系統效能造成負面影響。

## 警告：

- 為減少著火或電擊的危險，請勿使本產品受淋或受潮。
- 本產品不得受液體淋濺或噴灑，不得將裝有液體的物體（如花瓶等）置於本產品上或本產品附近。如同任何電子產品，謹防將液體濺入本產品的任何部分。使其接觸液體可能會造成故障和/或火災。
- 請勿將明火火源（如點燃的蠟燭）置於本產品上或靠近本產品。

1. 閱讀這些指示。
2. 保留這些指示。
3. 注意所有警告。
4. 請遵守所有指示。
5. 不要在水邊使用此裝置。
6. 只能用乾布清潔。
7. 請勿堵塞任何通風口。請按照製造商的說明安裝。
8. 請勿安裝在任何熱源旁，例如暖氣片、熱調節裝置、火爐或可產生熱量的其他設備（包括擴音器）。
9. 只能使用製造商指定的附件/配件。
10. 任何維修事宜均請向合格的人員諮詢。如果本裝置在任何方面受到損壞均需進行維修，例如電源線或插頭受損；液體濺入或物體落入裝置內；本裝置受淋或受潮、不能正常工作或跌落。

## 備註：

- 產品標籤位於產品底部。
- 必須在室內使用本產品。在室外、旅遊汽車或船舶上使用本產品均不符合本產品的設計或測試初衷。

## 重要合規資訊

備註：本設備已經過測試，符合 FCC 規則第 15 部分有關 B 類數位裝置的各項限制。這些限制性規定旨在防範安裝在住宅中的裝置產生有害干擾。本設備產生、使用並可能輻射無線電頻率能量，如果不按照指示安裝和使用，則可能會對無線電通訊造成有害干擾。然而，按照指示安裝並不能保證某些安裝不會發生干擾。如果本設備確實對無線電或電視接收造成有害干擾（可透過關閉和打開本設備來確定），使用者可嘗試採取以下一種或多種措施來糾正干擾：

- 調整接收天線的方向或位置。
- 增大本設備和接收器的間距。
- 將本裝置和接收器電源線插入不同線路上的插座中。
- 請諮詢經銷商或有經驗的無線電/電視技術人員以獲得協助。

# 重要安全性指示

## FCC 警告

未經 Bose Corporation 明確批准，擅自變更或修改本裝置會使使用者運行本裝置的權利失效。

## 在美國和加拿大

本裝置符合 FCC 規則的第 15 部分。本裝置的工作情況可能出現下列兩種情形：

(1) 本裝置不會造成有害干擾 (2) 本裝置必須承受任何接收到的干擾，包括造成裝置工作不正常的干擾。

此 B 類數位設備符合加拿大 ICES-003 / CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B) 規範。

本裝置符合為公眾闡明的 FCC 和加拿大工業 RF 輻射限制。

- 本裝置不能與其他天線或發射器位於同一地點或與這些裝置一起使用。
- 此裝置符合加拿大工業免許可證 RSS 標準。本裝置的工作情況可能出現下列兩種情形：(1) 本裝置不會造成干擾。(2) 本裝置必須承受任何干擾，包括造成本裝置工作不正常的干擾。
- 本設備符合為失控環境闡明的 FCC 和加拿大工業輻射限制。您在安裝和操作本設備時，身體應距離輻射體至少 8 英吋 (20 公分)。



Bose Corporation 在此聲明本產品嚴格遵守 1999/5/EC 指令和其他所有適用於歐盟指令要求中的基本要求和其他相關規定。符合聲明全文載於 [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)



此標誌表示本產品不得作為生活垃圾丟棄，必須送至相關回收部門迴圈利用。適當的處理和回收有助於保護自然資源、人類健康以及自然環境。想了解更多有關本產品和回收的資訊，請與當地民政部門、處理服務部或購買本產品的商店聯絡。

有毒或有害物質或元素的名稱及成分						
零件名稱	有毒或有害物質或元素					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr(VI))	多溴化聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
列印電路板	X	O	O	O	O	O
金屬零件	X	O	O	O	O	O
塑膠零件	O	O	O	O	O	O
揚聲器	X	O	O	O	O	O
連接線	X	O	O	O	O	O

此表格符合 SJ/T 11364 標準。

O : 表示此零件中所有同類物質包含的有毒或有害物質低於 GB/T 26572 中的限定要求。

X : 表示此零件使用的同類物質中至少有一種包含的有毒或有害物質高於 GB/T 26572 中的限定要求。

# 監管資訊

## 請填寫以下內容，留作記錄：

可以在系統底部找到序號和型號。

序號：

型號：

購買日期：

建議您將發票和本使用者指南保存在一起。

App Store 是 Apple Inc. 的服務標記。

Amazon、Kindle 和 Fire 是 Amazon.com, Inc. 或其附屬公司的商標。

Android 和 Google Play 是 Google Inc. 的商標。

藍芽® 文字標記和徽標是由 Bluetooth SIG, Inc. 所擁有的註冊商標，Bose Corporation 對上述標記的任何使用都遵守許可規定。



iHeartRadio 是 iHeartMedia, Inc. 的註冊商標。

iTunes 是 Apple Inc. 在美國及其他國家/地區的註冊商標。

HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface 和 HDMI 徽標是 HDMI Licensing, LLC 在美國及其他國家/地區的商標或註冊商標。

本產品採用了 Spotify 軟體，所需協力廠商授權見：[www.spotify.com/connect/third-party-license](http://www.spotify.com/connect/third-party-license)

Spotify 是 Spotify AB 公司的註冊商標。

SoundTouch 和無線符號設計是 Bose Corporation 在美國和其他國家的註冊商標。

Wi-Fi 是 Wi-Fi Alliance® 的註冊商標。

Windows 是 Microsoft Corporation 在美國及其他國家/地區的註冊商標。

©2015 Bose Corporation。未經事先書面許可，不得複製、修改、發行或以其他方式使用本資料的任何部分。

## 簡介

SoundTouch™ .....	7
系統優點 .....	7

## SoundTouch™

存取 SoundTouch™ .....	8
選取 SoundTouch™ 音訊源 .....	8
使用 SoundTouch™ 音訊源螢幕 .....	9
可以進行的操作 .....	9
預設如何工作 .....	10
需要了解的元件 .....	10
播放預設 .....	10
設定預設 .....	10
搜尋最近播放的內容 .....	11

## 藍芽®

存取藍芽® .....	12
選擇藍芽® 音訊源 .....	12
使用藍芽® 音訊源螢幕 .....	13
清空系統的藍芽® 配對清單 .....	13

## 使用應用程式控制系統

使用 SoundTouch™ 應用程式 .....	14
獲取說明 .....	14
使用另一智慧型手機、平板電腦或電腦來控制系統 .....	14

## 進階功能

控制按鈕 .....	15
Wi-Fi® 指示燈 .....	15
禁用 Wi-Fi® 功能 .....	15
重新啟用 Wi-Fi® 功能 .....	15
重設配接器 .....	16

# 目錄

---

## 維護與保養

疑難排解 .....	17
新增 Wi-Fi® 網路 .....	18
清潔 .....	18
客戶服務 .....	18
有限質保 .....	18
技術資訊 .....	18

## 附錄 A：設定 SoundTouch™

使用 SoundTouch™ 應用程式進行設定 .....	19
啟動配接器上的設定模式 .....	19
將系統新增至已有的 SoundTouch™ 帳戶 .....	19
下載並安裝 SoundTouch™ 應用程式 .....	19
將系統連接至家庭 Wi-Fi® 網路 .....	19

## 附錄 B：安裝無線配接器

安裝配接器 .....	20
安裝選項 .....	20
安裝配接器 .....	20

## SoundTouch™

SoundTouch™ 無線音樂系統透過家庭 Wi-Fi 網路無線傳輸提供清晰、震撼的音響效果。使用 SoundTouch™，您可以傳輸網際網路廣播、音樂服務和音樂庫。

如果您家中已有 Wi-Fi® 和一套 SoundTouch™ 娛樂系統，那您便可在任意房間暢享您所喜愛的音樂。請參閱音訊系統的使用者指南，了解設定說明。

**備註：**如果您購買了配接器配件，請參閱快速入門指南了解設定說明。

### 系統優點

- 使用 SoundTouch™ 使您的 Bose 娛樂系統可以無線傳輸音樂。
- 享受以無線方式存取網際網路廣播、音樂服務和音樂庫。
- 新增 SoundTouch™ 音訊源，使您可以透過電視查看和控制您的預設、最近播放和正在播放的內容。
- 免費的 SoundTouch™ 應用程式使您能夠透過電腦、智慧型手機和平板電腦流覽 Internet 無線電臺、音樂服務和音樂庫。
- 可以個人化設定多達六個預設，使用遙控器只需一鍵即可傳輸您的音樂。
- 使用智慧型手機或平板電腦進行無線設定。
- 使用現有的家庭 Wi-Fi 網路。
- 從啟用藍芽® 的裝置傳輸音樂。
- 可隨時而便捷地增加其他系統以獲得多房間收聽體驗。
- 多樣化的 Bose® 音訊系統可使您可為任何房間選擇適合的解決方案。

## 存取 SoundTouch™

您可以透過娛樂系統中的「音訊源」功能表或 SoundTouch™ 應用程式存取 SoundTouch™。

- SoundTouch™ 音訊源：提供 SoundTouch™ 的一部分功能，使您可以播放「最近播放」和個性化設定預設。
- SoundTouch™ 應用程式：提供 SoundTouch™ 的全部控制功能，您可以管理您的系統設定、瀏覽 Internet 無線電台、設定並變更預設、向系統傳輸音樂、檢視正在播放的內容以及使用其他更多功能。

## 選取 SoundTouch™ 音訊源

您可以透過系統遙控器使用 SoundTouch™ 音訊源控制您的預設、最近播放和正在播放的內容。

1. 打開系統電源。
2. 按遙控器上的 **SOURCE** 按鈕。  
顯示「音訊源」功能表。



**提示：**您也可以按控制台上的 SOURCE 按鈕。


3. 選取 SoundTouch™。

# 使用 SoundTouch™ 音訊源螢幕

使用遙控器，您可以透過音訊源螢幕存取 SoundTouch™ 的一部分功能。

## 可以進行的操作

- 個性化設定預設和播放預設（第 10 頁）。
- 播放「最近播放」（第 11 頁）。
- 在「正在播放」面板查看可用的藝術家資訊。
- 控制重播（播放、暫停、停止、跳至下一首等）。
- 在「正在播放」面板查看內容的音訊源。



想要更好地控制您的 SoundTouch™ 系統，請參閱第 14 頁上的「使用 SoundTouch™ 應用程式」。

## 預設如何工作

---

您可以依據音樂庫中最愛的流音樂服務、電台、播放清單、藝術家、專輯或歌曲來個性化設定六個預設。您可以使用電腦、智慧型手機、平板電腦上的 SoundTouch™ 或娛樂系統中的 SoundTouch™ 音訊源隨時存取您的音樂。

### 需要了解的元件

- 您可以透過應用程式和娛樂系統設定預設。
- 若預設音訊源為您的 iTunes 或 Windows Media Player 音樂庫，請確保保存儲音樂庫的電腦處於打開狀態並與 SoundTouch™ 系統連接至相同的網路。

## 播放預設

---

個性化設定預設後，使用遙控器或應用程式選取一個預設進行播放。

**備註：**如果沒有播放音樂，請參閱「設定預設」。

## 設定預設

---

1. 使用應用程式或 SoundTouch™ 音訊源向您的娛樂系統傳輸音樂。

2. 正在播放音樂時，按住遙控器上的一個預設數字（約 2 秒鐘）。

**備註：**有關使用 SoundTouch™ 應用程式進行設定和更改預設的資訊，請參閱應用程式中的「說明」。

## 搜尋最近播放的內容

最近播放清單最多顯示最近播放的 50 個 SoundTouch™ 條目。

- 選取轉至最近播放。

轉至  
最近播放



顯示「最近播放」面板。

最近播放  
內容



- 選取一個條目。

## 存取藍芽®

您可以透過娛樂系統中的「音訊源」功能表或 SoundTouch™ 應用程式存取藍芽®。

### 選擇藍芽® 音訊源

借助藍芽音訊源，您可以使用系統遙控器配對和控制已啟用藍芽的裝置。

1. 打開系統電源。
2. 按遙控器上的 **SOURCE** 按鈕。

顯示「音訊源」功能表。



**提示：**您也可以按控制台上的 SOURCE 按鈕。

3. 選取藍芽®。

## 使用藍芽® 音訊源螢幕

使用遙控器，您可以透過音訊源螢幕存取藍芽的一部分功能。

### 可以進行的操作

- 配對並連接您的藍芽裝置。
- 在「正在播放」面板查看可用的藝術家資訊。
- 查看連接的裝置。
- 控制重播（播放、暫停、停止、跳至下一首等）。
- 清空配對清單。



## 清空系統的藍芽® 配對清單

將啟用藍芽的裝置與您的系統進行配對時，連接將存儲在系統的配對清單中。如果您無法連接裝置，可能需要清空配對清單。清空清單後，需要再次配對之前已配對的裝置。

1. 按下遙控器上的  按鈕。

2. 選取 。

將在螢幕上顯示類似於配對清單已清空的消息。

系統已準備好與裝置配對。

# 使用應用程式控制系統

## 使用 SoundTouch™ 應用程式

SoundTouch™ 應用程式是一款軟體應用程式，可讓您使用智慧型手機、平板電腦或電腦來設定並控制 SoundTouch™。使用此應用程式，您的智慧裝置就像是 SoundTouch™ 系統的一個功能強大的遙控器。

您可以透過此應用程式管理 SoundTouch™ 設定、新增音樂服務、瀏覽本地和全球 Internet 無線電台、設定和更改預設、將音樂傳輸至系統、檢視正在播放的內容等更多功能。

使用 SoundTouch™ 應用程式完成網路系統安裝後，就可以瀏覽流媒體音樂和個人化預設。

### 獲取說明

#### [SoundTouch.com](http://SoundTouch.com)

您可以存取使用者支援中心，其中包括使用者手冊、文章、提示、教程、視訊庫以及使用者社區，您可以在其中貼出問題和回答。

1. 開啟瀏覽器。
2. 在地址欄位中，輸入 SoundTouch.com

### 應用程式中的「說明」

提供使用 SoundTouch™ 的說明文件。

1. 在您的裝置上，選擇  打開應用程式。
2. 在「瀏覽」面板上，選擇說明。

## 使用另一智慧型手機、平板電腦或電腦來控制系統


一旦在您的家庭 Wi-Fi® ® 網路中設定好 SoundTouch™ 系統，即可從同一網路的任意一台智慧型手機、平板電腦或電腦上控制此系統。

1. 將裝置連接到您系統所用的同一網路。
2. 在此裝置上，下載並安裝 SoundTouch™ 應用程式：
  - iOS 使用者：從應用程式商店下載
  - Android™ 使用者：從 Google Play™ 商店下載
  - Amazon Kindle Fire 使用者：從 Amazon Appstore 下載供 Android 系統使用的應用程式
  - 如果使用電腦，打開瀏覽器並轉到：

[SoundTouch.com/app](http://SoundTouch.com/app)

## 控制按鈕

按住 Control 按鈕可存取 SoundTouch™ 無線配接器的高級功能。



## Wi-Fi® 指示燈

配接器背面的 Wi-Fi 指示燈指示 Wi-Fi 狀態。

指示燈活動	系統狀態
閃爍的白色光	連接到 Wi-Fi 網路
穩定的白色光	系統已打開並連接至 Wi-Fi 網路
穩定的琥珀色	系統處於設定模式
琥珀色燈緩慢閃爍	與 Wi-Fi 網路斷開
琥珀色燈快速閃爍	韌體錯誤 - 聯絡 Bose 客戶服務處
關閉	Wi-Fi 網路禁用或系統已連接至乙太網

## 禁用 Wi-Fi® 功能

禁用 Wi-Fi 還會禁用藍芽® 功能。

1. 打開娛樂系統電源。
2. 按住配接器的 Control 按鈕（8-10 秒）。
3. 當 Wi-Fi 指示燈關閉時，鬆開 Control 按鈕。

## 重新啟用 Wi-Fi® 功能

重新啟用 Wi-Fi 還會重新啟用藍芽® 功能。

1. 打開娛樂系統電源。
2. 按一下配接器的 Control 按鈕。

## 進階功能

---

### 重設配接器

---

原廠重設會清除系統的所有音訊源和網路設定，並將其恢復為最初的出廠設定。

**備註：**該重設功能可清除您的 SoundTouch™ 預設和已存儲的網路憑證。

1. 打開娛樂系統電源。
2. 斷開 Bose® link 連接線。
3. 重新連接接線時要按住控制按鈕。
4. 在電腦上啟動 SoundTouch™ 應用程式並將系統新增至網路。

## 疑難排解

問題	措施
無法完成網路設定或無法檢測到配接器	<ul style="list-style-type: none"> <li>將 SoundTouch™ 無線配接器插入控制台上的 Bose link 連接器中。</li> <li>用 USB 線纜連接無線適配器和控制台。此連接線必須與系統保持連接才能正常工作。</li> <li>將系統連接至交流（市電）電源插座。</li> <li>選取正確的網路名稱並輸入密碼。</li> <li>連接裝置和 SoundTouch™ 系統到同一 Wi-Fi® 網路。</li> <li>將無線配接器放置在路由器範圍內。</li> <li>開啟所設定裝置（手機或電腦）上的 Wi-Fi。</li> <li>關閉其他打開的應用程式。</li> <li>如果使用電腦進行設定，請檢查防火牆設定以確保 SoundTouch™ 應用程式和 SoundTouch™ 音樂伺服器是允許的程式。</li> <li>透過載入 <a href="http://www.SoundTouch.com">www.SoundTouch.com</a> 測試網際網路連接。</li> <li>重啟行動裝置或電腦和路由器。</li> <li>重啟 SoundTouch™ 系統（請參閱應用程式中的「說明」系統）。</li> <li>卸載此應用程式，重設系統，重新進行設定。</li> <li>取消隱藏網路（如果已隱藏）以完成設定。</li> </ul>
無法連接到網路	<ul style="list-style-type: none"> <li>如果您的網路已更改或要將系統連接至另一網路中，請參考應用程式中的「說明」系統。</li> <li>使用乙太網線纜連接網路。</li> </ul>
「音訊源」功能表中沒有 SoundTouch™ 或 藍芽®	<ul style="list-style-type: none"> <li>更新控制台。請參閱娛樂系統的操作指南。</li> <li>確保 Bose® link 連接線和 USB 線纜完全連接至無線配接器和控制台。這些線纜必須與系統保持連接才能正常工作。</li> <li>完成 SoundTouch™ 設定。請參閱第 19 頁。</li> </ul>
無法播放藍芽® 音訊	<p>在系統中：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>使用藍芽「音訊源」功能表配對裝置（第 13 頁）。</li> <li>嘗試配對其他裝置。</li> <li>請參閱系統操作指南中的「無聲音」。</li> <li>先設定 SoundTouch™，然後執行所有系統更新。</li> <li>清空系統配對清單（第 13 頁）。</li> </ul> <p>在您的行動裝置上：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>禁用並重新啟用藍芽功能。</li> <li>在藍芽功能表中刪除系統。再次配對。</li> <li>請參考啟用藍芽的裝置的文件。</li> </ul>

## 維護與保養

---

### 新增 Wi-Fi® 網路

---

若您的網路資訊發生變化，或者需要將您的系統連接到其他網路，那麼必須在娛樂系統 UNIFY® 功能表的網路設定中新增網路資訊。

1. 打開娛樂系統電源。
2. 按控制台按鈕面板上的 **Setup** 按鈕。  
顯示 UNIFY 功能表。
3. 選取**網路設定**。
4. 按照螢幕上的說明變更您的網絡。

## 清潔

---

清潔 SoundTouch™ 無線配接器時，請用柔軟的幹布擦拭外殼。

- 請勿使用溶劑、化學品或噴霧劑。
- 請勿使液體濺入或者物品落入任何開口中。

## 客戶服務

---

有關使用系統的其他說明：

- 請到訪 [SoundTouch.com](http://SoundTouch.com)
- 請聯絡 Bose® 客戶服務處。請參閱包裝箱內的連絡方式清單。

## 有限質保

---

SoundTouch™ 無線配接器享有有限質保。包裝箱中重要安全性指示表中提供了有限質保的詳細內容。有關如何註冊的說明，請參閱重要安全性指示表。沒有完成這一過程並不影響您的有限質保權利。

本產品的質保資訊並不適用於澳大利亞和紐西蘭。有關澳大利亞和紐西蘭的保修資訊，請瀏覽 [www.Bose.com.au/warranty](http://www.Bose.com.au/warranty) 或 [www.Bose.co.nz/warranty](http://www.Bose.co.nz/warranty)。

## 技術資訊

---

- 尺寸：** 2" H x 2 1/2" W x 9 3/8" D (5.1 cm x 6.4 cm x 23.8 cm)  
**重量：** .75 lb (.34 kg)

### 使用 SoundTouch™ 應用程式進行設定

如果您無法透過 UNIFY® 完成網路設定，或者您未完成 SoundTouch™ 應用程式設定，您必須在已連接到網路的智慧型手機、平板電腦或電腦上下載並安裝 Bose® SoundTouch™ 控制器應用程式。此應用程式引導您將系統連接至網路。

#### 啟動配接器上的設定模式

1. 在 SoundTouch™ 無線配接器的背面，按住 Control 按鈕 1-8 秒。
2. Wi-Fi® 指示燈閃爍琥珀色時，鬆開 Control 按鈕。Wi-Fi 指示燈應為穩定的琥珀色。

#### 將系統新增至已有的 SoundTouch™ 帳戶

如果已經為另一系統設定了 SoundTouch™，則無需再次下載 SoundTouch™ 應用程式。

1. 在智慧型手機或平板電腦上選取 SoundTouch 圖標  啟動應用程式。
2. 選取**瀏覽 > 設定 > 系統 > 新增系統**增加另一個系統。

應用程式將幫助您完成設定。

#### 下載並安裝 SoundTouch™ 應用程式

在智慧型手機、平板電腦或電腦上，下載 SoundTouch™ 控制器應用程式。



Bose® SoundTouch™  
controller app

- iOS 使用者：從應用程式商店下載
- Android™ 使用者：從 Google Play™ 商店下載
- Amazon Kindle Fire 使用者：從 Amazon Appstore 下載供 Android 系統使用的應用程式
- 如果使用電腦，打開瀏覽器並轉到：  
**SoundTouch.com/app**

#### 將系統連接至家庭 Wi-Fi® 網路

安裝應用程式後，將系統新增至網路：

1. 在智慧型手機、平板電腦或電腦上，選取  來啟動應用程式。  
此應用程式引導您將系統連接至 Wi-Fi 網路。
2. 按照應用程式中的說明來完成設定，包括建立 SoundTouch™ 帳戶、新增音樂庫和音樂服務。

## 附錄 B：安裝無線配接器

### 安裝配接器

可將配接器安裝到牆上（不包括五金件）。如果安裝五金件的說明與此說明不同，請遵循五金件所提供的說明。

此表說明安裝五金件的規格。

物品	木材	牆板
牆的厚度	$\frac{3}{4}$ 英吋（19 公厘）或更厚	$\frac{3}{8}$ 英吋（9.5 公厘）或更厚
鑽頭	$1\frac{1}{8}$ 英吋（3 公厘）	$\frac{3}{16}$ 英吋（4.5 公厘）
平頭木螺絲 (2)	#8 x $1\frac{1}{4}$ 英吋（32 公厘）	#8 x $1\frac{1}{4}$ 英吋（32 公厘）
塑膠牆錨 (2)	未使用	#6 - 8 x 1 英吋 (25 公厘)


### 安裝選項

有兩種安裝配接器的方法：

- 垂直安裝；連接板朝左
- 水平安裝；連接板朝上

### 安裝配接器

1. 鑽兩個孔，中心距為  $6\frac{1}{4}$  英吋（159 公厘）。



2. 插入塑膠牆錨（如果在牆板上安裝）。

3. 安裝平頭木螺絲。

**備註：**在螺絲頭與牆面之間留出  $\frac{1}{4}$  英吋（6.35 公厘）的距離。

4. 將配接器定位到螺絲上。



# 安全上の留意項目

このガイドに記載された安全上の留意項目をよく読み、それに従ってください。

 正三角形に矢印付き稲妻マークが入った表示は、製品内部に電圧の高い危険な部分があり、感電の原因となる可能性があることをお客様に注意喚起するものです。

 正三角形に感嘆符が入った表示は、製品本体にも表示されている通り、このオーナーズガイドの中に製品の取り扱いとメンテナンスに関する重要な項目が記載されていることをお客様に注意喚起するものです。

## 注意:

- システムやアクセサリーを改造しないでください。
- 許可なく製品を改造すると、安全性、法令の遵守、およびシステムパフォーマンスを損なう原因となる場合があります。

## 警告:

- 火災や感電を避けるため、雨の当たる場所や湿度の高い場所で製品を使用しないでください。
- 水漏れやしぶきがかかるような場所でこの製品を使用しないでください。また、花瓶などの液体が入った物品を製品の上や近くに置かないでください。他の電気製品と同様、製品内に液体が侵入しないように注意してください。液体が侵入すると、故障や火災の原因となることがあります。
- 火の付いたろうそくなどの火気を、製品の上や近くに置かないでください。

1. 本書をよくお読みください。
2. 必要なときをご覧になれるよう、本書を保管してください。
3. すべての注意と警告に留意してください。
4. すべての指示に従ってください。
5. この製品を水の近くで使用しないでください。
6. お手入れは乾いた布を使用し、ボーズ社の指示に従って行ってください。
7. 通気孔は塞がないでください。ボーズ社の指示に従って設置してください。
8. ラジエータ、暖房送風口、ストーブ、その他の熱を発する装置(アンプを含む)の近くには設置しないでください。
9. 必ずメーカーにより指定された付属品、あるいはアクセサリーのみをご使用ください。
10. 修理が必要な際には、サービスセンターにお問い合わせください。製品に何らかの損傷が生じた場合、例えば電源コードやプラグの損傷、液体や物の内部への落下、雨や湿気などによる水濡れ、動作の異常、製品本体の落下などの際には、直ちに電源プラグを抜き、修理をご依頼ください。

## 注記:

- 製品ラベルは本体底面にあります。
- この製品は屋内専用機器です。屋外、RV車内、船上などで使用するようには設計されていません。また、そのような使用環境におけるテストも行われていません。

## Important Compliance Information

**Note:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

# 安全上の留意項目

## FCC WARNING

Changes or modifications not expressly approved by Bose Corporation could void the user's authority to operate this equipment.

## In USA and Canada

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003 / CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B).

This device complies with FCC and Industry Canada RF radiation exposure limits set forth for general population.

- This device must not be co-located or be operating in conjunction with any other antennas or transmitters.
- This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation.
- This equipment complies with FCC and Industry Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 8 inches (20 cm) between radiator and your body.



Bose Corporation hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC and all other applicable EU directive requirements. The complete Declaration of Conformity can be found at [www.Bose.com](http://www.Bose.com) compliance



This symbol means the product must not be discarded as household waste, and should be delivered to an appropriate collection facility for recycling. Proper disposal and recycling helps protect natural resources, human health and the environment. For more information on disposal and recycling of this product, contact your local municipality, disposal service, or the shop where you bought this product.

Names and Contents of Toxic or Hazardous Substances or Elements						
	Toxic or Hazardous Substances and Elements					
Part Name	Lead (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent (CR(VI))	Polybrominated Biphenyl (PBB)	Polybrominated diphenylether (PBDE)
PCBs	X	O	O	O	O	O
Metal parts	X	O	O	O	O	O
Plastic parts	O	O	O	O	O	O
Speakers	X	O	O	O	O	O
Cables	X	O	O	O	O	O

This table is prepared in accordance with the provisions of SJ/T 11364.

O: Indicates that this toxic or hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement of GB/T 26572.

X: Indicates that this toxic or hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement of GB/T 26572

# 規制に関する情報

控えとして、製品のシリアル番号を下の欄にご記入ください。

シリアル番号とモデル番号は、システムの底面に記載されています。

シリアル番号: \_\_\_\_\_

モデル番号: \_\_\_\_\_

購入日: \_\_\_\_\_

このガイドとともに、ご購入時の領収証と保証書を保管することをおすすめします。

App StoreはApple Inc.のサービスマークです。

Amazon、Kindle、およびFireはAmazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

AndroidおよびGoogle PlayはGoogle Inc.の商標です。

Bluetooth®のワードマークとロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標で、Bose Corporationはこれらの商標を使用する許可を受けています。



iHeartRadioはiHeartMedia, Inc.の登録商標です。

iTunesは、米国および他の国々におけるApple Inc.の商標です。

HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface、およびHDMIのロゴはHDMI Licensing, LLCの米国および他の国々における商標または登録商標です。

この製品にはSpotifyソフトウェアが組み込まれており、次のサイトに掲載されたサードパーティのライセンスが適用されます。 [www.spotify.com/connect/third-party-license](http://www.spotify.com/connect/third-party-license)

SpotifyはSpotify ABの登録商標です。

SoundTouchおよび音符と無線電波を組み合わせたデザインは、米国および他の国々におけるBose Corporationの商標です。

Wi-FiはWi-Fi Alliance®の登録商標です。

Windowsは、アメリカ合衆国および他の国々におけるMicrosoft Corporationの登録商標です。

©2015 Bose Corporation. 本書のいかなる部分も、書面による事前の許可のない複写、変更、配布、その他の使用は許可されません。

---

## はじめに

SoundTouch™ .....	7
システムの特長.....	7

## SoundTouch™

SoundTouch™を使用する.....	8
SoundTouch™ソースを選択する .....	8
SoundTouch™ソース画面を使用する .....	9
可能な操作.....	9
プリセットの機能.....	10
必要な知識.....	10
プリセットを再生する.....	10
プリセットを設定する.....	10
最近再生したコンテンツを探す .....	11

## Bluetooth®

Bluetooth®を使用する .....	12
Bluetooth®ソースを選択する.....	12
Bluetooth®機器を使用する.....	13
システムのBluetooth®ペアリングリストを消去する .....	13

## アプリを使用したシステムの操作

SoundTouch™ appを使用する .....	14
困ったときは.....	14
別のスマートフォン、タブレット、コンピューターなど からシステムを操作する .....	14

## 高度な機能

Controlボタン .....	15
Wi-Fi®インジケーター .....	15
Wi-Fi®機能を無効にする .....	15
Wi-Fi®機能を再度有効にする.....	15
アダプターを工場出荷時の設定に戻す .....	16

# 目次

---

## お手入れについて

故障かな？と思ったら .....	17
Wi-Fi®ネットワークを追加する .....	18
お手入れについて .....	18
お問い合わせ先 .....	18
保証 .....	18
仕様 .....	18

## 付録A: SoundTouch™のセットアップ

SoundTouch™ app を使用してセットアップする .....	19
アダプターでセットアップモードを有効にする .....	19
既存のSoundTouch™アカウントにシステムを追加する .....	19
SoundTouch™ app をダウンロードしてインストールする .....	19
システムをホーム Wi-Fi®ネットワークに接続する .....	19

## 付録B: ワイヤレスアダプターを壁に取り付けるには

アダプターを壁に取り付ける .....	20
取り付け方法 .....	20
アダプターを壁に取り付けるには .....	20

## SoundTouch™

SoundTouch™ wireless music systemは、ホームWi-Fiネットワークを通じて、お部屋を満たすクリアなサウンドで音楽をお楽しみいただけるスピーカーシステムです。SoundTouch™を使用すると、インターネットラジオ、音楽サービス、コンピューターの音楽ライブラリなどをストリーミング配信できます。

Wi-Fi®とSoundTouch™対応エンターテイメントシステムがあれば、お気に入りの音楽を家の中のどの場所でもすぐに再生できます。セットアップ手順については、システムのオナーズガイドをご覧ください。

**注記:** アクセサリーとしてアダプターを購入した場合、セットアップ手順についてはクイックスタートガイドをご覧ください。

### システムの特長

- SoundTouch™を使用すると、Boseエンターテイメントシステムからの音楽をワイヤレスで再生できます。
- インターネットラジオ、音楽サービス、コンピューターの音楽ライブラリなどをワイヤレスで利用できます。
- SoundTouch™ソースを追加して、プリセット、最近再生したソース、再生中のソースなどの情報をテレビ画面に表示できます。
- 無料のSoundTouch™ appを使用して、インターネットラジオ、音楽サービス、コンピューターやスマートフォン、タブレットなどに保存されている音楽ライブラリなどを検索できます。
- 6つのプリセットに音楽を自由に保存し、リモコンを使用してワンタッチで再生できます。
- スマートフォンやタブレットからワイヤレスをセットアップできます。
- 自宅のWi-Fiネットワークにすぐに接続できます。
- Bluetooth®対応機器から音楽をストリーミング再生できます。
- 接続機器をいつでも簡単に追加して、自宅のどの部屋でも再生できます。
- さまざまな種類のBose®オーディオシステムに対応しているので、再生環境に合わせた機器を選択できます。

## SoundTouch™を使用する

SoundTouch™には、お使いのエンターテイメントシステムのSOURCEメニューまたはSoundTouch™ appからアクセスできます。

- SoundTouch™のソース: 最近再生したソースやプリセットの設定など、SoundTouch™の機能の一部を使用できます。
- SoundTouch™ app: システム設定の管理、インターネットラジオの検索、プリセットの設定と変更、音楽のストリーミング再生、再生中のソースの表示など、SoundTouch™のさまざまな機能をすべて操作できます。

## SoundTouch™ソースを選択する

SoundTouch™ソースを使用して、プリセット、最近再生したソース、再生中のソースなどのコンテンツをシステムのリモコンで操作できます。

1. システムの電源をオンにします。
2. リモコンの **SOURCE** ボタンを押します。



**ヒント:** コンソールのSOURCEボタンを押してもかまいません。


3. [SoundTouch™]を選択します。

# SoundTouch™ ソース画面を使用する

リモコンを使用して、ソース画面から SoundTouch™ の一部の機能を操作できます。

## 可能な操作

- プリセットを設定し、設定したソースを再生できます(10ページ)。
- 最近再生したソースを再生できます(11ページ)。
- [NOW PLAYING] パネルにアーティスト情報を表示できます。
- 音楽の再生に関する操作を行えます(再生、一時停止、停止、次のトラックへのスキップなど)。
- [NOW PLAYING] パネルに再生中のコンテンツのソース情報を表示できます。



SoundTouch™システムの詳しい操作方法については、「SoundTouch™ app を使用する」(14ページ)をご覧ください。

## プリセットの機能

---

6つのプリセットには、お気に入りの音楽ストリーミングサービス、放送局、音楽ライブラリのプレイリスト、アーティスト、アルバム、曲などを自由に保存できます。コンピューターやスマートフォン、タブレットなどのSoundTouch™ appや、お使いのエンターテイメントシステムのSoundTouch™ソースを使用して、音楽をいつでも簡単に再生できます。

### 必要な知識

- プリセットは、アプリ、エンターテイメントシステムのどちらからでも設定できます。
- iTunesやWindows Media Playerの音楽ライブラリをプリセットに保存している場合は、音楽ライブラリを保存しているコンピューターの電源がオンになっていて、SoundTouch™システムと同じネットワークに接続されている必要があります。

## プリセットを再生する

---

プリセットを設定し、リモコンのプリセットボタンやアプリを使用して再生できます。

**注記:** 音楽が再生されない場合は、「プリセットを設定する」をご覧ください。

## プリセットを設定する

---

1. アプリやSoundTouch™ソースを使用して、エンターテイメントシステムで音楽をストリーミング再生します。
2. 音楽を再生しているときに、リモコンのプリセット番号ボタンを2秒間長押しします。

**注記:** SoundTouch™ appを使用してプリセットの設定と変更を行う方法については、アプリのヘルプを参照してください。

## 最近再生したコンテンツを探す

最近再生したソースには、SoundTouch™で最近再生した項目が50件表示されます。

- [最近再生したソースに移動]を選択します。

最近再生  
したソー  
スに移動



[RECENTS] パネルが表示されます。

最近再生  
したコン  
テンツ



- 項目を選択します。

## Bluetooth®を使用する

Bluetoothには、お使いのエンターテイメントシステムのSOURCEメニューまたはSoundTouch™ appからアクセスできます。

### Bluetooth®ソースを選択する

Bluetoothソース画面を表示して、システムのリモコンでBluetooth対応機器のペアリングと操作を行えます。

1. システムの電源をオンにします。
2. リモコンの **SOURCE** ボタンを押します。  
SOURCEメニューが表示されます。



**ヒント:** コンソールのSOURCEボタンを押してもかまいません。


3. **Bluetooth®**を選択します。

## Bluetooth®機器を使用する

リモコンを使用して、ソース画面からBluetoothの一部の機能を操作できます。

### 可能な操作

- Bluetooth対応機器をペアリングして接続します。
- [NOW PLAYING]パネルにアーティスト情報を表示できます。
- 接続されている機器を確認できます。
- 音楽の再生に関する操作を行えます(再生、一時停止、停止、次のトラックへのスキップなど)。
- ペアリングリストを消去できます。



## システムのBluetooth®ペアリングリストを消去する

Bluetooth対応機器とシステムをペアリングすると、接続情報がシステムのペアリングリストに保存されます。機器に接続できない場合、ペアリングリストの消去が必要となることがあります。リストを消去したら、ペアリングしていた機器を再度ペアリングする必要があります。

1. リモコンの  ボタンを押します。

2.  を選択します。

「Pairing List Cleared」というメッセージが画面に表示されます。

システムが機器をペアリング可能な状態になります。

# アプリを使用したシステムの操作

## SoundTouch™ appを使用する

SoundTouch™ appは、スマートフォンやタブレット、コンピューターなどからSoundTouch™をセットアップして操作するためのソフトウェアです。このアプリを使用すると、スマートフォンやタブレットなどでSoundTouch™システムの機能を遠隔操作できます。

SoundTouch™の設定の管理、音楽サービスの追加、世界中のインターネットラジオ局の選局、プリセットの設定と変更、音楽のストリーミング再生、再生中のソース情報の表示などが行えます。

SoundTouch™ appを使用してネットワーク上のシステムをセットアップしたら、ストリーミング音楽の検索やプリセットの変更が行えます。

### 困ったときは

#### SoundTouch.com

オーナーサポートセンターにアクセスできます。このサイトには、オーナーズマニュアルや製品に関する記事、ヒント、チュートリアル、ビデオライブラリなどが用意されており、オーナー同士で質問を投稿したり回答したりできるコミュニティがあります。

1. ブラウザーを開きます。
2. アドレス領域に「SoundTouch.com」と入力します。

### アプリのヘルプ

SoundTouch™の使用に関するヘルプを提供します。

1. お使いの機器で、 を選択してアプリを起動します。
2. [EXPLORE]パネルで、[ヘルプ]を選択します。

## 別のスマートフォン、タブレット、コンピューターなどからシステムを操作する


SoundTouch™ systemをホームWi-Fi®ネットワークに接続すると、同じネットワーク上の任意のスマートフォン、タブレット、コンピューターなどからシステムを操作できます。

1. デバイスをシステムと同じネットワークに接続します。
2. デバイスにSoundTouch™ appをダウンロードしてインストールします。
  - iOSユーザーの場合: App Storeからダウンロードします。
  - Android™ユーザーの場合: Google Play™ストアからダウンロードします。
  - Amazon Kindle Fireユーザーの場合: Amazon Androidアプリストアからダウンロードします。
  - コンピューターを使用する場合は、Webブラウザーを開いて次のアドレスにアクセスします。

[SoundTouch.com/app](http://SoundTouch.com/app)

## Controlボタン

SoundTouch™ワイヤレスアダプターのControlボタンを長押しすることで、高度な機能を操作できます。



## Wi-Fi®インジケーター

アダプター背面のWi-Fiインジケーターには、Wi-Fiの状態が表示されます。

インジケーターの表示	システムの状態
白の点滅	Wi-Fiネットワークに接続中
白の点灯	システムオン、Wi-Fiネットワークに接続
オレンジの点灯	システムセットアップモード
オレンジの遅い点滅	Wi-Fiネットワークから切断
オレンジの速い点滅	ファームウェアエラー、カスタマーサービスに連絡してください
消灯	Wi-Fiネットワーク無効、またはEthernet経由で接続

## Wi-Fi®機能を無効にする

Wi-Fi機能を無効にすると、Bluetooth®機能も無効になります。

- エンターテイメントシステムの電源をオンにします。
- アダプターのControlボタンを8～10秒間長押しします。
- Wi-Fiインジケーターが消灯したら、Controlボタンを放します。

## Wi-Fi®機能を再度有効にする

Wi-Fi機能を再度有効にすると、Bluetooth®機能も再度有効になります。

- エンターテイメントシステムの電源をオンにします。
- アダプターのControlボタンを押します。

## 高度な機能

---

### アダプターを工場出荷時の設定に戻す

---

工場出荷時の設定にリセットすると、ソースとネットワーク設定のすべての設定が消去され、システムが工場出荷状態となります。

**注記:** リセット操作を行うと、SoundTouch™のプリセットと保存したネットワーク情報は消去されます。

1. エンターテイメントシステムの電源をオンにします。
2. Bose® linkケーブルを取り外します。
3. Controlボタンを長押ししたままケーブルを再度接続します。
4. コンピューターでSoundTouch™ appを起動し、システムをネットワークに追加します。

## 故障かな？と思ったら

トラブル	対処方法
ネットワークのセットアップを完了できない、またはアダプターを検出できない	<ul style="list-style-type: none"> <li>SoundTouch™ワイヤレスアダプターをコンソールのBose link端子に差し込みます。</li> <li>ワイヤレスアダプターとコンソールにUSBケーブルを接続します。システムが正しく機能するには、USBケーブルを接続したままにする必要があります。</li> <li>システムを電源に接続します。</li> <li>正しいネットワーク名を選択して、パスワードを入力します。</li> <li>機器とSoundTouch™システムと同じWi-Fi®ネットワークに接続します。</li> <li>ワイヤレスアダプターがルーターの通信範囲内にあることを確認します。</li> <li>セットアップに使用する機器(携帯端末やコンピューター)のWi-Fi機能を有効にします。</li> <li>開いている他のアプリケーションを終了します。</li> <li>セットアップにコンピューターを使用している場合は、ファイアウォールの設定をチェックして、SoundTouch™ appとSoundTouch™ミュージックサーバーが許可されるプログラムであることを確認します。</li> <li>www.SoundTouch.comにアクセスしてインターネット接続をテストします。</li> <li>携帯端末またはコンピューターとルーターを再起動します。</li> <li>SoundTouch™システムを再起動します(アプリのヘルプをご覧ください)。</li> <li>アプリをアンインストールし、システムを出荷時の設定に戻してから、セットアップをやり直します。</li> <li>ネットワーク名が非表示に設定されている場合は、非表示の設定を解除してからセットアップを完了します。</li> </ul>
ネットワークに接続できない	<ul style="list-style-type: none"> <li>ネットワークを変更した場合や、システムを別のネットワークに接続する場合は、アプリのヘルプを参照してください。</li> <li>Ethernetケーブルを使用してネットワークに接続します。</li> </ul>
SOURCEリストに「SoundTouch™」または「Bluetooth®」が表示されない	<ul style="list-style-type: none"> <li>コンソールをアップデートします。エンターテイメントシステムの操作ガイドをご参照ください。</li> <li>Bose® linkケーブルとUSBケーブルがワイヤレスアダプターとコンソールにしっかりと接続されていることを確認します。システムが正しく機能するには、これらのケーブルを接続したままにする必要があります。</li> <li>SoundTouch™のセットアップを完了します。19ページをご覧ください。</li> </ul>
Bluetooth®対応機器の音楽を再生できない	<p>システムでの操作:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bluetoothソース画面から機器をペアリングします(13ページ)。</li> <li>別の機器をペアリングしてみてください。</li> <li>システム操作ガイドの「音が出ない」の項目をご覧ください。</li> <li>SoundTouch™のセットアップを行ってから、すべてのシステムで更新を実行します。</li> <li>システムのペアリングリストを消去します(13ページ)。</li> </ul> <p>モバイル機器での操作:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bluetooth機能を無効にしてから、再度有効にします。</li> <li>Bluetoothメニューからシステムを削除します。もう一度ペアリングします。</li> <li>Bluetooth対応機器の取扱説明書をご参照ください。</li> </ul>

## お手入れについて

---

### Wi-Fi® ネットワークを追加する

---

ネットワークの設定情報を変更した場合や、システムを別のネットワークに接続する場合は、エンターテイメントシステムのUNIFY®メニューでネットワークのセットアップを行い、アプリに新しいネットワーク情報を追加する必要があります。

1. エンターテイメントシステムの電源をオンにします。
2. コンソールの操作パネルにある **Setup** ボタンを押します。  
UNIFYメニューが表示されます。
3. [ネットワーク設定]を選択します。
4. 画面に表示される手順に従って、ネットワークを変更します。

## お手入れについて

---

SoundTouch™ワイヤレスアダプターの外装は、乾いた柔らかい布でから拭きしてください。

- アルコール、ベンジン、シンナー、あるいはスプレー式殺虫剤、消臭剤、芳香剤などの揮発性のものをかけないでください。
- 本機の開口部に液体をこぼしたり、物を入れたりしないでください。

## お問い合わせ先

---

トラブル解決のための詳細情報は、以下の方法で入手できます。

- SoundTouch.comにアクセスします。
- カスタマーサービスへお問い合わせください。専用ナビダイヤル 0570-080-021

## 保証

---

製品保証の詳細は (<http://bose.co.jp/rep>)をご覧ください。製品のご登録をお願いいたします。登録は、<http://global.Bose.com/register>から簡単に行えます。製品を登録されない場合でも、保証の内容に変更はありません。

本製品の保証内容は、オーストラリアおよびニュージーランドでは適用されません。オーストラリアおよびニュージーランドでの保証の詳細については、弊社Webサイト ([www.Bose.com.au/warranty](http://www.Bose.com.au/warranty) または [www.Bose.co.nz/warranty](http://www.Bose.co.nz/warranty))をご覧ください。

## 仕様

---

**外形寸法:** 高さ 5.1 cm x 幅 6.4 cm x 奥行 23.8 cm (2" x 2 1/2" x 9 3/8")

**質量:** 約 0.34 kg (0.75 lb)

## 付録 A: SoundTouch™のセットアップ

### SoundTouch™ appを使用してセットアップする

UNIFY®からネットワークのセットアップを完了できない場合、またはSoundTouch™ appでセットアップ操作を完了しなかった場合は、ネットワークに接続しているスマートフォンやタブレット、またはコンピューターにBose SoundTouch™ controller appをダウンロードしてインストールする必要があります。アプリを起動すると、システムをネットワークに接続する手順が表示されます。

#### アダプターでセットアップモードを有効にする

1. SoundTouch™ワイヤレスアダプターの背面にあるControlボタンを1～8秒間長押しします。
2. Wi-Fi®インジケーターがオレンジで点滅したら、Controlボタンを放します。Wi-Fiインジケーターがオレンジの点灯に変わります。

#### 既存のSoundTouch™アカウントにシステムを追加する

別のシステム用にSoundTouch™をセットアップしてある場合は、SoundTouch™ appを再度ダウンロードする必要はありません。

1. スマートフォンやタブレットで、SoundTouch™アイコンをタップしてアプリを起動します。
2. [EXPLORE] > [設定] > [システム] > [システムの追加] の順にタップして、別のシステムを追加します。

セットアップの手順はアプリに表示されます。

#### SoundTouch™ appをダウンロードしてインストールする

スマートフォン、タブレット、またはコンピューターにSoundTouch™ controller appをダウンロードします。



Bose® SoundTouch™  
controller app

- iOSユーザーの場合: App Storeからダウンロードします。
- Android™ユーザーの場合: Google Play™ストアからダウンロードします。
- Amazon Kindle Fireユーザーの場合: Amazon Androidアプリストアからダウンロードします。
- コンピューターを使用する場合は、Webブラウザーを開いて次のアドレスにアクセスします。

[SoundTouch.com/app](http://SoundTouch.com/app)

#### システムをホームWi-Fi®ネットワークに接続する

アプリをインストールしたら、次の手順でシステムをネットワークに追加します。

1. スマートフォン、タブレット、またはコンピューターで、をタップしてアプリを起動します。  
アプリを起動すると、システムをWi-Fiネットワークに接続する手順が表示されます。
2. アプリに表示される手順に従い、SoundTouch™アカウントの作成、音楽ライブラリや音楽サービスの追加などのセットアップを完了します。

## 付録B: ワイヤレスアダプターを壁に取り付けるには

### アダプターを壁に取り付ける

アダプターは壁に取り付けて使用できます(取り付けるための部品は付属していません)。取り付け用部品に記載された指示が本書の指示と異なる場合は、部品の指示に従ってください。

次の表には、取り付け用部品の仕様が記載されています。

項目	木壁	ウォールボード
壁の厚み	19 mm ( $\frac{3}{4}$ インチ)以上	9.5 mm ( $\frac{3}{8}$ インチ)以上
ドリルビット	3 mm ( $\frac{1}{8}$ インチ)	4.5 mm ( $\frac{3}{16}$ インチ)
丸木ネジ(2本)	4.1 mm x 32 mm	4.1 mm x 32 mm
ボードアンカー(2本)	使用しません	25 mm (#6-8x1インチ)


### 取り付け方法

アダプターを壁に取り付ける方法には次の2通りがあります。

- ・ 縦向きに取り付ける方法(端子パネルが左)
- ・ 横向きに取り付ける方法(端子パネルが上)

### アダプターを壁に取り付けるには

1. 中心間の距離159 mm (6 $\frac{1}{4}$ インチ)の位置で壁に印を付けて、ドリルで下穴を2つ開けます。



2. 必要な場合は樹脂製ボードアンカーを使用してください。

3. 丸木ネジを挿し込みます。

**注記:** ネジの頭を壁から 6.35 mm ( $\frac{1}{4}$ インチ) 突き出したままにします。

4. アダプターをネジの位置に合わせます。





### تركيب المحول

يمكنك تركيب المحول على حائط (الأجهزة غير مضمونة). إذا كانت أجهزة التركيب تأتي ومعها تعليمات تختلف عن هذه التعليمات، اتبع التعليمات المرفقة مع الأجهزة.

يصف هذا الجدول مواصفات أجهزة التركيب.

العنصر	الخشب	لوح حائط
سمك الحائط	4 <sup>13</sup> بوصة (19 ملم) أو أكثر سمكاً	8 <sup>13</sup> بوصة (9.5 ملم)
لقطة الحفر	8 <sup>1</sup> بوصة (3 ملم)	16 <sup>13</sup> بوصة (4.5 ملم)
مسامير خشبية مسطحة الرأس (2)	1 1/4 x 8#	1 1/4 x 8# بوصة (32 ملم)
مشابك حائط بلاستيكية (2)	غير مستخدم	1x8-6# بوصة (25 ملم)


### خيارات التركيب

هناك طريقتان لتركيب المحول:

- عمودياً: لوحة الموصلات التي تتجه لليسار
- أفقياً: لوحة الموصلات التي تتجه لأعلى

### تركيب المحول

- احفر ثقبين 1/4 بوصة (159 ملم) من المركز إلى المركز.



- أدخل مشابك حائط بلاستيكية (إذا تم التركيب على ألواح حائطية).
- قم بتركيب مسامير خشبية مسطحة الرأس.
- ملاحظة: اترك رؤوس المسامير 1/4 بوصة (6.35 ملم) فوق سطح الحائط.
- اضبط وضع المحول على المسامير.

## الإعداد باستخدام التطبيق SoundTouch™

إذا كنت غير قادر على إكمال إعداد الشبكة من خلال UNIFY® أو إذا لم تستكمل الإعداد مع تطبيق SoundTouch™، فيجب تنزيل وتنصيب تطبيق وحدة التحكم Bose® SoundTouch™ على هاتف ذكي أو كمبيوتر لوحي أو كمبيوتر موصل بشبكتك. يرشدك التطبيق خلال توصيل النظام بالشبكة الخاصة بك.

### تنشيط وضع الإعداد على المحول

- اضغط مع الاستمرار على زر التحكم لمدة 8-10 ثانية خلف المحول اللاسلكي الخاص بـ SoundTouch™.
- اترك زر التحكم عندما يومض مؤشر Wi-Fi بلون كهرماني. يجب أن يضيء مؤشر Wi-Fi بلون كهرماني ثابت.

### إضافة النظام لحساب SoundTouch™ موجود

إذا كنت قد قمت بالفعل بإعداد SoundTouch™ لنظام آخر، فلن تحتاج لتنزيل التطبيق SoundTouch™ مرة أخرى.

- في الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي، اختر رمز  لتشغيل التطبيق.
- اختر **EXPLORE (استكشاف) < SYSTEMS (الإعدادات) < SETTINGS (الأنظمة) < SYSTEM (إضافة نظام)** لإضافة نظام آخر.  
يقوم التطبيق بتوجيهك خلال الإعداد.

### تنزيل وتنصيب وتشغيل التطبيق SoundTouch™

في الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي، أو الكمبيوتر، قم بتنزيل تطبيق التحكم SoundTouch™ controller .app



**Bose® SoundTouch™ controller app**

- لمستخدمي نظام iOS: قم بالتنزيل من App Store
- لمستخدمي نظام Android™: قم بالتنزيل من Google Play™ store
- لمستخدمي Amazon Kindle Fire: قم بالتنزيل من Amazon Appstore لنظام Android
- إذا كنت تستخدم كمبيوتر، افتح المتصفح واذهب إلى:

[SoundTouch.com/app](http://SoundTouch.com/app)

### توصيل النظام بشبكة Wi-Fi® المنزلية

بعد تثبيت التطبيق، أضف النظام إلى شبكتك:

- في الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي أو الكمبيوتر، اختر  لتشغيل التطبيق.
- يرشدك التطبيق خلال توصيل النظام بشبكة Wi-Fi.  
تابع التعليمات في التطبيق لاستكمال الإعداد، بما في ذلك إنشاء حساب SoundTouch™ وإضافة مكتبة موسيقى وخدمات الموسيقى.

## إضافة شبكة Wi-Fi®

إذا تغيرت معلومات شبكتك أو لتوصيل النظام بشبكة أخرى، يجب إضافة المعلومات الجديدة للشبكة من قائمة UNIFY® تحت إعداد الشبكة في نظام الترفيه الخاص بك.

1. تشغيل نظام الترفيه الخاص بك.
2. اضغط على زر **Setup** (إعداد) في لوحة أزرار وحدة التحكم. تظهر قائمة UNIFY.
3. اختر **Network setup** (إعداد الشبكة).
4. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتبديل الشبكة.

## التنظيف

لتقطيف محول SoundTouch™ اللاسلكي، امسح العلبة باستخدام قطعة قماش ناعمة وجافة.

- لا تستخدم مذيبات أو مواد كيميائية أو سوائل رش.
- يجب عدم سكب سوائل أو دخول أجسام في أي فتحة من الفتحات.

## خدمة العملاء

لمزيد من المساعدة عن استخدام النظام:

- قم بزيارة [SoundTouch.com](http://SoundTouch.com).
- اتصل بخدمة العملاء بشركة Bose®. ارجع إلى ورقة العناوين في العلبة الكرتونية.

## الضمان المحدود

يتم تغطية محول SoundTouch™ اللاسلكي بضمان محدود. يتم تقديم تفاصيل الضمان المحدود في ورقة تعليمات السلامة الهمة الموجودة في العلبة الكرتونية. يرجى الرجوع لورقة تعليمات السلامة الهامة للاطلاع على التعليمات الخاصة بكيفية التسجيل. وسوف يؤثر عدم القيام بذلك على الحقوق المحفوظة لك بموجب الضمان المحدود.

لا تتطبق معلومات الضمان المقدمة مع هذا المنتج في أستراليا ونيوزيلندا. راجع موقع الويب الخاص بنا على [www.Bose.co.nz/warranty](http://www.Bose.co.nz/warranty) أو [www.Bose.com.au/warranty](http://www.Bose.com.au/warranty) للحصول على تفاصيل عن الضمان في أستراليا ونيوزيلندا.

## المعلومات الفنية

الحجم:	2" عرض x 1 ½ " ارتفاع x 9 ¾ " عمق (5.1 سم x 23.8 سم x 6.4 سم)
الوزن:	0.75 رطل (0.34 كجم)

## استكشاف الأعطال وإصلاحها

المشكلة	الحل
لا يمكن إعداد الشبكة أو غير قادر على اكتشاف محول	<ul style="list-style-type: none"> <li>قم بتوسيط المحول اللاسلكي SoundTouch™ في الموصى به Bose link الموجود في وحدة التحكم.</li> <li>قم بتوسيط الكابل USB بين المحول اللاسلكي ووحدة التحكم. يجب أن يظل هذا الكابل متصلًا بالنظام للعمل بشكل صحيح.</li> <li>قم بتوصيل النظام بكهرباء تيار متردد.</li> <li>اختر اسم الشبكة الصحيح وأدخل كلمة المرور.</li> <li>قم بتوصيل الكمبيوتر ونظام SoundTouch™ بنفس شبكة Wi-Fi®.</li> <li>ضع المحول اللاسلكي في نطاق جهاز التوجيه.</li> <li>قم بتنكين Wi-Fi على الجهاز (الهاتف المحمول أو الكمبيوتر) الذي تستخدمه للإعداد.</li> <li>أغلق التطبيقات الأخرى المفتوحة.</li> <li>إذا كنت تستخدم الكمبيوتر للإعداد، راجع إعدادات حافظة حماية الكمبيوتر للتأكد من أن التطبيق www.SoundTouch.com يتيح استخدام SoundTouch™ Music Server و SoundTouch™.</li> <li>اختر اتصالك بالإنترنت عن طريق تحميل</li> <li>قم بإعادة تشغيل جهاز الهاتف المحمول أو الكمبيوتر، وجهاز التوجيه (الراوتر).</li> <li>قم بإعادة تشغيل نظام SoundTouch™ (راجع نظام المساعدة في التطبيق).</li> <li>قم بإلغاء تثبيت التطبيق، وقم بإعادة ضبط النظام وإعادة تشغيل الإعداد.</li> <li>أظهر شبكتك إن كانت مخفية لاستكمال الإعداد.</li> </ul>
لا يمكن الاتصال بالشبكة	<ul style="list-style-type: none"> <li>راجع نظام المساعدة (Help) في التطبيق إذا تم تغيير شبكتك أو لتوصيل نظامك بشبكة أخرى.</li> <li>قم بالتوصيل بالشبكة باستخدام كبل Ethernet.</li> </ul>
الخيارات SoundTouch™ أو Bluetooth® لا تظهر في قائمة المصدر	<ul style="list-style-type: none"> <li>تحديث وحدة التحكم راجع دليل تشغيل نظام الترفيه</li> <li>تأكد من توصيل كبل USB بشكل كامل بالمحول اللاسلكي ووحدة التحكم.</li> <li>ويجب إبقاء هذه الكابلات موصولة لكي يعمل لنظام بشكل صحيح.</li> <li>استكمل إعداد SoundTouch™. انظر صفحة 19.</li> </ul>
لا يمكن تشغيل صوت Bluetooth®	<p>في نظامك:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>قم باقران جهاز باستخدام شاشة مصدر Bluetooth SOURCE (صفحة 13).</li> <li>جرب إقران جهاز مختلف.</li> <li>انظر "لا يوجد صوت" في دليل تشغيل النظام.</li> <li>قم بإعداد SoundTouch™ أولاً، ثم قم بتنفيذ جميع تحديثات النظام.</li> <li>امسح قائمة إقران النظام (صفحة 13).</li> </ul> <p>في جهازك المحمول:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>تعطيل وإعادة تمكن خاصية Bluetooth.</li> <li>قم بازالة النظام من قائمة Bluetooth أولًا. قم بالإقران مرة أخرى.</li> <li>راجع وثائق الجهاز الممكّن عليه Bluetooth.</li> </ul>


## إعادة ضبط المحوّل

تزيل استعادة إعدادات المصنوع جميع إعدادات المصدر والشبكة من النظام وتعيدها إلى إعدادات المصنوع الأصلية.  
ملاحظة: وتحسّن وظيفة إعادة الضبط هذه إعدادات SoundTouch™ المسبيقة وبيانات اعتماد شبكتك المحفوظة.

- .1 تشغيل نظام الترفيه الخاص بك.
- .2 افصل كبل توصيل® Bose.
- .3 اضغط مع الاستمرار على زر التحكم أثناء إعادة توصيل الكبل.
- .4 قم بتشغيل التطبيق™ SoundTouch على الكمبيوتر وقم بإضافة النظام إلى شبكتك.

## زر التحكم

المحول اللاسلكي الخاص بـ SoundTouch™ يتيح لك وظائف متقدمة من خلال الضغط والاستمرار في الضغط على زر التحكم.



## مؤشر Wi-Fi®

يبين مؤشر Wi-Fi على الجانب الخلفي للمحول حالة Wi-Fi.

حالة النظام	نشاط المؤشر
التوصيل بشبكة Wi-Fi	أبيض وامض
النظام في وضع التشغيل وموصل بشبكة Wi-Fi	أبيض ثابت
النظام في وضع الإعداد	كهرماني ثابت
مفصل من شبكة Wi-Fi	وميض بطيء بلون كهرماني
خطأ برنامج ثابت - اتصل بخدمة Bose	وميض سريع بلون كهرماني
الشبكات معطلة أو أن النظام موصل إلى Ethernet	إيقاف

## تعطيل قدرة Wi-Fi®

تعطيل Wi-Fi يعطى أيضاً خاصية Bluetooth®.

1. تشغيل نظام الترفيه الخاص بك.
2. اضغط مع الاستمرار في الضغط على زر التحكم في المحول (8-10 ثانية).
3. انرك زر التحكم عندما ينطفئ مؤشر Wi-Fi.

## إعادة تمكين إمكانية Wi-Fi®

تمكين Wi-Fi يمكن أيضاً خاصية Bluetooth®.

1. تشغيل نظام الترفيه الخاص بك.
2. اضغط على زر التحكم في المحول.

## استخدام التطبيق SoundTouch™

التطبيق SoundTouch™ هو تطبيق يمكّنك من التحكم في نظام SoundTouch™ من الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي أو الكمبيوتر. وباستخدام التطبيق، يعمل هاتفك الذكي كجهاز ريموت غني لنظام SoundTouch™. يمكنك التحكم من إدارة إعدادات نظام SoundTouch™ واستكشاف محطات راديو الإنترنت المحلية والعالمية ووضع وتغيير الإعدادات المسبقة بث الموسيقى إلى النظام وعرض ما تقوم بتشغيله بالإضافة إلى كثير غير ذلك. بعد إعداد النظام على الشبكة باستخدام التطبيق SoundTouch™، تكون جاهزاً لاستكشاف بث الموسيقى وتخصيص إعداداته المسبقة.

### الحصول على مساعدة

#### SoundTouch.com

يتوفر الوصول إلى مركز دعم المالك، ويشمل ذلك: ملفات دليل المالك، ومقالات، ونصائح، ودوروس، ومكتبة الفيديو، والاشتراك في مجتمع المالك حيث يمكنك نشر الأسئلة والأجوبة.

1. افتح المتصفح.
2. في حقل العنوان، اكتب SoundTouch.com

### المساعدة داخل التطبيق

يوفر مقالات التعليمات الخاصة باستخدام SoundTouch™.



1. على الجهاز الخاص بك، اختر لفتح التطبيق.
2. من لوحة EXPLORE اختر HELP.

### التحكم في النظام من هاتف ذكي أو كمبيوتر لوحي أو كمبيوتر آخر

بمجرد إعداد نظام SoundTouch™ على شبكة Wi-Fi® المنزلية، يمكنك التحكم في النظام من أي هاتف ذكي أو كمبيوتر لوحي أو كمبيوتر على نفس الشبكة.

1. قم بتوصيل الجهاز بنفس الشبكة مثل نظامك.
2. في الجهاز، قم بتنزيل وتنصيب التطبيق SoundTouch™:
  - لمستخدمي نظام iOS: قم بالتنزيل من App Store
  - لمستخدمي نظام Android™: قم بالتنزيل من Google Play™ store
  - لمستخدمي نظام Amazon Kindle Fire: قم بالتنزيل من Amazon Appstore
  - إذا كنت تستخدم كمبيوتر، افتح المتصفح واذهب إلى:

[SoundTouch.com/app](http://SoundTouch.com/app)

## استخدام شاشة مصدر Bluetooth®

باستخدام جهاز الريموت كنترول، يمكنك الوصول إلى مجموعة فرعية من ميزات Bluetooth® من شاشة المصدر.

### ما الذي يمكنك فعله


- قم باقران وتوصيل الأجهزة الممكّن عليها Bluetooth®.

- عرض المعلومات المتوفرة عن الفنان في لوحة التشغيل الآن (NOW PLAYING).

- عرض الأجهزة الموصولة.

- التحكم في التشغيل (تشغيل، إيقاف مؤقت، إيقاف، تخطي إلى المقطوعة التالية، الخ).

- امسح قائمة الإقران.



## مسح قائمة إقران Bluetooth® للنظام

عندما تقوم باقران جهاز ممكّن عليه Bluetooth® إلى النظام الخاص بك، يتم تخزين الاتصال في قائمة الأقران للنظام. قد تحتاج لمسح قائمة الإقران إذا لم تستطع توصيل جهاز. بمجرد مسح القائمة، ستحتاج إلى إقران الأجهزة التي كانت مقترنة سابقاً مرة أخرى.

1. اضغط على زر في جهاز الريموت.

2. اختر .

ستظهر على الشاشة رسالة مثل الأجهزة المقترنة تم مسحها.

النظام جاهز لإقران جهاز.

## الوصول إلى Bluetooth®

يمكنك الوصول إلى Bluetooth® من خلال قائمة المصادر SOURCE على نظام الترفيه الخاص بك أو عن طريق SoundTouch™.

### اختيار مصدر Bluetooth®

يسمح لك مصدر Bluetooth® بإقران والتحكم في الأجهزة الممكّن عليها Bluetooth® باستخدام جهاز ريموت كنترول النظام.

- .1. تشغيل نظامك.
- .2. اضغط على زر SOURCE .
- .2. تظير قائمة SOURCE.



نصيحة: يمكنك أيضاً الضغط على زر المصدر على وحدة التحكم.

- .3. اختر Bluetooth®.

## العثور على المحتويات التي تم تشغيلها مؤخراً

تعرض قائمة أحدث 50 عنصر SoundTouch™ تم تشغيله.

.1 اختر **Go To Recents** (اذهب إلى الأحدث).



تطهير لوحة RECENTS (أحدث ما تم تشغيله).



.2 قم بتحديد عنصر.

## كيفية عمل الإعدادات المسبقة

يمكنك تخصيص السنة إعدادات المسبقة المفضلة لبيث خدمات أو محطات الموسيقى أو قوائم التشغيل أو الفنانين أو الألبومات أو الأغاني، من مكتبة الموسيقى. يمكنك الوصول إلى الموسيقى الخاصة بك في أي وقت، باستخدام تطبيق SoundTouch™ على الكمبيوتر، أو الهاتف الذكي، أو الجهاز اللوحي، أو مصدر SoundTouch™ على نظام الترفيه الخاص بك.

### ما تحتاج لمعرفته

- يمكنك تعيين الإعدادات المسبقة من التطبيق ومن نظام الترفيه الخاص بك.
- إذا كان مصدر الإعداد المسبق هو Windows Media Player أو مكتبة موسيقى iTunes، تأكد من تشغيل الكمبيوتر الذي يقوم بتخزين مكتبة الموسيقى ومن توصيله بنفس الشبكة مثل نظام SoundTouch™.

### تشغيل إعداد مسبق

بمجرد تخصيص إعداداتك المسبقة، اختر أحد الإعدادات المسبقة باستخدام جهاز الريموت كنترول أو التطبيق لتشغيله.  
ملاحظة: إذا لم تعمل الموسيقى، انظر "ضبط إعداد مسبق".

### ضبط إعداد مسبق

- قم ببيث الموسيقى إلى نظام الترفيه الخاص بك باستخدام التطبيق أو مصدر SoundTouch™.
  - أثناء تشغيل الموسيقى، اضغط مع الاستمرار على رقم الإعداد المسبق باستخدام جهاز الريموت كنترول ( حوالي 2 ثانية).
- ملاحظة: للحصول على معلومات حول استخدام تطبيق SoundTouch™ لضبط وتغيير إعداداتك المسبقة، ارجع إلى المساعدة داخل التطبيق.

## استخدام شاشة المصدر SoundTouch™

باستخدام جهاز الريموت كنترول، يمكنك الوصول إلى الميزات الفرعية في SoundTouch™ من خلال شاشة المصدر.

### ما الذي يمكنك فعله


- تخصيص وتشغيل الإعدادات المسبيقة (صفحة 10).

- تشغيل آخر ما تم تشغيله (صفحة 11).

- عرض المعلومات المتوفرة عن الفنان في لوحة التشغيل الآن (NOW PLAYING).

- التحكم في التشغيل (تشغيل، إيقاف مؤقت، إيقاف، تخطي إلى المقطوعة التالية، الخ).

- عرض مصدر الموسيقى لمحتويات لوحة التشغيل الآن (NOW PLAYING).



للحصول على تحكم أفضل في نظام SoundTouch™ الخاص بك، انظر "استخدام التطبيق" في صفحة 14.

## الوصول إلى SoundTouch™

يمكنك الوصول إلى SoundTouch™ من خلال قائمة المصادر SOURCE على نظام الترفيه الخاص بك أو عن طريق تطبيق™ SoundTouch.

- مصدر SoundTouch™: يقوم مجموعة ميزات فرعية™ SoundTouch تمكنك من تشغيل أحدث الإعدادات المسبقة وتخصيصها.

- تطبيق™ SoundTouch: يقوم لك التحكم الكامل في SoundTouch™، مما يتيح لك إدارة إعدادات النظام الخاصة بك، واستكشاف راديو الإنترنت، وضبط وتغيير الإعدادات المسبقة (الضبط المسبق، وبث الموسيقى إلى النظام، وعرض ما يتم تشغيله، والمزيد غير ذلك).

## اختيار مصدر SoundTouch™

مصدر SoundTouch™ يسمح لك بالتحكم في الإعدادات المسبقة (الضبط المسبق، وأخر ما تم تشغيله، والمحفوظات التي يتم تشغيلها الآن باستخدام جهاز الريموت كنترول الخاص بنظامك.

1. تشغيل نظامك.

2. اضغط على زر **SOURCE** في جهاز الريموت.

3. تظهر قائمة SOURCE.



**نصيحة:** يمكنك أيضاً الضغط على زر المصدر على وحدة التحكم.

3. اختر™ SoundTouch.

## SoundTouch™

يوفّر نظام الموسيقى اللاسلكي SoundTouch™ صوتاً واضحاً يملأ الغرفة ببيث لاسلكياً عبر شبكة Wi-Fi المنزلية. باستخدام SoundTouch™، يمكنك بث محطات راديو الإنترنت وخدمات الموسيقى، ومكتبة الموسيقى.

إذا كان لديك® Wi-Fi في المنزل ونظام ترفيه SoundTouch™ يمكنك الاستمتاع بالموسيقى المفضلة لديك في أي غرفة تريدها. راجع دليل مالك النظام للحصول على إرشادات الإعداد.

**ملاحظة:** إذا قمت بشراء المحوّل كملحق، راجع دليل البدء السريع للحصول على تعليمات الإعداد.

### مزايا النظام

- يمكن نظام الترفيه المنزلي Bose من بث الموسيقى لاسلكياً باستخدام SoundTouch™.
- استمتعن بالوصول لاسلكياً إلى راديو الإنترنت وخدمات الموسيقى ومكتبة الموسيقى الخاصة بك.
- يضيف مصدر SoundTouch™، مما يمكنك من عرض محتوى Now Playing و Recents و Presets في التلفزيون والتحكم فيه.
- تطبيقات SoundTouch™ المجاني يمكنك من استكشاف محطات راديو الإنترنت، وخدمات الموسيقى، ومكتبة الموسيقية من أجهزة الكمبيوتر والهاتف الذكي والكمبيوتر اللوحي الخاص بك.
- يمكنك تخصيص ما يصل إلى ستة إعدادات مسبقة تقم الموسيقى بلمسة واحدة فقط من جهاز الريموت كنترول.
- الإعداد اللاسلكي باستخدام هاتفي الذكي أو الكمبيوتر اللوحي.
- يعمل مع شبكة Wi-Fi المنزلية الموجودة.
- قم ببث الموسيقى من الجهاز الممكّن بخاصية Bluetooth®.
- مجرد أضف أنظمة إضافية في أي وقت للحصول على تجربة استماع لغرف متعددة.
- تشكلة واسعة من أنظمة Bose® الصوتية تتيح لك اختيار الحل الصحيح لأية غرفة.

**الخصائص المتقدمة**

15.....	زر التحكم
15.....	مؤشر Wi-Fi®
15.....	تعطيل قدرة Wi-Fi®
15.....	إعادة تمكين إمكانية Wi-Fi®
16.....	إعادة ضبط المحول

**العناية والصيانة**

17.....	استكشاف الأعطال وإصلاحها
18.....	إضافة شبكة Wi-Fi®
18.....	التنظيف
18.....	خدمة العملاء
18.....	الضمان المحدود
18.....	المعلومات الفنية

**الملحق A: إعداد SoundTouch™**

19.....	إعداد باستخدام التطبيق SoundTouch™
19.....	تنشيط وضع الإعداد على المحول
19.....	إضافة النظام لحساب SoundTouch™ موجود
19.....	تنزيل وتثبيت وتشغيل التطبيق SoundTouch™
19.....	توصيل النظام بشبكة Wi-Fi® المنزلية

**الملحق B: تركيب المحول اللاسلكي**

20.....	تركيب المحول
20.....	خيارات التركيب
20.....	لتركيب المحول

## المقدمة

7	SoundTouch™
7	مزايا النظام

## SoundTouch™

8	الوصول إلى SoundTouch™
8	اختيار مصدر SoundTouch™
9	استخدام شاشة المصدر SoundTouch™
10	كيفية عمل الإعدادات المسبقة
10	تشغيل إعداد مسبق
10	ضبط إعداد مسبق
11	العثور على المحتويات التي تم تشغيلها مؤخراً

## Bluetooth®

12	الوصول إلى Bluetooth®
12	اختيار مصدر Bluetooth®
13	استخدام شاشة مصدر Bluetooth®
13	مسح قائمة إقران Bluetooth® للنظام

## التحكم في النظام باستخدام التطبيق

14	استخدام التطبيق SoundTouch™
14	الحصول على مساعدة
14	التحكم في النظام من هاتف ذكي أو كمبيوتر لوحي أو كمبيوتر آخر

يرجى استكمال سجلاتك والاحتفاظ بها:

يمكن العثور على الرقم المسلسل ورقم الموديل أسفل النظام.

الرقم المسلسل:

رقم الموديل:

تاريخ الشراء:

نحن نقترح عليك الاحتفاظ ب إيصال المبيعات مع دليل المالك هذا.

.Apple Inc هي علامة خدمة لشركة App Store

و Kindle و Amazon و Fire هي علامات تجارية لشركة Amazon.com, Inc. أو الشركات التابعة لها.

.Google Play و Google هي علامات تجارية لشركة Inc

Android و شعار Android هي علامات تجارية مسجلة مملوكة لشركة SIG, Inc

Bluetooth® هي علامات تجارية مسجلة لشركة SIG, Inc ويتم استخدام هذه العلامات

بموجب ترخيص من شركة Bose Corporation.



iHeartRadio هي علامة تجارية مسجلة لشركة iHeartMedia, Inc.

iTunes هي علامة تجارية مسجلة لشركة Apple Inc مسجلة في الولايات المتحدة ودول أخرى.

HDMI و HDMI High-Definition Multimedia Interface HDMI Licensing LLC هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة HDMI Licensing LLC في الولايات المتحدة ودول أخرى.

يتضمن هذا المنتج برمجيات Spotify والتي تتضمن لترخيص الطرف الثالث الموجودة هنا:

[www.spotify.com/connect/third-party-license](http://www.spotify.com/connect/third-party-license)

Spotify هي علامة تجارية مسجلة لشركة Spotify AB

SoundTouch وتصميم note اللاسلكي هي علامات تجارية مسجلة لشركة Bose Corporation في الولايات المتحدة ودول أخرى.

Wi-Fi هي علامة تجارية مسجلة لشركة Wi-Fi Alliance®.

Windows هي علامة تجارية مسجلة لشركة Microsoft Corporation في الولايات المتحدة ودول أخرى.

Bose Corporation 2015 ©. لا يجوز استنساخ أي جزء من هذا الدليل أو تعديله أو توزيعه أو استخدامه على نحو مخالف بدون

إذن كتابي مسبق.

# معلومات السلامة الهمة

FCC تحذير

قد يؤدي التبديل بأية تغييرات أو تعديلات دون موافقة صريحة من شركة Bose Corporation إلى الغاء ترخيص المستخدم لتشغيل هذا الجهاز.

في الولايات المتحدة وكندا

يخضع هذا الجهاز للجزء 15 من قواعد FCC. يخضع التشغيل للشروط التاليين:

(1) أن هذا الجهاز قد لا يتسبب في حدوث تداخل ضار و(2) أن هذا الجهاز يجب أن يقبل أي تداخل يتم استقباله بما في ذلك التداخل الذي قد يتسبب في تشغيل غير مرغوب فيه.

يتوافق هذا الجهاز الرقمي من الفئة B مع المعيار الكندي (ICES-003 / CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B) / FCC الجنة RF Industry Canada المبنية لعمادة الناس.

يتفق هذا الجهاز مع حدود التعرض لإشعاع تردد الرadio RF FCC و Industry Canada الجنة المبنية لعمادة الناس. يجب عدم تحديد موضع مشترك لهذا الجهاز أو تشغيله بالارتباط مع أي هوائي أو جهاز ارسال آخر.

يُخضع هذا الجهاز لمعايير ترخيص Industry Canada فيما عدا معايير RSS. يخضع التشغيل للشروط التاليين: (1) أن هذا الجهاز قد لا يتسبب في حدوث تداخل ضار و (2) أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل يتم استقباله بما في ذلك التداخل الذي قد يتسبب في تشغيل غير مرغوب فيه.

يتفق هذا الجهاز مع حدود التعرض لإشعاع الجنة FCC و Industry Canada المنصوص عليها لبيئة غير منضبطة. يجب تركيبه وتتشغيله هذا الجهاز على مسافة 20 سم (8 بوصة) على الأقل عن بين المبرد وجسمك.

تعلن شركة Bose بموجبه أن هذا المنتج يخضع للمتطلبات الأساسية لتوجيه EC 1999/5/EC والشروط الأخرى ذات الصلة والتوجيهات الأخرى المعمول بها. ويمكن العثور على البيان الكامل للتحقيق في موقع [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)



هذا الرمز يعني أنه يجب عدم تجاهل المنتج كنفايات المنزلية ويجب تسليمه إلى مرافق جمع مناسب لإعادة تدويره. ويساعد التخلص السليم وإعادة التدوير على حماية الموارد الطبيعية وصحة الإنسان والبيئة. لمزيد من المعلومات حول التخلص من هذا المنتج وإعادة تدويره، اتصل بالبلدية المحلية أو خدمة التخلص أو المترجر الذي اشتريت منه هذا المنتج.

أسماء ومحويات المواد أو العناصر السامة أو الخطيرة						
المادة والعناصر السامة أو الخطيرة						اسم الجزء
أثير ثنائي الفينيل المعالج (PBDE) بالبروم	ثنائي الفينيل المعالج بالبروم (PBB)	سداسي الكلفون (CR(VI))	الكادميوم (Cd)	الزنبق (Hg)	الرصاص (Pb)	
0	0	0	0	0	X	لوحات الدوائر المطبوعة (PCBs)
0	0	0	0	0	X	الأجزاء المعدنية
0	0	0	0	0	0	الأجزاء البلاستيكية
0	0	0	0	0	X	السماعات
0	0	0	0	0	X	الكلاب

يتم إعداد هذا الجدول وفقاً لأحكام معيار SJ/T 11364.

O: تشير إلى أن هذه المادة السامة أو الخطرة الموجودة في كل المواد المتوجهة لها هذا الجزء أقل من متطلبات تقييد معيار GB/T 26572.

X: تشير إلى أن هذه المادة السامة أو الخطرة الموجودة على الأقل في أحد المواد المتوجهة لها هذا الجزء أعلى من متطلبات تقييد معيار GB/T 26572.

يرجى تخصيص الوقت الكافي لقراءة هذا الدليل بعناية واتباع تعليمات السلامة الهامة.

يقوم المثلث متساوي الأضلاع الذي يوجد بداخلك رسم على شكل وميض برق ورأس سهم بتبيين المستخدم بوجود فولتية خطيرة غير مزعولة داخل عبة النظام قد تكون من الكبر بحيث قد تتسبب في صدمة كهربائية.

نقوم علامة التحذير الموجودة داخل مثلث متساوي الأضلاع، كما هو مبين على النظام، بتبيين المستخدم إلى وجود تعليمات تشغيل وصيانة هامة في دليل المالك هذا.

## تنبيهات:

- لا تقم بإجراء أية تعديلات على النظام أو الملحقات.
- حيث أن التعديلات غير المصرح بها قد تخل بالسلامة والالتزام بالقواعد التنظيمية وبأداء النظام.

## تحذيرات:

- لقليل مخاطر الحرائق أو الصدمة الكهربائية، يجب عدم تعريض هذا المنتج للمطر أو الرطوبة.
- يجب عدم تعريض الجهاز لقطارات السوائل المتساقطة أو المتناثرة ويجب عدم وضع أوعية ممتلئة بالسوائل، مثل آنية الزهور، على الجهاز أو بالقرب منه. وكما هو الحال مع أية منتجات إلكترونية، احرص على عدم سكب السوائل داخل أي جزء من المنتج. التعرض للسوائل قد يؤدي إلى عطل وإلى خطر الحرائق.
- يجب عدم وضع أية مصادر للهب المكشوف، مثل الشموع المشتعلة، فوق الجهاز أو بالقرب من المنتج.

1. اقرأ هذه التعليمات.
2. احتفظ بهذه التعليمات.
3. انتبه إلى جميع التحذيرات.
4. اتبع جميع التعليمات.
5. لا تستخدم هذا الجهاز بالقرب من الماء.
6. لا تستخدم سوى قطعة قماش جافة في التنظيف.
7. لا تقم بسد أية فتحات للتهوية. قم بالتركيب حسب تعليمات جهة الصنع.
8. لا تقم بتركيب المنتج بالقرب من أي مصدر للحرارة مثل شبكات التدفئة أو ممرات الحرارة أو المواقف أو أي جهاز آخر (بما في ذلك مكبرات الصوت) ينتج عنه حرارة.
9. لا تستخدم سوى الملحقات/المرافق التي تحددها جهة الصنع.
10. قم بإجراء جميع أعمال الصيانة بواسطة أفراد صيانة مؤهلين. يجب إجراء صيانة عند تلف الجهاز بأي شكل من الأشكال، مثل تلف سلك التغذية الكهربائية أو القابس أو انسكاب سائل أو سقوط أشياء على الجهاز أو تعرضه للمطر أو الرطوبة أو عدم عمله بشكل اعتيادي أو سقوطه.


## ملاحظات:

- توجد بطاقة المنتج أسفل المنتج.
- يجب استخدام المنتج في الأماكن المغلقة فقط. حيث أنه لم يُصمم أو يُختبر للاستخدام في الأماكن المفتوحة أو في السيارات الترفيهية أو القوارب.

## معلومات هامة عن الاستئنال

**ملاحظة:** تم اختبار هذا الجهاز وجد أنه يتوافق مع حدود جهاز رقمي من الفئة B وفقاً للجزء رقم 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية FCC. وقد تم تصميم هذه الحدود بحيث تضمن الحماية المعقولة ضد التداخل الضار عند تركيب الجهاز في منطقة سكنية. علماً بأن هذا الجهاز يقوم بتبليط واستخدام ويث طاقة موجات لاسلكية، وقد يتسبب في حدوث تداخل ضار مع الاتصالات اللاسلكية إذا لم يتم تركيبه واستخدامه حسب التعليمات. ومع ذلك فلا يوجد ضمان بعدم حدوث تداخل عند التركيب بطريقة معينة. وإذا تسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار مع استقبال الراديو أو التلفزيون والذي يمكن تحديده من خلال تشغيل وإيقاف الجهاز، يرجى منك محاولة تصحيح هذا التداخل بالقيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

- تغيير اتجاه أو موضع هوائي الاستقبال.
- زيادة المسافة بين الجهاز وجهاز الاستقبال.
- توصيل الجهاز بملخ كهربائي موجود على دائرة كهربائية مختلفة عن الدائرة التي تم توصيل جهاز الاستقبال بها.
- قم باستشارة الموزع المعتمد أو أحد الفنيين من ذوى الخبرة بأجهزة الراديو أو التلفزيون لطلب المساعدة.



740968-0010

**BOSE**  
*Better sound through research®*

©2015 Bose Corporation, The Mountain,  
Framingham, MA 01701-9168 USA  
AM740968 Rev. 00